



تفسیری کوردی
له که لایمی خوراوه ندی



تەفسىرى كوردى

لەكچە لاسى خوراوه ندى

مەلەي گورە
(مەلامىرى كۆي)

بەرگى يەكەم

جوزنى (۳-۱)

لەسەر نەركى بەرپىز مام جەلال سەرۇك كۆمارى عىبراقتى فیدرال ئەچا پىدراوه



ماڦى له چاپدانه وهى پاريژاوه

نـاوى كـتـيـبـ: ته فسيري كوردى له كهلامى خوداوه ندى
 نـوسـ: مهلاى گه وره امهلا محمدى كوښى
 بلاو كـردنـه وهى: نوسينگه ي ته فسير / بو بلاو كـردنـه وهى راگه بانـدنـه وهولير
 پـيـتـ: علي صلاح الدين
 نـهـخـشـه سـازى: جومعه صديق كاكه
 خـتـ: نهوزاد كوښى
 بـهـرگـ: ئەمىن مخلص
 بهراوردى دهستنوس
 له سهـر كوښپوټـهـر: اسماعيل طه- شنو حمدامين- ارسلان رحمان محمد
 سـالـى چـاپ: ١٤٣٠ك - ٢٠٠٩ز
 تـيـراژ: ٢٥٠٠ دانه

له كتيبخانه ي گشتى ههولير ژماره ي سپاردنى (١٣٥) ي سالى ٢٠٠٧ دراوه تى


 بو بلاو كـردنـه وهى و راگه بانـدن
 ههولير- شهقامى دادگا - ژنر كوتلى شيرين پالاص
 ت : ٢٢٢١٦٩٥ - ٢٢٣٠٩٠٨ - ٢٥١٨١٣٨
 موبایل : ٠٧٧٠ ١٣٨ ٧٢ ٩١ - ٠٧٥٠ ٤٦٠ ٥١ ٢٢
 tafseeroffice@yahoo.com
 tafseeroffice@maktoob.com
 altafseer@hotmail.com



مه‌لای گه‌وره ۱۸۷۶-ز-۱۹۴۳ز

تەنھا بەناوى خودای تاك و پاك

هەرزەكار بوم، دەربارەى قورئان و تەفسیرەکانى، تازە چاوم کرابۆوه، بە پەرۆشەوه حەزم دەکرد لەم بوارەدا شارەزایى و زانینم پتر بى و گشت بابەتەکانى بخوینمەوه و لە هەزرم دا بچەسپى.

لە ئاستى زانستیم دا زێدە دەبزاوتم، کە باسى تەفسیری قورئان بە (کوردی) دەکرا، هەندى لە دۆست و هاوڕى یان و مامۆستایانم دەیانگوت: هیچ نەکراوه، ئەوهى لەبەردەستە و لەبەرچاوانە لە ئاستى نزم دایە و هەولى بى هۆدەن. جا نمونەیان بە مەلای گەورەى کۆی دەهینایەوه، گوايه تەفسیری سەرەتای (سورەتى التین) بەم شێوهیه کردووه: (قەسەم بە هەنجیر، قەسەم بە زەیتون)، کە بە پیکەنینىکى تالەوه کۆتایى بەم دیمەنە دەهات.

لەسالى ۱۹۹۶ کە بو چاگردنى تەفسیری قورئانى پیرۆز بە قەلەمى مامۆستای خوشەویست (عثمان عبدالعزیز) خودا لەرۆژى دواى پایەى بەرزکات، دەستم پیکرد، هەندى گەنج و لاوى بیرو هوش کراوه، دەستخۆشى ئەم کارە پیرۆزەیان لى کردم.

جا ئەوان کە تەواوى دەستنوسەکەى (تەفسیری کوردی) یان بینیبو، ئاواتەخواریان دەربری، کە دواى چاپى تەفسیرەکەى مامۆستا عثمان، تەفسیرە نایاب و ناوازه و واقع بینانەکەى جەنابى مەلای گەرەش بخەینە سەرەتای بەرنامەى چاپەوه و لەدنیای چاپ دا، چاوى رۆشنى هەلبینى.

لەلام زۆر سەیر بوو، کەوتمە پرسىارى سەرسورمانەوه، گوتم: چۆن؟! گوتمان: تۆ بیخوینەوه و سەرنجىکى دلراستانه و واقعىانەى لى بدە، بزانه چ گەنجینەیهکى پر مروارى زانستى بە هاواری تیدا بەدى دەکەیت.

دواى تێپەرپوونى ماوهیهک دانەیهکى ئەو سى جوزئەى، کە لە چاپخانەى الأعظمای بەغدا چاپکراوو، بەدەستم هینا، هەر لە خویندەوهى سەرەتای سورەتى فاتیحەدا، هەستم کرد لە چنارۆک، کوردستان و هەموو دنیات لى دیاره.

ههستم ده کرد خۆم ئەو گەنجینه بەھاوارەم دۆزیتەو، که هه گبهی خۆم لى پر ده کرد. جا ناخم هاواری ده کرد: سلّو، ئافه رين ئەى گه وره (أياها العظيم)!!
 رۆژيک مامۆستايه کى ئايىنى دۆستمان گوتى: ئەگەر تهفسيره کهى جهنابى مهلاى گه وره به چاپ بگه يهنى، گه وره ترين جيهادت کردوو.

گوتم: بۆ؟
 گوتى: چونکه، ئەو راستيانەى ئەو باسى ده کات، ئەگەر من باسى بکه م، شاربه دەر ده کریم، به لام مهلاى گه وره له گوپيشدا هەر (سه روکه)، به ربه رچى ناکریت.

گوتم: باشه، با بچينه لای مامۆستا مهسعودى کورپه گه وره کهى، بزانيه ئەو چى ده لى، تا مۆله تى ليوهر گرین.

مامۆستا مهسعوديش، به پيشنياره که مان خو شحال بوو، گوتى: رۆژيک ده چينه شارى (کوپه)، ده ستنوسى تهفسيره که تان ده ده مى.

پيم گوت: مۆله ت ده دهى ليژنه يه کى بۆ پيک بيئين و، ليکو لينه وه وه په راويژ بۆ تهفسيره که بکه ين؟

ديار بوو چه زیده کرد خۆى به م کاره هه ستى، به لام گوتى: خۆم سه رقالم و کاتم نيه، ئەگينا هيج که سيک وه کو من شاره زاي ئەم تهفسيره نيه، ئاگادارم به وانه گرنگه کانى و نمونه و بابه ته کانى و، ئەو روداوانهى، که باوكم گيراپه تيه وه، هه روا ئەو که سايه تيانەى له ناوه روکدا باسکراون به بى ناوه ينيان.

منيش زۆر تکام ليکرد به م کاره پيروژ و گرنگه هه ستى و ئەنجامى بدات، به لام بى هوده بوو. ده شم بينى کارى رۆژگار و فره کارى به رده ستى ئەو، مۆله تى پى نادن. هه رواش بوو، ههروه ک بليى مهلاى گه وره له ژيانيدا بيت و کورپى گه وره لى ده ست بدات، به لام هيوابر نه بووم، چونکه ئوميدىکم به تا که قوتابى مهلاى گه وره بوو، که ئەو يش مامۆستا مهلا قادرى کانى دهر به ندى بوو، له ويش بى ئوميد بووم، چونکه هه واليان پيدام، که ميرگى ژيانى ئەو، زه رده ده چيته وه و ئاوه دانى تيدا نه ماوه..

جیی ئاماژه پیکردنه دواى کۆچکردنی مامۆستا مهسعود، هیشتا دهستنوسه کانم وهرنه گرتبوو، بهلام کاک محمدی کورپی مامۆستا مهسعود و مامۆستای برادهرم شایهت بوون.

دیاره سهرحهم بهرهم و دهستنوسهکانی مهلای گهوره کهوته زانکۆی کۆیه، پهروهردگاریش کاری خۆی کرد، ئهوهبوو ئهوانیش لهپێی دکتۆر جهواد چۆم ههیدهریهوه، ئیمهیان بو ئهم کاره راسپارد، که دهستنوسه کانمان بهدهست گهیشت، دواى ننگهریانیهکی زۆر، به خوشهویسته کهمان شاد بوین.

شاد باش آی عشقی خۆشی سوادیی ما

آی تیبیی جمله علتهاى ما

آی دوايی نخوت نامومی ما

آی تو أفلاطون جالینیوس ما

من تهزبیی مهلای گهوره ناکهم، چونکه تهنها پیغمبه ﷺ مونهزههه، بهلام ئهم شاکاره بهرزهی مهلای گهوره، نیشانهیهکی زهق و لوتکهی ههربهززی زانست و هزر و رۆشنبیری کوردیه. راسته تهفسیری قورئانه، بهلام ئاوینهیهکی رون و گهشه، که کورد به زهقی خۆی تیدا دهبینیتهوه.

فه رهنگ و دیوانی کۆمهنگه کوردهواریه.. میژووه، هزره، فهلسهفهیه.

بهراستی سهیره، بیراریکی وا لهو کوردستانه دابراوه و دواکهوتووی ئهو سهردهمه، ئهو ههموو پهیههندیهیه به ههموو دنیاوه ههییته.

ئیمهش و لیژنه ی سهیرهشتی چاپکردنی تهفسیری مهلای گهوره، بهباشمان زانی شیوهی نویسی کوردی تهفسیره که وه کو خۆی بنوسینهوه، ههوره که نه جیبه خانی کچی مهلای گهوره له پیشه کی بهشی دووهم و سییه می تهفسیره که، که لهسالی ۱۳۹۰ک- ۱۹۷۰ز چاپکراوه، ئاماژه ی پیکردوه و گوتیه تی: (دهرباره ی شیوه ی نویسی کوردی دانهر، که نویسنه که ی پره له وشه ی گران و رهقی عه ره بی، که له گه ل کۆششی ئیستای نوسهران بو پاک کردنه وه ی زمانی کوردی ناگونجی...))، ئیمه ییش ده لیین: له بهر ئه وه ی ئهم کتیه نمونه ی سهردهم و چه رخیکی تایبه تی له میژووی ویژه و نویسی کوردی دا، گۆرین و دهستکاری کردنی ناپاکیه که بهرامبه ر میژووی ویژه و سه رلیشیوانیکه له چاو ئهو میژوو نویسه ی

بیهوی پله پله له گهڵ ههنگاوه کانی زمان و وێژهی کوردیدا سههرکهوی و دیراسهتی
ماوهیهک له ماوه کانی میژوی وێژه و زمانی کوردی بکات.

به گویهری جووری خویندهواری دانهر و دهوڕوپشت و ئهو چوارگۆشهیهی لیبی
ژیاوه.. شیوهی نویسی، بهلگهیهکی میژووییه بو ههموو نویسن و وێژهی هاووینهی
ئهو له مزگهوتهکانا.. له کۆن و تازه، ههر دهستکاریهک له نووسینهکی فیلی
کردنه له خویندهوار..

(تهفسیری کوردی)ی جهنابی مهلای گهوره، ههروهکو خووی نویسیهتی،
پیشکەشی گشت زانا و داناو روڤشنگر و خویندهوارانی کوردستان دهکەین. به
پهروڤشهوه داوا دهکەین، ههر بهرپزیک له توانای دایه خزمهتیک بهم شاکاره
بهرزه بکات، لهروی لیکوینهوه له باس و بابهتهکان، یان پهراویز دانان بو
شیکردنهوهی ئالۆزیهکان و روڤکردنهوهی مهبهستهکانی له ههموو ئهو زانیاریانهی
لهخووی گرتوه، پیشکەش به نویسنهکی تهفسیر بکات، تا لیژنهی سههرپهشتی
کردنی چاپی تهفسیری مهلای گهوره، بو چاپی داهاتوی رهچاوی بکەن.
هیواخوازین روڤشنگرانی کورد به خویندهوهی ئهم شاکارهیه، دلیان روڤشن
بیته و هزریان تیتر بیت و، لهم سههرچاوه ناوازهیه بههره بهخشی بن.

مخلص یونس مصطفی
بهرپهوهبهری نویسنهکی تهفسیر
بو بلاوکردنهوهو راگهیاندن

ههولیر
٢/ذو القعدة/١٤٢٨ ک
٢٠٠٧/١١/١٢ ز

وتەى لىژنەى سەرپەرشتى كوردنى چاپى تەفسىرى مەلای گەورە

بە ناوى خوداى بەخشندەى مېھرەبان

شارى كۆيە، دەيەھا ھزرقان و شاعىر و رۆناكبرى و بلىمەت و داھىنەرى وەك حاجى قادر و دلدار و زانايانى خىزانى جەلى زادەى پىشكەش بە مىللەتى كورد كوردە، ئەگەر جمال الدىن ئەفغانى و محمد عبەدە رابەرى ئەو گەشە كوردن و نوپخووزيانەى جىھانى ئىسلامى بن، ئەوا ھەموو مىللەتى كورد قەرزارى شارى كۆيەن، بە تايبەتى مەلای گەورە بۆ ھۆشيارى و رۆناكبرى لى سەردەمى خۆى ، چونكە عەقلىەتى مەلای گەورە عەقلىەتتەكە، زۆر پىش زەمانى خۆى كەوتووە، بە ھەموو شىۋەيەك وىستوويەتى مىللەتەكە لى خەو رابى و، چى دى دواى كۆنە پەرستى و خەيال و ئەندىشە نەكەوى و، چەكى زانست تەنھا چەكيان بىت بۆ چوونە پىش لى ژياندا

ھزرقانى گەورەى كورد مەلای گەورە وىستوويەتى جارىكى تر ژيانى بىر و نىشتمان پەرورەى و كۆمەلایەتى مىللەتى كورد سەر لى نوپ دابرىژى، تا بگونجى لى گەل سەردەمدا ، ھەر بۆيەش كۆنەپەرستان و بىر تەسكان و ئەو كەسانەى دىنيان بە سوودى خۆيان بە كار دەھىنا ، دژى مەلای گەورە وەستان و بەر ھەلستىيان كورد .

يەكىك لى چەكەكانى مەلای گەورە تەفسىرەكەى بوو ، ھەر جارى رەوشەنبىرى يا ئەندامى لى خانەوادەى جەلى زادە، بەرپىز مام جەلالىان دىبى، يەكەم پرسىارى بەرپىزيان دەربارەى ئەو تەفسىرە بوو، كە ئايا بە چاپ گەيەنراوہ يان نا ؟

دوا جار بىرۆكەى چاپكردنى لى لايەن ئىمەى لىژنەى سەرپەرشتىارى بە چاپ گەياندىنى چرۆى كورد و وىستمان بەرپىز مام جەلال لى بىرۆكەيە ئاگادار بىكەينەو، ئەو بوو نامەيەكمان بۆ بەرپىزيان نووسى و ئەويش لى وەلامدا بە بەرپىز (مامۆستا سىد احمد بەرزنجى) راويژكارى ئايىنى بەرپىزيان وتبوو من رازى نام ئەو تەفسىرە

چاپ بکری و له سەر ئەرکی من نهبی، له راستیدا ئەم وتەییە بەرێزیان گەورەترین هاندەر بوو بۆ ئیمە ، چونکه گەورەترین کۆسپ له ریگای چاپکردنی ، کۆسپی دارایی بوو .

ئەم پرۆژە زانستیه ماوهیهکی زۆر و ماندووبوونیکی زۆری ویست ، ئەوەی زیاتر ئیمەیی سوور کرد له سەر بەردەوام بوون لەم پرۆژەیه بەردەوامی لیپرسینهوه و هاندانی بەرێز سەرۆک کۆمار بوو .

تەفسیری جەنابی مەلای گەورە دیارترین بەرھەمی زانستی ئەو زاتەییە ، بەلکو دەتوانین بڵین ئەم تەفسیرە، یەكەم تەفسیری زانستی قورئانی پرۆژە بە زمانی کوردی له رووی چەندایەتی و چۆنایەتی ، مەلای گەورە له سەر داوای کۆمەڵی لای شاری کۆیە له سالی ۱۳۵۲ کۆچی ۱۹۳۳ زاینی دەستی پێ کرد و، دواي (۱۰) دە سال له (۲۷) ی ذی الحجە سالی ۱۳۶۱ی کۆچی بەرامبەر بە ۱۹۴۳/۱/۵ زاینی ئەم شاکارە زانستیه بە بەرھەم هات ، جەنابی مەلا هەندیکي بە دەستی خۆی نووسیوەتەوه و هەندیکي تریش بەرێز (مامۆستا مەلا مەعسوم هەورامی) نووسیویەتیەوه .

جەنابی مەلای گەورە تەفسیرەكەي ناوناوە (تەفسیری کوردی له سەر كەلامی خوداوەندی) ، نەجیبە خانی کچی ، بەرگی یەكەمی له سالی ۱۹۶۸ زاینی و بەرگی دووهم و سێ یەمی له سالی ۱۹۷۰ زاینی بە چاپ گەیاندوو و بەرگەکانی تری ئەم تەفسیرە له چاوەڕوانی چاپکردندا بوو، رۆشەنبیران و دڵسۆزانی میللهتەكەمان خەونیان بە چاپکردنیەوه دەبینی، تا ئەم بوارە بۆ چاپکردنی رەخسا ، ئەوەی شایانی باسە ئەم تەفسیرە له لایەن لیژنەیهکی تایبەت پاك نووسکراوەتەوه، که ماوهی (۱۰) دە سالی خایاندوو و بەرێزان :

۱- مامۆستا عبدالمجید نورالدین جلی زاده .

۲- مامۆستا طاهر احمد حویزی .

۳- مامۆستا مەلا قادر کانی دەربەندی، بەم کارە پرۆژە هەلساون.

نابی رۆلی نەجیبەخان له بیر بکری بۆ پاراستنی ئەم دەسکەوتە زانستیه .

وا مزدهی تهواو بوونی ئەم پرۆژەییە دەدەینە خویندەوارانی کورد ، که ئیمە
 دلنیاين ئەم تەفسیرە که لینیکی زۆر گەورە کتیبخانە کوردی پر دەکاتەوه و
 دیدە زۆر کەسی پێ روون دەبیتەوه ، بەو هیواییە شاکارەکانی تری زانیانی کورد
 بەم شیوەیە ئاوری زانستیانه لێ بدریتەوه، خەمخۆرانی گەلە که مان بایەخی تهواو بەم
 بەرهمە زانستیانه بدن، که له روانگەپهوه بلیمهتی و شارەزایی و دلسۆزی و
 زانستپهروهري و نیشتمان پهروهري راسته قینهی گەلە که مانی تیا بەدی ده کری ،
 ههروهها لیکۆلەر و پۆشنیر و هزرقانانی گەلە که مان هان دەدەین، که به شیک له
 تهرک و ماندو بوونی خۆیان بۆ ئەم بواره تهرخان بکهن، که تهرکیکی تری زانستی و
 نیشتمان پهروهري و راستیه .

پ.ی.د. جواد فقی علی پ. د. محمد صابر

م . دانا عبدالمجید جلی زاده م . مخلص یونس مصطفی

نهوا محمد سعید



تەفسىرى مەلای گەورە

پېناسەى تەفسىرەكە .:

تەفسىرى مەلای گەورە بە پېزىترىن بەرھەمى زانستى ئەم زاتەيە، دەكرى بلىين تەفسىرى مەلای گەورە بە زمانى كوردى نۆبەرەى تەفسىرى زانستىە بۆ قورئانى پېرۆز بە زمانى كوردى .

ھەرۋەكو زانراۋە مەلای گەورە بېرۆكەى نووسىنى ئەم تەفسىرەى بۆھاتوۋە دواى داۋاكارى كۆمەللى لە گەنجانى شارى كۆيە، ئەۋەبوو لە سالى (۱۳۵۲ ك - ۱۹۳۳ز) دەستى پېكرودو لە (۲۷ ذى حجەى سالى ۱۳۶۱ ك - (۱۹۴۳/۱/۵ ز) تەۋاۋى كرد واتە دواى دەسال ۋەبەرھەم ھات .

ھەندى لە بەرگەكانى بەرپىز مامۆستا (مەلا معسوم) ھەورامى (يەككە لە ناودارتىن دەرچوانى قوتابخانەى مەلای گەورە) نوسىۋىەتتەۋە، بەلام بۆ پاك نوسكردنى ئەم تەفسىرە لە سالى ۱۹۶۹ ز لە شارى كۆيە ليژنەيەك لە بەرپىزان .:

۱. مامۆستا مەجىد شىخ نورى .

۲. مامۆستا مەلا عەبدولقادرى كانى دەرپەندى .

۳. مامۆستا طاھر احمد ھەۋىزى .

پىك ھات بە مەبەستى پاك نوسكردنى ھەموو بەرگەكانى، ئەم كارەش لە ماۋەى ۱۰ سال ئەنجام درا، مەلای گەورە تەفسىرەكەى ناۋناۋە (تەفسىرى كوردى لەسەر كەلامى خوداۋەندى)، دەستنوسى ئەم تەفسىرە لە ۳۰ بەرگ پىك ھاتوۋە، ھەربەرگەى لە ۱۵۰ تا ۳۰۰ لاپەرەى گەورە پىك دىت.

- نەجىبەخانى كچى مەلای گەورە ھەلسا بە بەچاپ گەياندىنى بەرگى يەكەمى ئەم تەفسىرە لە سالى ۱۹۶۸ ز، بەرگى دوۋەم و سى يەمىشى لە سالى ۱۹۷۰ ز. بەچاپ گەياندى، بەلام بەرگەكانى ترى ئەم تەفسىرە ھەر لە چاۋەرۋانى بە چاپ

گه یاندندا بوون، تا بهر پیز مام جه لال فرمانی کرد له سه ر ئه رکی بهر پیزیان چاپ بکرین.

- له سه رچاوه کان زۆر به که می باسی ئه م ته فسیره کراوه، ئه وهی وترایش بریتی بوه له هه ندی پهر او پز له سه ر بهرگی ئه م کتیبه، یا ئه و کتیبه ی زانایه ک له زانایه کان نوسیویه تی، که به زۆری له گه ل ئه و هه موو شته به نرخانه ی میله ته ی کورد له و رۆژگار ه دا فه و تا .

یه کیك له و که سانه ی ئیجازه ی عیلمیان له جه نابی مه لای گه و ره وه رگرتوه، مامۆستا مه لا عه بدولقادر کانی ده ربه ندیه، که له سالی (۲۰۰۶ ز کۆچی دوایی کرد) .

ده رباره ی ته فسیری مه لای گه و ره ده لی: ئه و که سه ی ته فسیری جه نابی مه لا بخوینیته وه، گه ر خۆی هه ر بیرو باوه ر و رۆشنیری ه کی هه بی، کاتی ئه م ته فسیره ده خوینیته وه ده گاته قه ناعه تی، که جه نابی مه لا به م ته فسیره مرۆف پهروه رده ده کات، چونکه ئه م ته فسیره هه ولئیکه بو دروست کردنی مرۆقی زانا و سه ربه ست و ئازاد ، سه ربه ست و ئازاد له هه موو به دوکه وتنی ئه ندیشه و خه یالی پرۆپوچ، ئه وه ی ئه م ته فسیره له ته فسیره کوردیه کانی سه رده می خۆی جیا ده کاته وه ئه وه یه، که مه لای گه و ره به رای هه موو که سی رازی نیه له ته فسیره کۆنه کان، به لکو گه تو گو و هه لسه نگاندن ده کات له سه ر ته فسیره کانی قورئان به زمانی عه ره بی، جگه له مه ش زۆر جار هۆی دابه زینی ئایه ت باس ده کات، دوای هه لسه نگاندن و لیکۆلینه وه له مانای ئایه ته کان رای خۆی ده نوی، ئه وه ی ده نویسی رای خۆدی خو یه تی، زۆر جار ییش زۆر بواری زانستی تیکه ل به ته فسیره که ی ده کات .

وه ک مامۆستا مه سعود محمد ده لی: مه لای گه و ره له ته فسیره که ییدا زۆر شتی باس کردوه، که محمد عبده له ته فسیره که ی خۆی لی که نار گرتوه .

مه لای گه و ره له کۆتایی ته فسیره که ی داوای لیبوردن له خوینه ران ده کات، ده لی ئه م ته فسیره بی که م و کورتی نیه، هۆی که م و کورتیه که ش له پێشدا په یه ندی به زمانه وه هه یه، زمانی قورئانی پرۆز زمانیکی تایبه ته، گه ر یه کی به زمانی

عه ره بی بیه وی ته فسیری قورئان بکا توشی گرفت دی، جا چۆن گهر به زمانیکی تر ته فسیری قورئان بکا !

له راستیدا ئەم ته فسیره ی مه لای گه و ره چاکترین ته فسیری قورئانه به زمانی کوردی، ئەمەش ئەو ناگه یه نی که ئەم ته فسیره بی کهم و کوری بی. به کی لهو خالانه ی مرۆف به دی ده کا له سه ره ئەم ته فسیره ئەوه یه: مه لای گه و ره جاری و اه یه به پیچه وانه ی زۆر له زاناکان بو ته فسیری ئایه ته کان ده چی. ئەوه ی جینگای سه رنجه ته فسیره که ی مه لای گه و ره بو زانایان نوسراوه، بۆیه زۆر له و که سانه ی ئاستی رۆشن بیریان به رزنیه له زۆر مه سه له کانی ناو ئەم ته فسیره تی ناگهن.

سه رچاوه کانی ته فسیره که :

مه لای گه و ره له دانانی ئەم ته فسیره، سو دی له زۆر کتییی ته فسیری عه قلی و نه قلی وهرگرتوه، وهك خۆی له کۆتایی ته فسیره که ئاماژه ی پی کردوه. هه ندی له و سه رچاوانه ی مه لای گه و ره له ته فسیره که یدا ئاماژه به وه ده کات، که سو دی لی وهرگرتون ئەمانه ن :

۱. جامع البيان فی تفسیر القرآن - دانانی ئەبو جه عفه ره محمدی کوری جه ریری ته به ری (له سالی ۳۱۰ ک) کۆچی دوایی کردوه.
۲. مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) دانراوی فخرالدین محمد بن عمر البکری.
۳. الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوب التأویل - دانراوی ئەبو قاسم محمودی کوری عمری زه مه خشری.
۴. انوار التنزیل و اسرار التأویل - دنراوی ناصرالدین عبدالله کوری به یزاوی.
۵. غرائب القرآن و رغائب الفرقان - دانراوی نظام الدین - هه سه نی کوری محمدی قومی، خراسانی، نيسابوری.
۶. ارشاد العقل السليم الی مزایا الكتاب الکريم - دانراوی ئەبو سعودی محمدی کوری محمد مسته فای نامیدی.

۷. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی - دانراوی ئەبو ئەنا شهاب الدین مەحمود ئالوسی .

۸. تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار) دانراوی محمد رشید رەزا .

۹. الجواهر فی تفسیر القرآن الحکیم - دانراوی سەید تەنتاوی .

۱۰. تەفسیر جزء عمّ - دانراوی ئیمام محمدعەبدە .

هەر وەها مەلای گەورە لە تەفسیرە کەیدا پرای زۆر لە زانایانی تەفسیر لە یارەرانى (پینغەمبەر) و ئەوانەى دواى ئەو هاتوون باسکردوو، وەك : . عەبدوللای كورپی عباس، ئیبن ئەبى لەیلا، ئیمام حەسەن بەسرى، ئەبو عەبدولرحمن ئەسودى كورپی یەزید، ئیبن قەیسى نەخەعی، ئەبو حەنیفە (نەعمانى كورپی ثابت) جەلالەدینی سیوتى .

کورتەى ژيان و بەسەر هاتى مەلای گەورە

بە پینووسی : د. جواد ملا محمدامین چۆم حەیدەرى

ناو و نازناوى .:

ناوى مەلای گەورە (محمدى كورى مەلا عبداللهى كاك ئەسـعەدى جەلى، كۆيىيە)

لە سەرەتايى ژيانى بە كاك حمد ناويان بردو، دواى كۆچى باوكى بۆتە سەرۆكى زانايانى ئاينى دەقەرى كۆيە، بە مەلای گەورە ناوبانگى دەركرد، بە شىۆهيهك كه ئەم ناوہ بۆتە ناوبانگى ئەم زاتە و لە كتيبەكانى ميژوو و ئەدەبى كوردى ھەر بەم ناوہ دەبردريت .

لە داىك بوون و ژيانى :

ئەم زاتە لە شارى كۆيە لە سەرەتاي مانگى پەجەبى سالى (۱۲۹۳ ك) بەپرامبەر بە (۱۸۷۶ ز) لە ژير سايهى خيزانيكى زانستى (كە رۆلتيكى گەورەيان لە خزمەتى زانست و شكۆمەندى بۆ گەلى كورد تۆمار كردو) لە داىك بوو .

جىگای بايهخى خيزانهكەى (بە تايبەتى باوكى مەلا عەبدووللاى جەلى) بو، ھەر لە سەرەتاي ژيانىھوہ لى ھاتويى و زيرەكى تيابەدى دەكرا .

لە تەمەنى پينچ سالى، داىكى كۆچى دوايى كردو، ئەمەش واى كرد باوكى زياتر بايهخى پى بدا، ھەر بۆيەش ھەندى جار پى يان وتوہ يوسفى جەنابى مەلا عەبدووللا .

زۆر جاريش باوكى بە بەيتى شيعر ھانى داوہ، تا خۆى لە گەل ھویندن و ھەرگرتنى زانست و پابەندبوون بە رەوشتى بەرزى ئيسلام خەريك بكا .

خویندنی مه‌لای گه‌وره .:

مه‌لای گه‌وره له سالی (۱۳۰۴ ك) به‌رام‌به‌ر به (۱۸۹۳ ز) دهستی به‌خویندن کردوه، سه‌ره‌تا به‌خویندنی قورئانی پی‌رۆز و چەند نامیلکه‌یه‌کی فارسی _ که‌ئه‌و سه‌رده‌مه‌له‌ خویندنگه‌ ئاینیه‌کانی کوردستان ده‌خویندرا _ دهستی به‌خویندن کرد، دوا‌ی ته‌واوکردنی‌ئه‌و کتێبه‌ سه‌ره‌تایینه‌، دهستی به‌خویندنی زانسته‌کانی (نه‌حو، سه‌رف، فیه‌ه) کرد له‌ سه‌ردهستی هه‌ندی‌ له‌ فه‌قی گه‌وره‌کانی باوکی .

یه‌کی‌ له‌و مامۆستایانه‌ی، که‌ ره‌نگدانه‌وه‌یه‌کی دیاری هه‌بووه‌ له‌ دارشتنی که‌سایه‌تی زانستی مه‌لای گه‌وره (مه‌لا حه‌مید تالیشی یه) به‌ پله‌ی دووهم، دوا‌ی مه‌لا حه‌مید به‌رپێز (مه‌لا حه‌مه‌ده‌مینی کونه‌فلوسه‌یی) دی، که‌ پۆلیکی گه‌وره‌ و دیاری هه‌بووه‌ له‌ پێ گه‌یانندی‌ ئه‌م زاته‌، هه‌روه‌ها ئه‌م زانایانه‌ش پۆلیان هه‌بووه‌ له‌ فیه‌رکردن و ده‌رس و وتنه‌وه‌ به‌ مه‌لای گه‌وره .:

مه‌لا حسن ره‌ش .

مه‌لا عه‌بدووه‌ جه‌مانی گه‌ناوی .

باوکی (مه‌لا عه‌بدووللای جه‌لی) .

ئه‌وه‌ی جینگای سه‌رنجه‌ له‌ ژینانی زانستی مه‌لای گه‌وره‌، متمانه‌ به‌خۆبونه‌، به‌مه‌ش که‌سایه‌تیه‌کی تایبه‌تی بو‌ خۆی دروست کردوه .

وا ده‌رده‌که‌وی مه‌لای گه‌وره‌ زۆر مه‌به‌ستی خویندن و فیه‌ربوون بوه‌، وه‌ک خۆی ده‌لی‌ وازی له‌ هه‌موو که‌یف و سه‌فایه‌ک هه‌یناوه‌ و روی کردۆته‌ فیه‌ربوون و به‌ دوا‌ دا‌ چوونی زانست، به‌ تایبه‌تی کاتی، که‌ گه‌یشته‌ته‌ ته‌مه‌نی (۱۷) سال .

که‌ وه‌ک خۆی ده‌لی‌ :

ده‌رگه‌ی له‌ زه‌تم له‌سه‌ر خۆ به‌ست

چی علوم هه‌بووه‌ به‌ ده‌ستم خست

مامۆستا (مه‌سه‌عود محمد) له‌ زاری باوکیه‌وه‌ ده‌گه‌یته‌وه‌ ده‌لی‌ : له‌م ساله‌دا قوتابخانه‌که‌م (که‌ مزگه‌وته‌که‌ی بوو) قه‌ت جی نه‌هه‌یشه‌وه‌، تاساته‌کانی دره‌نگی شه‌و خه‌ریکی خویندن بووم، له‌ مزگه‌وت ده‌مامه‌وه‌ و هه‌ر له‌بهر و زیکرا‌بووم، زۆر جار له‌

شهو زهنگی تاریکیا ههستم به دلنیایی ده کردو و نارامیه کی دهرونیم به دی ده کرد، که دواي شهوه قهت رپک نه کهوته وه بۆم .

مه لای گه وره له سه ر دهستی کۆمه لئی زانای به نوبانگی زانسته ئاینیه کانی ئیسلامی، که کورد بوون خۆی چه کدار کرد به عیلم و مه عریفهت، تا بوه ته ستیره یه کی دره وشاوه له ئاسمانی زانست و بیری ئیسلامی، شه وه بوو له ته مه نی (۲۰) سالی ئیجازه ی عیلمی له باوکی (مه لای عه بدوللای جه لی) له ئاهه نگیکی گه وره دا وه رگرت، که به م بۆنه یه وه سازدرا و کۆمه لئی زانا و شاعیر و ناودارانی شاری کۆیه تیایدا ناماده بوون .

ده رس و تنه وه و پیش نویژی :

دواي شه وه ی مه لای گه وره خویندنی ئاینی ته واو کرد و ئیجازه ی عیلمی وه رگرت، له سه ر شیوازی ژیانی باوکی، له جیاتی شه وه دهستی کرد به ده رس و تنه وه و پیش نویژی و گوتار خویندنی رۆژانی ههینی، باوکی زۆر کاروباری کۆمه لایه تی و ئهرکی ئامۆژگاری خه لکیشی به و سپارد .

مه لای گه وره دواي ماوه یه کی که م وه ک یه کیك له زانا ناوداره کانی کورد نوبانگی ده رکرد، ده یه ها فه قی و خویندکاری خویندنی ئاینی له شاره کانی کوردستان پرویان له کۆیه ده کرد، بۆ شه وه ی شه ره فی ده رس خویندنیان له لای مه لای گه وره به ر بکه وی .

له دواي وه فاتی باوکی (پایزی ۱۳۲۶ ک ۱۹۰۸ ز) ئهرکه کانی سه رشانی مه لای گه وره زیاتر بوو ، هه ر له م رۆژانه وه کیشه کانی ژیان پرویان تی کرد، هه روه ک خۆی ده لئی باری ژیانی قورس بوو، ناچار ژیانی دابه ش بوو به سه ر ده رس و تنه وه و کارکردن له کیلگه بۆ به ده ست هیانی بژیوی ژیان .

تاریکخوازان هیرشیان بۆ سه ر مه لای گه وره زیاد کرد، ده یان ویست هه راسانی بکه ن له به ر شه وه ی له م سه رده مه ی ژیان، گه وره ترین هاوشتیوانی له ده ست دا، که باوکی بوو، ده بی شه وه ش بلین هه ول و کۆششی شه رخوازان نه ییتوانی مه لای گه وره له سه ر رپیازه که ی سارد بکاته وه .

له سالی (۱۹۱۲ ز) له سهر داواي حكومهتي عوسمانی بوه موفتي شاری كۆیه، زۆر بهرپك و پيكي بهم كاره ههلسا، كيشه كۆمه لایه تیه كانی خهلك لای تهو چاره ی بۆ ده دۆزرایه وه، له م سهرده مه دا په یوه ندییه کی پتهوی له گه ل (والی موصل - سلیمان نه زیفی دیاربه کر) گری دا، دواییش له شاری موصل سهردانی کرد، ههر لهوی له کاتی کردنه وهی جاده یه کی نوی، داوا له مه لای گه و ره کرا وتهیه ك به زمانی عه ره بی بخوینیتته وه، مه لای گه و ره ش داواکاریه که ی جی به جی کردو، به وته که ی سهرنجی ناماده بوانی بۆلای خۆی راکیشا، ههر له و کاته دا داواي له والی موصل کرد قوتابخانه یه کی روشدییه له شاری كۆیه بکاته وه . والیش ره زامه ندی ده برپی، قوتابخانه که له سهر زهویه ك که به شیک بوو له مزگه وتی گه و ره دروست کرا، (تا سالی (۱۹۵۷ ز) ته م قوتابخانه یه ههر به رده وام بوو).

له سالی (۱۹۱۵ ز) به رامبه ر (۱۳۲۴ ك) بوه ته ندامی ته نجومه نی ویلایه تی موصل، ههر له م سهرده مه دا له لایهن (سولتانی عوسمانی - محمد ره شاد) نیشانه ی مه جیدی - پله ی سی یه می پی به خشرا .

له سالی (۱۹۱۹ ز - ۱۳۳۷ ك) بوه دادوه ری شاری كۆیه، بۆ ماوه ی ده سال له م کاره دا به رده وام بوو، ته وه ی شایانی باسه برپاره کانی دادگایی به زمانه کانی (فارسی - تورکی - عه ره بی - کوردی) نویوه .

له سالی (۱۹۲۴ ز) له سهر داواکاری خه لکی شاری كۆیه به ته ندامی ته نجومه نی دامه زرینه ری عیراقی (المجلس التأسيسي العراقي) هه لبرژیدرا، بۆ ته م مه به سته ش له کۆتایی مانگی ئاداری (۱۹۲۴) چوه به غدا، تا مانگی ئابی ته م ساله لهوی مایه وه، و دواپی گه رایه وه شاری كۆیه .

دواي گه پانه وهی بۆ شاری كۆیه، گه رایه وه سهر کاره که ی پیشوی به دهرس وتنه وه و دادوه ری و ئامۆژگاری موسلمانان، تا سالی (۱۹۲۸ ز) له م کاره دا به رده وام بوو، دواپی وازی له وه زیفه هیناو هه موو کاته کانی بۆ دهرس وتنه وه و نوینی کتیب ته رخا ن کرد .

سالى (۱۹۳۰ ز) به سالى گه‌يشتنى مه‌لاى گه‌وره به لوتكه‌ى تيگه‌يشتنى بيرو
 فه‌لسه‌فه‌ى مه‌لاى گه‌وره ده‌ژمي‌ردى، چاكترين به‌لگه‌ش شه‌ويه مه‌لاى گه‌وره له‌م
 سه‌رده‌مه‌دا ده‌ستى كرد به دانانى شه‌م ته‌فسيره‌ى قورئانى پيروز، شه‌وه‌ى شايانى باسه
 مه‌لاى گه‌وره به‌وه ناسراوه هه‌يبه‌ت و ريزى تايبه‌تى هه‌بووه له‌لاى هه‌موو خه‌لكى
 شارى كو‌يه و كوردستان، جيگاي خو‌ى له‌ دللى خه‌لك كرد شه‌وه، به‌قسه خو‌شه‌كانى
 و هه‌لس و كه‌وتى ريك و پيكي له‌گه‌ل خه‌لك - كه سه‌رنج راكيش بوه - ناوبانگى
 ده‌ركردوه خه‌لك له هه‌موو لايه‌كى كوردستانه‌وه تامه‌زرۆ بوون به ديدارى شادين،
 ناسراوه به‌وه‌ى شه‌و شتانه‌ى كه برواي پي بووه له ژيانى خو‌ى جي به جي ي كردوه،
 قه‌ت بارودوخى ژيان و ترس له خه‌لك واى لي نه‌كردوه واز له بيروپرواي خو‌ى بينى،
 به پيچه‌وانه‌يانه‌وه هه‌لس و كه‌وت بكات، زۆر سه‌ر به‌رزانه ژيانى به‌سه‌ر بردوه و قه‌ت
 تاماده‌نه‌بووه به گو‌يرايه‌لى و ويستى به‌ر پرسان قسه بكا، هه‌موو كاتى له ژيان
 پشتى به خو‌ى به‌ستوه و چاوى له ده‌ستى كه‌س نه‌بووه .

دوا پۆژه‌كانى ژيانى .:

مه‌لاى گه‌وره له سه‌ره‌تاي ژيانيه‌وه توشى نه‌خوشى سوتانه‌وه‌ى گه‌ده (قرحة
 المعدة) بووه، به‌لام شه‌م نه‌خوشيه له دواين پۆژه‌كانى ژيانى زياتر هه‌راسانى كرد،
 تا له كو‌تايى مانگى شه‌يلولى (سالى ۱۹۴۳ ز) كاتى له چنارۆك بو شه‌م نه‌خوشيه
 بو جاريكى تر تينى بو هينا، ناچار گه‌رايه‌وه كو‌يه و له ژي‌ر چاوديري پزيشك دانرا.
 له پۆژى (۱۰ و ۱۱ ي تشريني دووه‌مى سالى ۱۹۴۳ ز - ۱۳۶۲ ك) خو‌ينى
 گه‌ده‌ى به‌رده‌بى، له‌پيشدا ده‌وه‌ستينى، دوايى جاريكى تر به‌گورتر له‌جاران شه‌و
 خو‌ينه به‌رده‌بى، هه‌ر شه‌م نه‌خوشيه ده‌بيته هوى گيان له‌ده‌ستدانى، له‌پۆژى (۱۳)
 تشريني دووه‌مى سالى ۱۹۴۳) له گو‌رستانى ده‌رويش خدر به خاك سپي‌ردرا.
 به بيستنى كو‌چى دوايى مه‌لاى گه‌وره، شارى كو‌يه و كوردستان شه‌له‌ژا، خه‌لكى
 كوردستان هه‌ستيان به له‌ده‌ست دانى گه‌وره پياو و زاناي به‌ناوبانگيان - مه‌لاى
 گه‌وره - كرد .

له كۆيە و زۆربەي شارەكانى كوردستان - وهك شارى مههاباد - پرسەي بۆ دانرا، زانايان و هزرقانانى ميللهتى كورد پرسەيان ليك ده كرد، چهندهها هۆزان و په خشان له لايهن شاعيران و نوسهراى كوردەوه بۆ لاواندنهوهي ئەم زاته نوسرانهوه، مهلاي گهوره له ژيانى دوجار ژنى هيناهه، جارى يه كهم كاتى له ته مهنى (۲۵) سالىدا بوو (نه عيمه ي كچى مه لا حەبیبى كورپى كاك ئەسعه دى جهلى) هيناهه، كه سالى ۱۹۱۱ ز كۆچى دوايى كردوه، بۆ جارى دووهم له سالى ۱۹۱۳ ز (حەبیبه ي كچى شىخ رهزاي كورپى شىخ قادري سنډولانى) هيناهه، له ژنى دووهم (۲) كورپ و چند كچىكى هه بوه، كورپى يه كه مى ناسراوه به مسعود محمد، كه له سالى ۱۹۱۹ ز له چنارۆك له داىك بووه، كه يه كيكه له نوسه ره ناوداره كانى ميلله تى كورد، دهيه ها كتيب و دانراوى زۆر به نرخى نوسيووه و پيشكه شى كتيبخانه ي كوردى كردوه، يه كيكه بووه له و كه سانه ي به زمانى كوردى و عه ره بى ده ياننوسى و به بهر زترين هزرقانى سه رده مى خۆي ده ژميردريت، ئەو يش له (۲۰۰۲/۴/۱) كۆچى دوايى كرد، دووه ميان مامۆستا فاروقه له سالى (۱۹۳۳ ز) له كۆيه له داىك بووه مامۆستايه كى سه ركه وتوى بوارى پيسپۆرى خۆي بوه .

له كچه كانى مهلاي گهوره .: (نه جيبه خانى) كچيه تى، له سالى (۱۹۱۷ ز) له كۆيه له داىك بووه، زۆر نوسينى جوانى هه يه، هه ر ئەو يش بوو كه توانيو به تى زۆربەي به ره مه مه زانستى و ئە ده بيه كانى مهلاي گهوره بياريزى، ئەو يش له سالى (۱۹۹۹ ز) كۆچى دوايى كردوه، ههروه ها له ژنى دووهمى سى كچى ترى هه بوه (ثوريا خان)، (ئە ديبه خان)، كه له سالى (۱۹۷۲ ز) كۆچى كردوه (ئيقليمه خان)، له (سالى ۱۹۹۹ ز كۆچى دوايى كردوه) .

پیشہ کی

دوای سوپاس و ستایشی ٹیزہدی دانا، زندووی توانا، کہ ئینسانی له زہرہیخ دروست کردووه؛ وه له پرووی لطف وکهرهه بۆ ری نیشان دانی به شہر، پیغہمبہرانی گہورہ گہورہی هہناردووه ...

وه پاش عہرضی دروود و سہلام بۆ دہرگاہی خاتمی نبووت زینہت - دہہندہی منقہبہی رسالہت، خاوند و ہعی و ئیلہام، سہرداری ہونہرمہندان و قسہزانی (انام) - محمد المصطفی - علیہ الصلاة والسلام، ئہو نوورہ دہرخشانہ، کہ ئیمہی له تاریکی نہزانی بۆ پوناکی بردووه ...

وه پاش دیاری اخلاص له دلای خاوین و پوناک و، پیہہ لاگوتن و ناوبردنی چاکی بہ زوبانی راست و پاک، بۆ خزمہت یاران گزینی احمدی، کہ ضیای ئیمانیاں له رۆژہ لآت و رۆژاوا ہہ لای ساندووه ...

ئہ لئین، له پرووی (تاسف) و حہسرہتہ و مہندی، زۆر حہیف و زۆر مخابن، کہ تا ئیمرو تہفسیری بہ زوبانی کوردی بۆ کہ لامی خوداوندی نہکراوه؛ باوجودی (لسانی) عہرہبی ئہوہندہ کتیبی تہفسیر تالیف کراوه، کہ ژماردنی زہحمہتہ! ئیستاش مہ لایانی عہرہب خہریکن لہ رسائلی ئہ وروپایان، له (مجلات) و جرائدی (یومیہی) مصریان قسان کوئہ کہ نہوہ ... دوور و دریژ ئہیکہن بہ تہفسیر له چاپ ئہدری، بلاو ئہ بیٹہوہ بہ اطراف و اکنافی

عالم. وه به زوبانی تورکی و فارسی گهلی تهفسیر کراوه، ههتتا (حتی) تورک به تهفسیر رازی نهبوون به زوبانی خویان تهرجه مهی قورئانیان کرد (مع انه) تهرجه مهی قورئان به هیچ زوبان نابی، محال اندر محاله .

گهلی جار، به دلّم داده هات، که تهفسیری به زوبانی کوردی دانیم، تا خوپنده وارانی کورد له که لامی خویان تی بگهن و به ری نیشان دانی قورئانی، ری بو مه نزی نه جات بیهن . ئەمما بی هیزی خۆم و بی مه یلی قهومی کورد، منیان له وکاره خیره راگییر کرد. تا له و پۆژانه دهسته یی له جوانان و لاوانی کورد، که هه ریه ک بو دهستی یار و یاوه ری ئەنگوستی بو (اشتیاق) و ئاره زوی خویان نواند، که تهفسیری به کوردی له سه ر یه ک دانیم... زۆر پی که یف خۆش بووم...

له سه ر ئەو فکره پی گه یشتوووه، هه زار ئافه رینم لی کردن، که هه م دۆستی دین، هه م یار و وه فاداری کورد و کوردین.

منیش که (جهلی زاده) کاک هه مه دم پی ئەلین، دهستم پی کرد به تهفسیری قورئانی هه کیم و ناوم لی نا: - «تهفسیری کوردی له که لامی خوداوه ندی» -

دانهر

کوی سنجق ۱۳۵۲ هـ.

سوره تی فاتحه

ئه لیم به زوبانی پاک ودلی سه لیم:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

بزانن، که قورئان له اوائلی رساله ت، قابل نه بوو هه مووی به جاری بیته خواری، به لکوو ئایه ت ئایه ت، سوپه ت سوپه ت، به گویره ی زه مین و زه مان ئه ناردر، تا کو له اواخری حه یاتی (نبوی) به ئه مپو ئیشاره تی صاحبی وه حی، به و نظم و ترتیب و هؤندنه وه ی حاضره پیکوپیک خرا و، له زه مانی خلافه تی (ابوبکری صدیق) به (اصرار) و پئداگرتنی (امامی عمر) له کاغه ز نووسرایه وه .

زیرا له شه پی (یمامه) له گه ل — مسیلمه ی درۆزن، گه لی له (حفاظی) قورئان، یه عنی ئه وانه ی قورئانیان به ته مامی له بهر بوو شه هید کران. (فاروقی اعظم) فه رموی ئه گه ر قورئان نه نووسریته وه، بی شک ضایع ئه بی.

حفاظی قورئان ئه گه ر نه شکوژرین، خو هه ر ئه مرن، امیدیشی نه بوو به و حاله ئه وان، که دوایی پئنه گه ن قورئان به زه ریفی به ته واوی له بهر که ن. حاصلی (صدیق) و سائر یارانی اقناع کرد، که ضروره تی حفظی قورئان

قضا ئه خوازی بنوسریته وه . نسخه کیان نووسی له سه ر ئه و هؤندنه وه ی حاضری و، له زه مانی (امامی عثمان) سه به ب به اختلافی بعضی (قرایان) چه ند نسخه یان گرته وه، بؤ اقطاری اسلامیان ناردن .

وه به اتفاق (بسم الله الرحمن الرحيم) یان له سه ری هه موو سوپه تان دانا، الا سورهی (برائت) نه بی .. بؤیی (امامی شافعی) لای وایه، که ئه و کلمه مباره که له قورئانه .

له په وشتی مشرکان وا ده رئه که وت، که (کتب) و رسائل و معاهدات و سائر اموری هه ممان، به ناوی ئاله هی خویان ئه کرده وه . حتی (دیان) – مع انه – اقرار به الوهیت و نبوه ت ئه که ن، له سه ر لوحه ی کتبیان ناوی (اب و ابن و روح القدس) ئه نووسن .

قورئانی کریم، که کتبی ئه هلی توحیده، به ناوی خوداوه ندی عالهم، که خوداییکه واحد و په حمان و په حیم افتتاح کرا، تا ئه وی (موحد) بی، سه ری هه موو ئیش و کاران به ناوی ئه و خودایه بکاته وه، هه م له م عه سه ری (مدنیت)، سفرا و عظمای هه ر ده وله تیگ له مراسم و محافلی (دولی)، به ناوی سه رداری خویان پیاله هه لئه گرن ئه یخونه وه .

تا کو ئه وی ئه هلی ئیماننه له هه ر نادی و جمعیتی اساسی و سیاسی منسووبی هه ر ده وله تی، هه ر فرقه یی بی له پرووی یه کی به ناوی خوداوه ندی په حمان و په حیم، باده ی وه حده تی بی تفرقه ی جنس و مذهب نۆش که ن .

سه ره لوحه ی قورئان به و کلمه طیبه ئارایش درا، په حمان و په حیم له په حمه ت وه رگیراون . په حمه ت چی یه ؟ (رقت) ی قه لب و دل ته نگی، ته نگی دله، ئه وی دل نه رم بی، دلی به ده رده مه ند و بی چاره گان ئه سووتی، به زه بیان پی دین، ئه و جا به فریادیان ئه گهن، چاره سازی و غه مخواریان ئه که ن . ئه وی دل په ق بی، که یفی به لنگه فرتی کوزراوان دی؛ معلومه ئه و (رقت) و تاثر و ئیشه بؤ خوی نی یه، له بهر ئه وه له په حمه ت اراده ی احسان، یا احسان مقصوده و اثری په حمه تی ئیلاهی له عالهدا ظاهر و نمایانه، بؤیی پاش

بسم الله ئەفه رموی:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ﴾ ستایش و ثنا خاصة مملوکه بۆ خودایی، که په روهردگار و ته ربیه دهری هه موو، ئەو عالمه ئەنواعی ناییته حد و حساب، هه ر نهوعه به و نهوعه، که لایقی یه تی اصول و قه واعیدی بۆ په روهرش و ته ربیه ی داناوه (سبحان من أعطی کل شیء خلقه ثم هدی) بالخاصة له میانه ی ئەو هه موو عالمه، اعتنای زۆری به به خێو کردنی ئینسان کردووه، هه م له جیههت خهلق و ایجاد، هه م له طرف تعلیم و تفهیم، حتی بعضی له گه ورا ن ئەفه رموون: خودای تعالی له (۷) حهفت صیفه تی خۆی، که (حیاته، علمه، قدره ته، اراده یه، سمعه، بصره و کلامه) وینه یه کی داوه ته ئینسان، فه رقی پیغه مبه ریک و شوانیکی نه کردووه .

له و ئایه ته کریمه ئەزاندی، غه یری خوا هه رچی به خه یالا بی و له هه ر مه قامی تصور بکری، ئەویش وه ک من و تو محتاجی خودایه کین، که س حه قی (الوهیت و ربوبیت) ی له سه ر که س نی یه؛ به و نظره (پیشووله و جبریل) متساوین... وه ئەزانی نعمه تی تربیه و تعلیم له فوقی هه موو نعمه تانه و، احسانی عمومی له سه ر احسانی خصوصی ترجیح ئەکا . ستایشی کبریائی اولاً له سه ر چاکه ی عمومی به جی ئەیینی .

ذاتاً ناشکار و نمایان بووه، ئەفرادی هه ر قه ومی سعاده تی خۆیان له سعاده تی عمومی دا ببینن، متحد ئەبن، حسد و بغض و کبریان له حه ق یه ک نامینی، سه رئه که ون، سه رئه که ون به که مالی شکۆه و گه وره یی ئەژین. حقاً ئەوه لایق مسلمانان بوو، که جه نابی نبوی ئەفه رموی: (المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضاً) و ئەفه رموی (لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه) به لکوو ئەهلی ئیمان ئەبی (غل و غشی) له گه ل که س نه بی، حتی به زه یی به کافر و به جاهلان دا بی، سعی بکا بۆ قوتار کردنیان .

سعدی ئەلئی:

بـنـی آدـم اعـضـای یـکـدیـگـرـنـد
 کـه در آفـرینـش زیـک جـوهرـنـد
 چـو عـضـوی بـه درـد آوـرد پـوزـگـار
 دـیـگـر عـضـو هـا رـا نـمـانـد قـرار^(۱)

بۆخاتری ئەوه، که بزنان چه زهتی کبریا له خوداوهندی خواوهندی صاحب
 مه رهحه مه ته دوباره ئەفه رموی:

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾^(۲) یه عنی خهلق و ئیجادی تربیه و ارشادی هه موو له
 پووی لطف و پهحه ته ضرورته و مجبوری و ناعیلاجی له بۆ وی نی یه،
 چونکه له هه موو کرداری خۆی مختاره، به خواهشت خۆی ئەیکات و
 خواهشی خۆی (كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) وه له پیش خهلقى عالم به قه له می
 که ره م نووسیویه تی (سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي) حتی عهذاب دانیشی له پهحه ته
 خالی نی یه (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ) اعضایی، که خۆرکی لئ
 که وتبئ، تداوی نه کرئ، برینی عهینی چاکه یه .

که سی ته ماشای ئەو ئایه ته بکا و له (ربوبیئی) خوا تی بگا و به چاوی
 اعتبار بنورئ، ئەو دنیا یه ی به مدرسه یی زۆر گه و ره ی دیته بهر نظر و،
 ئەهلی دنیا وه کی قوتابیان ئەبینئ، حوادث و وقایعی زه مانه هه ر پۆژ نه وعه
 ده رسیکیان پی ئەلئ.. ئەوجا ئەوی هۆش و گۆشی هه بی، زۆر چاک ده رس
 وه ئەگرئ و به ته واوی (تفریقاتی) ئەکا، به بی شک لازمه ئەو (طلبه) انه
 امتحان بکرئ، تا کوو ناجح و اکمال و پاسب، لیک جودا بکرئ.. مدیر
 و (مربی) ئەو مدرسه کئ یه؟ دیاره خواجه، که رب العالمینه، (ممتحن) و
 (ممیز) خۆیه تی. کئ نمره به حه ق ئەدا بی مه یل و محابا، هه ر خودا.

(۱) — ئاده میزادان ئەندامی یه کترن و له دروست کردنه وه له یه ک جه وه رن، که ئەندامی به ده ردیگ بیئ
 دوچار، ئەندامه کانی تریش ئارام ناگرن. (ع. بیمار)

(فعلى هذا حتماً) ئەبئ پۆژئی بئ، هه رکهس دهره جهی تعلیم و ته ربیهی خوی بزانی، دهره جهی دهرچوون و پووچوون و له میانه مانه وه.. هه موو به ته وای ئاشکار، به بئ عالی و اعلى و على الأعلى (بالکلیة) نه زان و ئەمانه هه موو به ته و اوه تی جدول بکری، خوداوهند و خاوهند ئەو پۆژه ﴿مَلِكٍ يَوْمَ

الدين﴾ هه ر پب العالمینه تقدیری مجازات و مکافات بئ پوو و پیا و مدارات هه ر ئەو ئەتوانی، بیکات. ئەمپۆش له حه قیقه تدا مالک و ملک هه ر ئەوه؛ ئەمما پۆژی جهزا زۆر چاک ئاشکار ئەبئ، که هه ر ئەو حسابه بۆ ئەو حه ق و حسابه .

ئەبین مندالی، که صفر وه رگری، یا نمره ی که م بئ، له ناو قوتابیان چۆن شه رمه زار ئەبئ، ئەگری، خۆل به سه را ئەکا، له حه سره ت و ئەندۆه و په شیمانی وه قته دلّی بته قئ.

آمان! سه د آمان! خۆتان له ئابروو چوونی ئەو پۆژه پپاریزن، اعتماد مه که نه سه ر که س.. سه عی بکه ن.. غیره ت بنوینن.. تا تووشی ئەو حه سره ته بئ منفعه ته نه بن. (بالغرض) عه فویش بکرین شه رمه زاری گونه هکاری چه ند عه ذابیکی گه وره یه، چه ند ناخۆشه وه کو خیام ئەلئ:

با نفس همیشه در نبردم چه کنم
وز کرده خویشتن به دردم چه کنم
گیرم که مرا فرو گزری به کرم
زان شرم که دیدی که چه کردم چه کنم

ئە ی وای!! ئەوی له مکاتبی دنیا شه هاده تنامه ی بئ، استحقاق وه رگری ئەگه ر زهره یئ حسی هه بئ، که ته ماشای لوحه ی دلّی خوی بکا، کلۆر و به تالی ببینی، په نگه له شه رمان بتاویته وه، هه ر سه عی و کۆششه به کارت بئ، میوه ی سه عی دوایی ئەبینری.

که سی له و ئایاتی (مذکوره) به زهریفی تی بگا، ئەزانئ (موجد و مرشد و

مربی) مجازات و مکافات ده هنده خودایه، ئه و جا التفات به کهس ناکا له (غیب) بۆ شهود ئه چی، به دلی حاضر پوو ئه کاته ده رگاهی (ربانی) و ئه لی:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ هه ر تو ئه په رستین، هه ر له تو یاریکاری ئه خوازین. غهیری ئه و کئی په رستین؟ غهیری ئه و له کئی امداد طلب کهین؟ (لیس فی الدار غیره دیار) هه موو کهس وهک ئیمه فه قیرو محتاجه ده رباره ی خودا، به غهیری (عبودیت) هیچ وه سیله یه کی تر نی یه:

درویش و غنی بنده این خاک درند
بلکو آنانکه غنی ترند محتاج ترند^(۱)

بۆی پسولی کبریا ئه فه رموی: (انا اعرفکم باللله واخشاکم منه)، ئه وی زه و قیکی وجدانی هه بی ئه زانی ئازادی، حریتی دل و فکر و وجدان له هه موو چشت خۆشتر و به له ززه ت تره، که سه ک به دل ئه بیته ئه سییری جوانیک، ئه بینئ کوو ئه که ویت، تووشی چ په زاله ت و سه فاله تیک ئه بی و ئه و حریه تی ضمیر و وجدانه، که له ئیمان به (وحدانیتی) خوا هه یه، له ززه تی ئه داته مؤمن، که هه ر به وجدان بزاندی، به لام ئیمه له و له ززه ته محرومین.

ئه وی له (صدر اسلام) ئیمانی ئه هیئا، دوینئ خۆی به رابه ر به ردی، بتی، گاجوتی، شه خصیکی وهک خۆی، به عه بدیکی زه لیل و بی ده سه لات ئه زانی. ئیمرو له سایه ی ئیمان به (وحدانیتی) خودای بی هه متا به نه وعی سه رفراز بووه، گه رده نی فخر و مباحاتی بلند کردووه، غهیری ئه و خودایه عظیم الشانه، کهس له ژور خۆی نابینئ؛ حقا له ززه تی ئه چیژئ، که به قه له م و زوبان، نایته تحریر و تقدیر. تا (معبودت) گه وره تر بی؛ خۆشت گه وره تر ئه بی! تا مبعودت (سفیل) تر بی؛ تۆش په زیل تر ئه بی. ئاخ بۆ

^(۱) هه ژار و ده وله مند به نده ی ئه م خاکی ده رگایه ن، به لکوو ئه وی ده وله مند تر بی پتویست و هه ژار تره .

میله تی، که ئیدراکی حریتی نه بی، گهردن که چی لای سه رفرازی بی. لهو مه قامه ئینسانی موحد و متوجهی ده رگاهی (رب الأنام) له خودا چ ئەخوازی؟ به غیری هدایهت و (رشاد)، چی تر به نعمهت نازانی، که له خودای بخوازی؟ بۆی ئی تیکرا عرض ئەکه ن:

﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝۱ ﴾ (الهنا وربنا) پیگای راستمان پی نیشان بدهی، تاکوو پی ی دا برۆین.

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ پیگای ئەوانه، که انعام و احسانت له گه ل کردوون. پیگایه کی (وسط) و هه موار، بی که ند و کۆسپه، بی خواره که و پیچه که ت، بۆدانان پییدا برۆیشتن و پیگه یشتن. نامانه و ئی ئەوانه به خوا بزانی و دهست به دامانیانه وه گرین، ده مانه و ئی ئیمه ییش وه کو ئەوان به پیگای وان دا برۆین چون پیگه یشتن، ئیمه ش پی بگه یین. وه کوو احسانت له گه ل ئەوان کردوو له گه ل ئیمه شا بیکه ی. الله. الله. له و فکره پاکه، له م هیمه ته بلنده! هه ر بژی ئینسانی به غیرهت. هه ر بژی ئینسانی عالی و (ثابت قدم)، که اصلاً که ماتی قبول ناکا، دائماً بۆ سه رکه وتن و بلندی تی ئەکۆشی.

بۆی له خزمهت شیخ علی افندی بووم له کرکوک، عه رضم کرد شعریک هه یه ئەلین ئی حه ضره تی گه یلانی یه:

(افلت شمس الأولین و شمسنا

ابداً علی افق العلی لا تغرب)

« ئاوا بوو رۆژی ئەوانی پیشی، به لام رۆژی ئیمه قهت له سه ر افقی بلندی ئاوا نابی.»

امام فاروقی سه رندی له مه عنای دا ئەفه رموی: «هه ر قوتبی پیش گه یلانی هاتبی، سه ربه خو بووه، ئەمما ئەوی له دوای ئەو حه ضره ته هاتبی، وه کیلی قوتبی گه یلانی یه، استقلالیت بۆ وان نی یه.»

شیخ علی فهرمووی: من ئەوه نازانم، غهیری (نبوهت) هیچ ده رگاییک نه به ستراره، من و تو چاغین، ئەگەر هیمه تی عالیمان هه با سه عیمان کردبا، تو ئەبوویه (امامیک) وهک شافعی.. من ئەبوومه قوتبیک وهک گهیلانی.

ئافهرین. خودا له شیخ علی پاضی بی. خوداوه ندا، یا پپی پپی راستمان ئەوی، پپی راستمان ئەوی.

﴿عَبْرَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ﴿٧﴾ ریگای ئەوانه ی غضب لی گیراو و گومراه بوون، نامانه وی ریگای به کهند و کۆسپه، هه وراز و لیژ، پل و تاته لووس، پی دا پۆیشتنی زهحمه ته، ئەوی پییدا بپوا له ریگا به ریگا خه ریک ئەبی، به لکوو هه ل ئەدیری.. پارچه پارچه ئەبی، کۆره پپی له چۆل و بیابان و کیو و که ژ پی دا پۆیشتنی بزر بوونه.

ئەم دوو ریگایه له سوپه تی (بقرة) و سوپه تی (آل عمران) بو تان ده رئه که وی و معلوم ئەبی، ئەو پقلی گیراو و بزبوانه جوله که و دیان، به لام مستلزمی حصر نییه، چونکه سالکی مال و ویران و گومبوو له هه موو دینی دا هه یه، حتی له (فیره قی) اسلامیان گه لی، پپی یان لی گۆپاره، بزبوون، غضبیان لی گیراو، بۆی بعضه مه لای گه وره ته فسیری فرقه ی اولیان به ئەوانه ی، که غه رقی مادیاتن و فرقه ی (ثانیان) به ئەوانه ی، که صرف متوجهی معنویاتن کردوو، وه فرقه ی هادی ته فسیری به ئەوانه ی له مادیات و معنویات استفاده ئەکن کردوو. له (حدیث) ئەفه رموی پیاو هه ر ئەو پیاوه نییه، که پیاوی دنیا بی و پیاو هه ر ئەو پیاوه نییه، که پیاوی قیامت بی. به لکوو پیاو ئەو پیاوه یه، پیاوی دنیا و قیامت بی، حقا تا موسلمانان له قوه تی مادی و معنوی به هه رمه ند بوون، به تینی ئیمان و هیزی بازوو، تاج و ته ختی هرقل و کسرایان به تالان ئەهینا.

که پرویان کرده معنویات، به (شوادی) و (خوارق) هه ل خه له تان، وا ژیر که وتن، که ئینسان ئومیدی راست بوونه وه یان ناکات و، له هه موو اطراف ی

دنیا سهرو مالیان به تالان چوو! ..

ئه وجا که ئه و ئایاتی ئه م سوره ته تان به و نه و عه یه زانی و زانیتان چی یه،
چی تیایه .. ئه زانن که شایانه، که ناوی نراوه به (ام الکتاب)، خلاصه ی
هه موو قورئانی تیایه . ئه توانین بلئین، که هه موو قورئان، به لکوو
ئایه تی (اکوان) ته فسیرن بو ئه و سورپه ته و، بوئیش بوو یته (فاتحه الکتاب)
خوړایی نی یه زیده له سورپه تان ئه مر کراوه هه موو موسلمان له هه موو
پکعاتی هه موو نوئیزان بیخوئین.

خوداوه ندی عالم، به حورمه تی ئه و سورپه ته، عالمی ئیسلام
بهینئته وه سه ر پئی راست .. پووی مه رحه مه تیان تی بکا، له م
گومراهی یه ی، که تیدان نه جاتیان بدات. ﴿آمین﴾.

(آمین) ئه و کلیمه له قورئان نی یه، ئه م ما خوئندن پاش فاتحه، به لکوو
پاش هه موو دوعا سوننه ته . مه عناشی ئه وه یه یارب دوعامان قبوول بکه ی
وقتا، که نیازی ئه و نیازمه ندانه په روازی کرد، بو دهرگاهی بی نیازی رب
العالمین دوعای قبوول کردن، له سورپه تی (آتی) پئگای راست و خواری
نیشان دان.

* * * *

سورهتی (بقرة)

پاش ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بۆ خاتری چاک گوئی پاگرن، فهرمووی:
 ﴿الْمَآءِ﴾ وهک (ههلهو) له سهه ته له فون ئهوی بیستی، به احضاراتیکی
 تهواو گوئی پاگری. هه م په مزیکی تیايه، که ئه و گفت و گویه (بعینه)،
 که لامیکه که له حروفاتی فطری ئیوه مرکب ئه کری «الف لام میم ری ص
 کاف هئ یئ عین ط س ح ق ن» ئه و حروفانه له (اکثر) زوبانی ئیوه هه یه.
 مه لئ ئه وه که لامی خویه چۆن که س له خودا ناگا، که س له که لامیشی
 ناگا و علمای ته فسیر، گه لئ ئه سراری عجایب و غرایبیان له ته فسیری
 ئه و حروفاته فهرمووه. به لام ئه و ته فسیره کورته کوردی یه، ئه و طول و
 تفصیله هه ل ناگری.

حاصلی، ئه وانه بی معنا و زائد نین، هه ر که س له ئه ربابی فهم و دانش،
 به گویره ی زهوقی خوی ئه سراری لئ فهم ئه کا.

دوای ئه م اخطار و احضاره ئه فهرموئ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ ئه و قورئانه عظیم
 الشانه ﴿لَارِبِّ فِيهِ﴾ شکی تیدا نی یه ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ نه فسی هیدایه ته بۆ ئه و
 که سانه ی خویان بیاریزن.

ئیوه .. ئه ی طالبانی شاهراهی هیدایه ت، ئه گه ر راست ئه که ن پئی
 راستان ئه وئ، اقتدا به م کتیبه بکه ن، ئه وی ئه مرتان پئی ده کا بیکه ن،
 ئه وی نه هیتان لئ ده کا مه یکه ن. بی شک و مریه ئه گه ن به منزلی وصول،

نائلی سعادته تی دنیا و آخرت ئەبن.

ئاگادارین، له به شهر (۳) سی فرقه ههیه: فرقه یی به غهیری محسوسات، ئیمان به هیچ چشت ناهینئ، ئەوی به بهر چاو، یا به بهر گوئ یا (دهوق) یا (شم) یا (لمس) نه که وئ، ئیدراکی هیچی تر ناکا، ئەوانه نه ئەلوهیتیان لا ههیه، نه (نبوت).

فرقه ی دووهم، اعتمادیان له سهر عهقله، ئەلین عهقل هادی یی وایه به شهر استغنا ئەکا له نبوهت، ئەوانه الوهتیان لا ههیه، انکاری نبوهت ئەکن. فرقه ی سی یه م، اعتبار ئەکا به عهقلیش و به نبوهتیش، ئەفه رمون: نه نبوهت استغنا له عهقل ئەکا، نه عهقل استغنا ئەکا له نبوهت. له امتزاجی عهقل و نبوهت به ریگایی راست دا ئەپوا.

ئەو کتبه عهزیزه بۆ ئەو فرقه هادی یه، ئەوانه زۆر باش استفاده له قورئان ئەکن؛ ئەو فرقه ش دوو طائفه ن.. یه کیکیان:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ ئەو (متقی) یانه ن، که ئیمانیان به شتی بزر ههیه، ئەزانن له فوقی مدرکاتی حسی؛ مدرکاتی عقلیه ههیه.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ﴾ نوێژ به جئ ئەهینن. خۆیان مقابل خودا، که غیبی حقیقی یه - اصلاً به حواس دهرک ناکرئ - به خاضع و خاشع ئەنوینن. له جههت پرحم و دل نه رمی به ئەبنای جنسی خۆیان، قه دهرئ له مائی خۆیان ته عین ئەکن، ئەیده نه محتاج و بی دهسه لاتان.

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ زیت ریش له مقداری معین له و پزقه ی، که خودا ئەفه رموئ پیمان داون، صرفی مستحقینان ئەکن، وه نای گه ییننه دهر جهی ئیسراف و تبذیر.

طائفه ی دووهم ئەو (متقی) یانه ن که بالفعل ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ برپوایی ئەکن به و کتبه ی، که له تهرف خوداوه انزال کراوه بۆ لای تو، حقیقه ههر که سی ئیمان به قورئان بینئ، ئیمان به هه موو کتبی سماوی، وهک ته ورات

و انجیل و زبور ئەھینئ، (لکن) له بۆ خۆپارازتن له کتبی (محرّفه) یه عنی
تغییر دراو، پراسا ئیمان ئەھینن ﴿وَمَا﴾ به ئەو کتبهی، که ﴿أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾
هه ناردراوه له پیش ئەتۆ. وه هه م ئیشاره ییکیشی تیدا ههیه، که مقصود
ئیمان به (ما انزله) یه، تاکو پئی تعصب ببری له حق ئەو که سهی، که
کتیبی بۆهاتوه .

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ و به پۆژی واپسین، ئەوان باوهرریکی مهحکه میان
ههیه، شک و شوبهه یان له پۆژی جهزانی یه، معلومه ئیمان به قیامهت
له (ثمره) ی ئیمان به نبوته، له پیغه مبه رانه وه نه بی به راستی نازاندی
﴿أُولَئِكَ﴾ طائفه ی اول ﴿عَلَىٰ هُدًىٰ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ئەوا له سه ر هیدایه تن، حازر و
ئاماده ن.. ئەوه نده .. مرشدیکیان ئەوی به خه به ریان بینئ، ده رحال
ئیمان ئەینن به (مکملی و مفصلی) ﴿وَأُولَئِكَ﴾ وه طائفه ی دوهم ﴿هُمْ
الْمُفْلِحُونَ﴾ بالفعل نائی (فوز و فلاح و نجات) بوون .

حاصلی قورئانی کریم هیدایه ته بۆ ئەو فرقه ی، که ئیمانیا ن به عه قل و
نبوه ت هه بی به کبر وحبی جا هو مال ، پابه ند نه بن و نبوه ت نه که نه
قه ومییه ت .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ که هه ر دوو فرقه ی پیشوو له انکاری ئەصلی نبوه ت
موافقن ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ یه کسانه له سه ر ئەوان ﴿ءَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ ئایا بیان ترسینی
﴿أَمْ لَمْ نُنْذِرْهُمْ﴾ یا نه یان ترسینی ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ئیمان ناهینن، ناییه نه
سه ر هیدایه ت، استفاده له قورئان ناکه ن .

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ خودامۆری له سه ر دلئ ئەوان داناوه، ئیمان ناچیته
ناو دلئان، نفوذی تی ناکا ﴿وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ﴾ له سه ر گوئی ئەوان ﴿وَعَلَىٰ
أَبْصَارِهِمْ﴾ و له سه رچاوی ئەوان ﴿غَشَوَهُ﴾ په رده ی ههیه، ئەمما چ په رده ؟

په رده یی و ائه ستور، که مهنی بیستن و دیتنی لی کردوه .
 ئه وانی اعتمادیان له سهر حسه ئه یانزانی، که ئینسان له حیوانات امتیازی
 به قوه ی عه قلّه، ئینسان به چی حقائق و ماهیاتی ئه و محسوساتانه
 ئه زانی؟ به چی اصول و قواعد و قوانین داده نی؟ ضبطی احکامی جزئیات
 ئه کا، حرکاتی علویات و سفلیات ده هیئتیه ژیر حساب. ههر حسی له
 ئینسان دا هه بی؛ له (که ر) یشدا هه یه، به لکوو بعضه حواس له بعضی
 حیوانات قوه تی زیاتره له حسی ئینسان، وه ئه وه ی اعتماد ئه داته سهر
 عه قل، ئه گهر عه قلی ته واوی هه با، ئه یزانی دهره جاتی عه قلی بشری زور
 متفاوته .

سهران، سه روه ران، گوردان و گهرده ن که شان، شاهان و سوپا هسالاران
 بو عه قلی کئ گهرده ن داده یی اطاعت و متابعت ئه بن؟ ئه وه ی مغروری
 قوه تی بازوو بی، به عه گالی عه قل چوئن ئه به سترئ؟ دیاره ئه و فرقه یه
 ئاگایان له احوالاتی نفسیه ی اقوامی مختلفه ی به شهر نی یه ..
 ده خیل، وا تی نه گن که دلئ (ادنی) قابلیتیه هه بی، په روه ردگاری عالهم
 ئه و دلّه مؤرئه کا، نایلی ئیمانی بچیتئ. ئه و هه موو (قوا) و مدارکی داوه ته
 ئینسان .. ئه و هه موو ئایاتی ظاهره ی له (کون و مکان) بو داناوه .. ئه و
 هه موو، پیغه مبه رانی عظامی بو ارشاد و دلالت و هیدایه تی هه ناردوه، له
 پرووی بی مبالاتی، دلئ ره ق بکا نه هیئلی ئیمان بچیته ناوی، چوئن ئه بی
 هه یهات .. هه یهات .. ئه وه دووره له خوداوه ندی په حمان و په حیم، هادی
 صراط المستقیم. نه جه بر له که س ئه کا بو ئیمان، نه تو بزی له که س ئه کا
 بو کفر؛ به لکوو به ته واوی ریگای هیدایهت و ضلالهت بو به شهر به یان
 ئه فه رمووئ و، ئینسان (مخیر) ئه کا وه ک له مه ولا بو تان معلوم ئه بی.

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٧) بو ئه و گرووه بی عه قلّه و حواسه، عه ذابی

گه وره هه یه (سواء) حسی بکه ن، یا نه که ن.

ئه بینن که (اطبا) ناساغئ به نج ئه که ن؛ بی هوش ئه بن، ئه عضایان پارچه

پارچه ئەکهن، ئاگیان لهو عهذابه گه وره یه نی یه. حالی ئەو گرۆه له دانشمندان به چاوو گوئی بزر نابیی، به سه هلی ئەتوانن خۆیانی لئ بیاریژن، بۆیی ئەوهنده له بهیانی حالیان اکتفا کرا.. فرقه یه کی تر هه یه له (بشر) منافق، سیاسی، حیال، مکار، غدار، بی وه فا و عه هه شکهن؛ خۆپارازتن لهو گرۆه خه یلی مشکله، بۆیی جنابی باری به تفصیلاتی ته واو بهیانی حالی ئەو فرقه ئەفه رموئی، تا موسلمانان له حیه ی ئەوان ئاگادار بن، پئی یان هه لئه خه له تین.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمْ الْيَوْمَ الْآخِرِ﴾ خۆیان له (ملیون) حساب ئەکهن، ئەلین، ئیمانمان هه یه به خوداو پۆژی واپسین.

﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ درۆ ئەکهن دل و زوبانیان یه ک نی یه. ﴿يُخَادِعُونَ﴾

﴿اللَّهُ﴾ فیل له خودا ئەکهن، وهک له ئاخ (جزوء) به دهر ده که وئی.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ فیل له وانهی ئیماندار ی به راستینه ئەکهن. ئەمما ئەوه حماقه ته، فیل له خودا ناکرئ. ئیمانداریش به عه ونی باری ئاگاداری خۆی ئەکا، فیلی لئ ناکرئ. که وایی ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ﴾ فیل ناکهن الا له گه ل خۆیان نه بی ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ئاگادار نین، که فیل له خۆیان ئەکهن.

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ له دلی ئەوان دا هه یه دهر دئ، ئەمما چ دهر دئ. که رۆحیان له بهر دهر دئ. شفای ئەو مرضه ئیمان، ئەمما ئیمان ناهینن. بۆیی. ﴿فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ دهر د له سه ر دهر دی لئ زیاد کردن، ئابرووی بردن، به داوی تزویری خۆیانی گرفتار کردن. گه لئ ئەبی ئینسانی ئەوه ند خه ریکی دوژمنی خۆی ئەبی، له خۆی غافل ئەبی، که ئاگاداری خۆی پئی ناکرئ، له لایی تره وه تی ئەکه وئی ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بۆ ئەوان هه یه عه ذابی به ئیش.

دهرکی ئەکهن اربابی سیاسەت (لاشک)، که داوی تزویری لئەپسا؛ فیلیان ئاشکار بوو.. زۆر (متالم) ئەبن، حتی گەلیکیان لە تاثرانتجار ئەکهن، ئەو ئەلەم و عەزابه **﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾** ١٠ بە سبب (تھیڕ) و ترددیان، یا بە سبب درۆیان، درۆیان که سپی دەبیتهوه و بۆیان ناچیتە سەر. لاشک ئەو فرقه سیاسیە درۆزانە **﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾** بەسییە! پەحمی بە عبادی خودا بکەن.. چی دی ئاگری فیتنە هەل مەگیرسینن، طمع لە مولک و مائی خەلقى مەکەن.

حتاکە ی ئەو حقد و حسد و بغض و عداوێتە؟ ئەگەر وایان پێ بگوتری **﴿قَالُوا﴾** لە جوابدا **﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾** ١١ ئیمەنین الّا مصلحین.. فکری فەسادمان نییە. بێ دەسەلاتان لە دەستی (ظالم) ی بە دەسەلات قوتار ئەکەین.

وهکو (ائمه) ی فساد لە حەربی عمومی ئەیانگوت و، گەلی موسلمانیش بە ناشوگری نەبێ پێیان هەلخەلتان و، پۆسای دینیش ئەلین ئیمە ارشادی گومراهان ئەکەین، لە خودایان نزیک ئەکەینهوه، لە قیامەت ئەبین بە تکارریان و گەلی خەلقیش پێیان بپروا ئەکەن؛ عاقبەت گومراہ ئەبن.

﴿أَلَا﴾ ئاگاداربن ئە ی عبادی خودای **﴿إِنَّهُمْ﴾** بە حەققەت ئەوان **﴿هُمْ﴾** **﴿الْمُفْسِدُونَ﴾** هەر ئەوان مفسدن، تیک دەری دین و دنیان. ئەو نەوعە مفسدانە لە هەموو زەمانێدا هەن. خاصە لەم زەمانە، که اکثری ناس بوینە سیاسی، دوستی خێرخواهی پاستی نەماوه. **﴿وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾** ١٢ نازانن سیاسەتەکیان ئاشکارە، هەموو کەس ئەیزانن، ئەوی ادنی شعوریکی هەبێ لە فیریلداقیان ئەگا.

کەسێ پێیان هەلخەلتن، یا لە بێ شعورییە، یا ئەویش هەواو هەوسیکی هەیه بۆ (نیلی) دوايان ئەکەوئ، بەلام پێشی ناگا.

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ ﴿ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ ﴾﴾ ئیمان بیئن وهکو ئه و خهلقه ئیمانان هیئاوه، دل و زویانتان یهک بی، وهکو ئهوان .

﴿قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ﴾ ئایا ئیمه ئیمان ئه هیئین، وهکو ئه و کهم خیره دانه، مصلحهت نه زانانه ئیمانان هیئاوه، ئه مه قهت نابی، ذاتهن ئه مپوش سه رآمهدانی سیاست و کیاسهت لایان وهیه، ئه وی ئیمانی به خوداو پیغه مبه ر و قیامهت هه بی گیزه، گه و جه، (کانه) عه قل و دین دوژمنی یه کدین .

چه ندی له مه و پیش، یه کی له ائمه ی سیاستی فهرنگ له سه ره مه رگدا وتی: «من باوهر ریم به خودای بی هیزان نی یه!» وهخته بلیم ئه وان معذورن، ئه و دینی ئه وان زاناندوو یانه سه راپا خه رافاته .. له عه قل و شعور و ادراک دووره، ئه وی توژیکی عه قل هه بی قبوولی ناکا! ئه م ما ئه وه نده یان قصوره بی ته حقیق و تدقیق دینی ئیسلامیشیان له و نه و عه دینه حساب کردووه، (مع انه) دینی فطری یه له گه ل عه قل و علم جو ملانه یه .

(معاذ الله)، ئه گه ر که سی به ائمه ی ارشادی ئه م عه صره بلی، به سی یه ئه و فه ساده حیه له کاری یه .. ئیوه ش وه کو عبادی خودا ئیمانی راست ببینن قیامه تی لی هه له ستی .

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ ئاگادارین به حه ققهت هه ر ئه وان گیز و ویزن، دینی راست، راستی ئه وی له گه ل عه قل یه که، پوچه بو هه یئه تی اجتماعی فتنه ئه نگیزی راحه تی حه یاتی اجتماعی تیک ئه دا، سیاست و حیه له کاری شه ره ف و فضائلی بشری مه حو ئه کاته وه ..

(دجاله ی) ^(١) دین خو یان له مصالحی دین بی خه به رن، چو ن ارشادی

(١) کومه لی (دجال).

خەلق ئەكەن بۆ چاكە . « خفته پرا خفته كى كند بيدار »^(۲)

﴿ **وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ** ۱۳ ﴾ سبب به كبرو انانیت و طمع نازانن، كه ئهوى ئەوان ئەيكەن كارى خیره و ئیمان نیه، وجدانی بشری (ابا) له و نهوعه خست و دهنائهته ئەكا. ئەمما ئهوى بئى وجدان بئى، ئینسان چى له حەق بئى زیاده فائیدهى نادا، باوجودى موسلمانەکانیان به (سفیە) و گەوج ئەزانئى كه چى:

﴿ **وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا** ﴾ وهختئى، كه تووشى ئیمانداران ئەبوون ﴿ **قَالُوا** ﴾ به زوبان ئەیانگوت ﴿ **ءَأَمْنَا** ﴾ ئیمانمان هیناوه وهك ئیوه ﴿ **وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ** ﴾ وهقتئى، كه طلبى خلوه تیان کردبایه له گهوره گهورهى خویان، (ئمهى) شقاق و فساد، پاش ئیذن له خهلوته ﴿ **قَالُوا** ﴾ ئەلین له جوابیان، بۆچ ملاقات له گهله موسلمانان ئەكەن ﴿ **إِنَّمَا مَعَكُمْ** ﴾ ئیمه له گهله ئیوهین. جوداییمان نیه ﴿ **إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ** ۱۴ ﴾ ئیمه گهمه ئەكهین به موسلمانان. یاخود ئەوه اظهار ناکەن، كه نه زاندرئى گهمه به كئى ئەكەن، به (ئمهى) خویان ئەكەن، یا به موسلمانەکان؟ (حقیقه) ئەمه له منافقى ئهوان ئەوه شیتتهوه، حقیقه ئەوانى سیاسین له گهله یه كیش راست نین، ئەوانه كه له حەقیان بیژئى «با ما كچ و با خود كچ و با خلق خدا كچ»^۱ بالخاصة ئەو سیاسیانە، كه منسوبى دوهلى مختلفه بن، با يهك دینیش بن له مهیدانى سیاسهت، له پهناى دۆستى افلاك وا ددهنه سهريهك، كه تهوقى سهريان به ئەرزى ئەكهوئى، ئەوجا پئى ئەزانن.

﴿ **اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ** ﴾ مهله تیان ئەدا له طغیان و تهجاوز له

(۲) واتا خهوتووكهئى، خهوتوو له خه و هوشيار ئەكاتهوه . (ع . بيمار)

۱- له گهله ئیمه و له گهله خوى و له گهله خهلقى خوا خوار و ناپاسته . (ع . بيمار)

حَدَىٰ خَوِيَانٍ، ئەوانیش سبب به اهمال و امهالی خودا ﴿يَعْمَهُونَ ١٥﴾ دل کویر ئەبن.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ﴾ ئەوانه ئەوانه، که ﴿أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ﴾ گومپراهیان به هدايهت، به صیرهت به دل کویری کیری. ﴿فَمَا رِيحَتْ بِجَدَرَتُهُمْ﴾ تجاره ته که یان بی قازانج بوو، به لکوو مایه شیان نه ما ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ ﴿١٦﴾ ری یان بو حهق نه برد، خائب و خاسر بوون.

دوای ئەو ایضاحات و ته فصیلاتی حالی منافقان، تا، تزویری ئەو منافقانه له پیش چاو موسلمانان تمثیل بکا.. جه نابی حهق تمثیلیان ئەکا به دوو (وجه) و، له گویرهی قوهی حيله و ده سائسیان ده ره که وئ، ئەو منافقانه دوو مه رته بهن، فرقهی اولیایان ﴿مَثَلُهُمْ﴾ له ئاته شبازی فتنه ﴿كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ وینهی حالی ئەو که سهیه، که ئاگرئ هه ل بئایسینی ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾ که ئاگره که ئە طرفای ئەوئ ی پوناک کرد، ئەمه لیان بوو، که ئاگره که ده وام بکا، نفعی لی ببینن. ﴿ذَهَبَ اللَّهُ سُنُورِهِمْ﴾ خووا نووری ئەوانی برد به نه وعیک، که جاری تر نه بیته وه (عودی) نه بیته وه، هه ل نه کریته وه.

﴿وَزَكَرَهُمْ﴾ خدا ئەوانی فری دا، به جئ هیشتن ﴿فِي ظُلُمَاتٍ﴾ له تاریکی یان ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ ﴿١٧﴾ هیچ نابینن، یا بیناییان نه ماوه، ئەوانه ﴿صُمٌّ﴾ که ررن ﴿بُكْمٌ﴾ لالسن ﴿عُمٌ﴾ کویرن ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ﴿١٨﴾ ناگه ریته وه.

دیاره ئەو قهومه، که وا تمثیل کراون له فتنه و فساد، له نفاق و حيله کاری زور به قوهت نین.

تاریکی ئەگەر زۆر نه بی، مه نعی دیتن ناکا، بۆی ئه فه رمووئ — ظلمات — تاریکی ده ورا ده وری گرتوونه به نه و عیك، نه له دوور، نه له نزیک پوناکی نابین. نه وهك هه ر لیڤه، له هه موو قورئان به مناسه بهی مقام، تاریکی به (جمع) و نور به (مفرد) ذكر ئه فه رمووئ، تاكوو ئه وى توژیک نووری هه بی بزانی، كه ئه هلی ئیمان ئه بی یهك نوور بن و، ئه هلی فساده به انواعی تاریکی به متفرقی ئه مین. بۆ ئه وانیهی، كه له نفاق و سیاسهت (عریق) و عمیقن، مه ته لی گه لی گه وره تر ذكر ئه كا و ئه فه رمووئ: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ﴾ وینهی ئه وان حال و حكایه تی جه ماعه تیكه، پڕژنه ی بارانیان به سه ردا بی ﴿مِنْ السَّمَاءِ﴾ له سه ره وه ﴿فِيهِ﴾ تئیدابی ﴿ظَلُمْتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ تاریکی به شددت و زۆر گرمه گرمی هه ور، بروسکه و تریشقه یشی تئیدابی. به (قرینه ی آتی) ئه وان له وه نگامه به ده هشه ته ﴿يَجْعَلُونَ أَصْنِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ ئه نگوستی خۆیان ده خه نه ناو گوئی خۆیان ﴿مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ له ترسی تریشقه تریشقه ی به قوه ت، كه پیستی میشك بدپینی، ئه وى گوئی لی بی بمری.

﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ له بهر خۆپاراستن له مردن، به وه نه وعه گوئی خۆیان ئه گرن، ئه ممانه و (حذره) كه لکیان ناگری.

﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ خودای تعالی ده وری ئه و کافرانه ی داوه، به چ لایه كا قورتار نابن. ئه سبابی مردن زۆره ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ﴾ نزیکه بروسکه بیناییان برفینی. ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ﴾ هه ر وهختی بروسکه پوناکیان بۆ بدا ﴿مَسَّوْا فِيهِ﴾ له پوناکی یه که دا ئه پۆن.

﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ﴾ و كه تاریکی به سه رداهیئان، حقیقه ئینسان له تاریکی، كه چاوی به بروسکه بکه وئ، پاش كوژانه وه ی بروسکه، دنیای له بهر چا و گه لی تاریک تر ئه بی. ﴿قَامُوا﴾ رائه وهستن، په له کوته ناکن،

تہتوانن محافظہی خویان بکہن، ہم له تریشقہ، ہم له بروسکہ، ہم له تاریکی، به ہممو نہوعی تہتوانن محافظہی خویان بکہن.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ تہگہر خودا حفظی کردبا، ﴿لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾ به تاکید به جارئ گوئی و چاوی تہبردن.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ به تہحقیق خودا لهسہر ہممو چشتی توانایہ، تہمما چشتی، کہ دروست بیٰ نسبہتی به (الہ) بدرئ، خودا تہیتوانی تہوانہیش و ہک قہومی پیشوو کہرر و کویر بکا تہمما تہو قہومہ له سیاسہتی خویان تہوہندہ (کتوم)ن، تہلئی ہر له تہصلدا زوبانیان نیہ. تہمما تہوانی پیشوو تہوہندہ به (متانت) نین، وائہبی به زوبانی خویان پہردہی سیاسہتی خویان بدرن. بوئی له تہوئی (بکم)یشی علاوہ فہرموو. له ہممو زہمانیک تہو نہوعہ دوژمنی دینی ئیسلامہ زورن. تہمپوش بعضیٰ به سیاسہتیکی ضعیف خہریکن.. له (اول)ہوہ استفادہ تہکہن، دواپی غرور سیاسہتیان لیٰتیک تہدا، ئاگریان تہکوژیتہوہ، وایان به سہردئ ناتوانن بگہرینہوہ بوٰمہقامی پیشووی خویان و، بعضیکیش ہنہ خوینسارد و (متانی)، به کاوہخو، دووربین، ہرچہندہکوو جوی سیاسہتی لہسہر تاریک به بیٰریننہ و پہعد و بروسکہ و تریشقہی فتنہی به سہردابی، صبر و ثبات تہکا اضطرار و پہلہپہلیٰ ناکا، ہر وہقتیٰ روناکییہکی شک برد بولای مقصدی خوئی شہقاو تہہاوی، کہ تاریکی تراکمی به سہردا کردرا تہوہستی، خوئی بہم لاوو بہو لادا نادا.. اخری لہم ہممو فتنہ و مصائبہ، کہ نزیکہ میشکیان بپرتینئ بیٰ فکر و ہوشیان بکا، چاویان به با چشت لیٰک بکہنہوہ، بہلام بہ کہمالی صبر و تانی ئاگاداری خویان تہکہن، نہ له خویان غافل تہبن، نہ له دوژمن. تہگہر به مقصدیش نہگہن، تہتوانن بگہرینہوہ مہقامی بلندی خویان، مکانہتیان تہمینئ، تہوی توزیک تیگہیشتنی ہہبی، تہزانی تہو دوو فرقہ لہو عہصرہدا کیئن؟ وہ

موسلمانانیش زور احتیاجیان ہہیہ بہ پرجالی سیاست لکن مع الاسف لہ
ہہموو عصردا (سیاسیون)یان کہمن.

لہ تفصیلاتی پابدوو دوو سؤال دیتہ خاطر، اولیان:- مادامہکو ہدایہت
و ضلال لہ طرف خواہیہ و، خواش لہ سہر ہہموو چشت اقتداری ہہیہ، بہس
ئو و خہلقہ چ دەسہلاتی ہہیہ؟ بۆچی مذمومہ، معاتبہ؟ (کانہ) لہ جوابدا
ئہفہرمووی بہ خطابی عام بی امتیاز و تفریق ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ ئہی ئینسانینہ، عہدایہتی، یا عبادہتی خوی خوتان بکہن،
ئو خواہیہی کہ ئیوہی خہلق کردووہ، بہ خہلقى مساوی لہ ہہموو اعضا و
قووہتی مدرکہ و عاملہ شہریکن. حتی ئینسانی شیتیش بی، ئوہندہ
ہوشہی ہہیہ، کہ بزانی ئینسان لہ گاجوت و بت زیاترہ.

﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ہہم ئوانی پیشی ئیوہی خہلق کردووہ، وہک ئیوہ
عیسی و موسی، افلاطون و ارسطو (عیناً) لہ خہلقى ئیوہدان.. بہ
غہیری (سبقی) زمانی ہیچ سبقیکی ذاتی یان نیہ.

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۱۱) ئو ئہمرہ فائدہی بۆ ئیمہ نیہ بۆ خوتانہ، بۆ
خاتری ئوہ ئیوہ خوتان بیاریزن لہ (خسہت) و پہزالہتی عبودیت،
عبادہت بۆ امثالی خوتان ئہمرمان کردونی، کہ خوداوہندی انام پہرستن،
کہ لہ ہہموو جہت (فوق الكل)ہ ﴿الَّذِي﴾ خویئہ ئوتو ﴿جَعَلَ لَكُمْ
الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ ئہرزی گئیراوہ بۆ ئیوہ بہ پایہخ ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ ئاسمانی
گئیراوہ بہ بان خانوو، چادر و قوببہ و بارہگاہی (مزین و منقش) بلندی
ئاسمان لہ سہر ئیوہ، وہک بلندی چادر و بان خانووہ ہیچ بلندیتری
نیہ.

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ ئاوی لہ ئاسمان ہہناردووہتہ سہر ئہرزی ﴿فَأَخْرَجَ
بِهِ﴾ بہو بارانہ ہیناویہتیہ دہری لہ ئہرزی ﴿مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ لہ

به ری گیا و دار، پزقی بو ئیوه، قووتی بو ئیوه هیناوه ته ده ری که وایی: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ بو خوا له ئه رز و ئاسمان هیچ شریک — موافق یا مخالف — پهیدا مه کهن، هه رچی بیکه ن به شریک مخالفه له گه ل حه قیقه تی الوهیت مناسه به ی نیه حالیش وایه .

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ئیوه صاحب علم و ادراک و هوشن، ئه وی صاحبی هوش بی، چۆن ممکنیکی وه ک خۆی ئه کاته شتی وه ک خوا؟ یا خود ئیوه ئه زانن بی شوبهه و شک، که خوا شریکی نیه، غایه تی خۆتان بی هوش و ادراک ئه کهن! دیاره ئه گه ر هه موو به شهر سجده بو گاجووت ببا، بلای ئه وه خواجه، نابی به خوا. به خوا هه ر گاجووته . الوهیه ت به (جعل) نابی. که وایی ئیمه له هیچ خصوصه وه، نه له خهلق و ئیجاد، نه له ارشاد و تعلیم، نه له اظهاری آیات فرهقی که سمان نه کردوه .

سؤالی دووه م، که له پیشدا فرمووی (ذالك الكتاب لا ريب فيه) ئه گه ر که سی خه یال بکا ئه و قسه بی ئه صلّه، لاف و گه زافه، مبالغه ی شاعرانه یه .. ئه م کتیبه له و ده رجه دا نیه که کافلی هیدایه ت بی، له جوابدا ئه فرمووی ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ ئه گه ر ئیوه له شکو گومان دان له و کتیبه ی، که ناردوومانه ته سه ر عه بدی خۆمان، که هه مووتان ئه زانن کئییه، چییه، چونه؟

﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ بینن سوپه تیکی له وینه ی قورئان، یا له مثلی محمد (صلی الله علیه وسلم) ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بانگی (ائمه) و ناصر و اصحابی حل و عقدی خۆتان بکه ن، غه یری خودا. خوا (حقیقه) مطلع له سه ر هه موو چشت، ئه م ما ئیوه له و ته جاوزتان کردوه، به صاحبی خۆتانی نازانن. ئه و جا به هه مووتان تی فکرن قووه ت بده نه یه ک، بزنان عجا بیئان دی.

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (۲۳) ئەگەر ئیوہ راستگۆن بە چاوی علم شک و گومانی تیدا ئەبینن. ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ ئەگەر نہتان کرد، عاجز بوون لەو (اتیانہ) ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ نایکەن، پیتان ناکرئ، محالہ نابئ ابدأ ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ کہ وایی ئیمان بیئن عناد مەکەن، خۆتان پپاریزن لەو ئاگرە، کہ سووتەنی ئەوی ئینسانە، بەردە، ئەمما چ ئینسان؟! ئەو ئینسانانە، کہ لەمە و دووا دەرئەکەوئ دلیان پەقە وەک بەرد، لە بەردیش پەق ترن و ئەو دل پەقانە گەلیکیان لە بەرد کەمترن، کہ عبادەتی بەرد ئەکەن ئەو ئاگرە یەش ﴿أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (۲۴) اساساً بو کافران داندراوہ. ئەو کافرانە، کہ خۆیان پووت کردووہ لە مزایای ئینسانی، خۆیان پەزیزل ئەکەن بەکەمترین موجودات خۆیان کەمتر ئەکەن. حقا ئەو نەوعە ئینسانە بو سوتاندن نەبئ، کہ لکی چی تر ناگرن. ئیوہ کہ ئیمان نەهینن، تمسک بە قورئان نەکەن، دیارە لە عنادە، لە حسدە، لە عداوہتە.

لەو ئایاتە بەدەر ئەکەوئ و لە پەوش و تئفکرین ئەزاندرئ: خوا یەکە، بی مثله. قورئانیش لە ناو کتیبی هیدایەت دا بی نظیرە. ئەو عبادە یەش لە گروہی مصلحان دا بی هەمتایە. چونکی ئەو ئایەتە تخویف و اندازی تیا هە یە بو کافران، (کانە) جەنابی حەق ئەفەر موئ اندازی کافران بکە ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ موژدە بدە ئەوانە، کہ ئیمانیان هیناوە بەکئ؟ دیارە بە خوا، بە کتیبی هادی، بە ئەو کەسە، کہ کتیبەکە ی بو هاتووہ و اعمالی چاکەیان کردووہ.. ئەوی بخونجئ بە گویرە ی حال پیککەوئ کردوو یانە و ئەیکەن.. بە ئیمان لئ ناگەرین. ناتەن عملی چاکە ثمرە ی ئیمانە. موژدە یان بدە یی بە:

﴿أَنْ لَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ باغاتی بەهەشتی، کہ لە ژیر دار و

باری جو و جوّباری ئه پوا، وه کی پو باران. به هه شتی وایی بی شک سه بز و خورمه میوه جاتی زوره.

﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا﴾ هه ر وه قتی له ته مه ره ی ئه و باغات ه وه پزقیکیان پی بدری ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ ئه وه ئه و پزقه یه، ئه و ثمه ره و میوه یه، که له دنیا پیمان درابوو.

﴿وَأَتُوا بِهِمْ مِثْلَهَا﴾ یه عنی ئه و پزقه ی، که پی یان که ره م کرابوو، خو به خوئی به یه کتر ئه چوون. یا خود له گه ل پزقی دنیا یی پی کتر ئه چوون، ئه و ئینسانه، که له به هه شت دایه هه ر ئه و ئینسانه یه، که له دنیا بووه. ئه و میوه، ئه و پزقه، ئه و باغات و جو و جوّباره، ئه بی له گه ل باغات و میوه و جو و جوّباری دنیا پیک بچن.

لذائذی بدنی له به هه شت دا ئه میئیی.. خو مان جسمانی، روحمان جسمه، که له ناو هه یکه لی به ده نمان دووباره ئه و به ده نه تشکل ئه کاته وه، ئه و روحه ی دیته وه بهر.

(بالکلیه) له طبیعه تی ئینسانی ده رناچی — غایه ما فی الباب — لذائذی روحانی غلبه ئه کا له سه ر لذائذی جسمانی.. چونکه روح له ئه وی به قووه ت تره .. دوژمنیکی، که هه وا و هه وه سه له ئه وی دا نی یه .. الم و عذابی (روحانی و جسمانی) ش وه کو روحانی و جسمانی یه.

﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ هه م موژده یان بده یی، که له بو وان هه یه ژنی پاک و خاوین هه م له پیسی روحی، هه م له خبائثی جسمی.. له و ئایه تی که ریمه سی فائده هه یه:

اولاً: به هه شت هه ر وه کوو بو پیاوان هه یه، بو ژنانیش هه یه.

ثانیاً: پیاو، بوونی ژن له به هه شت، به نعمه ت بزانی.

سی یه م: آن مهمی ئه وه یه ژن له دنیا و له قیامه ت په فیقی حه یاتن. نه لذه تی دنیا، نه لذه تی به هه شت له سه ر ئه و هه موو خو شیی یه بی ژنی

پاک و خاوین ته واو نی یه، به لکوو ناخوشه وهک له کوردی دا ده لئی «دوست له کوئی بی ئه وی خۆشه» که وایی هه ر له ئه مرپوه، پیاو و ژن له حالی خۆیان بفرکن، اصلاحی نه فسی خۆیان بکن. له م حیاتى دنیا به خۆشى رابووین، چونکی په فیقى ابدین لیک دانا برین، با خۆیان لیک دانه برن. حقا ئه گه ر موسلمانان تاملیان له و نه وعه ئایه ته کردبایه، ئه یان زانی، که ژن له حیاتى دنیه وی و اخروی چ مه و قعیکی هه یه، ئه و وهخته ژنیان له لا به حرمت ئه بوو، به غایه تی خۆشى پیکه وه ئه ژیان.

ژنانی ئه وروپایی، که ئیمرو له بهر خشونه تی طبعی موسلمانان، نه فرهت له ئیسلامه تی ئه کهن، خۆیان ئه هاویشته با وه شی ئه و پیاوه لطیف و به مه رحه مه تانه، که حقووقی زوجه یان له دنیا و قیامهت لا مقدسه.

﴿وَهُمْ﴾ هه موویان ژن و پیاو ﴿فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ له به هه شتدا ابدینه، ناچنه دهره وه.

وهقتا که جه نابی باری تمثیلی حیه له کاره کانی کرد به اگر هه لایسین و پیزنه باران به سه ردا هاتوو، ئه و دل په قانه بو خاتری چاوبه ستی له عبادی خودا القای شک و شوبه ه یان ئه کرد، ئه یان گوت خودا له ئه وه گه وره تره، که تمثال و ممثال بکا. بو خاتری وه سه وه سی ئه وانه، تاثیر له و چاو و زمان نه کا ئه فه رموی:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا﴾ حه یا ناکا له خوی ئه م ما له غه یر هه ر به وه هم دانایی، یه عنی ممنوع نی یه بوخوا، که لی بدا مثل ماییکی با ئه و شته له غایه تی حقارهت دابی.

﴿بِعُوضَةٍ فَمَا فَوْقَهَا﴾ پيشکه یی بی، یاشتی بی له فه وقی پيشکه له گچکه یی، یا له گه وره یی خودای تعالی حقیقه (غني عن العالمين) هه موو عالم به نظر مه قامی الوهییته له زهره یی که متره، ئه م ما ئه و مه قامه، مه قامی لطف و مه رحه مه ته، مه قامی (ربوبیت) ه، مه قامی تعلیم و تفهیمه. به

هر نهوعی، که عبادی خوئی تی بگه یینی حق و حقیقه تیان بو جلوه ئه دا. بناءً علیه، دارژاندنی مثال له خوا مهنع نی یه، وهک له مه و دوا به ده رئه که وی له چ مه قامیکی مناسب. سکه ی (مَثَلٌ) به ناوی میس و جالجالوکه لی ئه دا، سبحان الله ئه و گرۆه ئه حمه قانه عهینی جه نابی کبریائی له بهرد، له گاجوت، له سائری محقراتی دی تمثیل ئه کهن؛ که چی ئه لاین ضرب المثل بو خودا ممنوعه. طبعاً القاءاتی ئه و نهوعه ئه حمه قانه تاثیر له ئیماندار ناکا.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ئه وانی که ئیمانیان ههیه به خودا و نبوهت، به راستی تنزیهی خدا ئه کهن، زهریف له تمثیله که ئه کهن.

﴿فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ چونکه (نظراً) که نه پهروهردگار و (مربی) خویمان ئه زانن له پووی عنایهت و مهرحه مه ته وه ضرب امثال ئه کا. ذاتاً تمثیل حهقی صانعه، نابینن ئه و هه موو حقائقی اشیا یه، ئه و هه موو ماهیاتی کلیه یه به خهلق و ایجاد له هه یکه لی افراد دا تمثیلی ئه کا. ئه ممما خوئی مقدس و منزله له (تمثل).

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ئه وانی که وا نۆر پوو چوونه خواری له کفر و ضلال و عناد ﴿فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ چی مقصوده خودا به و مه ته له؟ چی پی تمثیل ئه کا؟ (کانه) له جوابدا ئه فهرمووی:

﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ گه لیکی پی ضال ئه کا و، گه لیکی پی هیدایهت ئه دا. ئه ممما له کافران، ئه و کافرانه ی، که په رده ییکی ته نکیان له سه ر چاوه، خویمان ناتوانن تمثیلی حقائق بکه ن. به و نهوعه ضرب المثل په رده که یان له سه ر چاو لاده درئ، حهق ئه بینن، تی ئه کهن، قبوولی ئه کهن. ئه ممما ئه و کافرانه ی، که (غلیظن)، قاسی القلبن، به په رده ی عناد و عه داوهت و حسادهت چاویان گییراوه، له دائره ی اطاعه

دەرچوون، ئەوانەى پىڭومراھ ئەکا زیاتر کافر ئەبن، که اصلاً قبولى هیدایەت نەکن.

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (۲۶) ئەوانەى که له اطاعە دەرچوون لەو ئایەتە و له گەل ئایاتی تر دەرئەکەوئ، که سیکی قابلی هیدایەت بئ جەنابی بارى پەردەى شکوک و شبهاتی لەسەر لائەدا. تقریر و تمثلی حەققى بو ئەکا. نەوہک معاذ اللہ چاوی کویرکا و دللى مؤر کا. کامە فاسق ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ عەھدى خوا ئەشکینن لەپاش ئەوہى، که مەحکەم کرابئ.

﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ معاکسە لەگەل خودا ئەکەن ئەوہى، که خودا ئەمرى کردبئ پیکەوہ بنووسیندرئ ئەى بررن.

(حکماء) ئەفەرموون: وەضیفەى عەقل (توحید) و پیکەوہ نووساندنى ئەو شتانەى، که جیہەتیکى وەحدەتى تیا بئ. وەضیفەى خەيال تفریق و لیک برینى ئەو اشیايانەى، که پیکەوہ بنووسین. (بناءً عليه) خیالیون دائماً خەریکی تفریق و تفرقەن.. جیہەتى وحدەت لە بەینى اشیا نازانن؛ خصوص، که بغض و عنادیشیان هەبئ، ئەوجا لە هیچ ناپرسن دائماً تئ ئەکۆشن، که فساد و تفرقە باوینە ناو خەلقى.

﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ حتى خەریک ئەبن، که ئەوانەى بە پابطەى ئیمان بوون بە یەک دل و یەک جان و یەک زوبان لە بار یەکیان بەیننە دەرى.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ (۲۷) ئەوانە بە حەققەت خائب و خاسرن لە دنیا و قیامەت قازانجیان نیە، پاش ئەو ئایاتی بیئاتە، ئەو ایضاحاتە بە کمالی تعجب ئەفەرموئ:

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ چۆن ئیوہ کافر ئەبن بەخوا؟ ئیمانى بە

پاستی پی ناهینن؟ ﴿وَكُنْتُمْ أَمَوَاتًا﴾ ئی مردوو بوون. کہ وہ قتی (نطفہ و علقہ و مضغہ) بوون. ئو موادی مختلفہ، ئو عہ ناصری متباینہ کی پی کہ وہی نووساند؟ ﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾ ئی وہی کردہ زندوو. امتزاج و وہ حدہ تی کی دا بہو موادی مختلفہ. روح بہو دوری یہ، کہ ہیچ مناسہ بہی لہ گہ ل مادیات نی یہ، ئو ویش امتزاجی کرد لہ گہ لیان. ئو احیایہ بہ غیری خودا، کی ئو توانی بی کا؟ .. ئو ہی بہ خیال دابی (طبیعہ تہ)؛ طبیعہ تیش بی ادراک و ہوشہ، دائماً لہ طغیانہ. ئو توحیدہ بہو حکمہ تہ بہو علمہ باہرہ بہ طبیعہ تی بی شعور ناکری، ئو گہر لہ خہ لقی خوشتان غافلن خو اولادی خوتان ئو بینن بہ چ تطوراتی دیتہ عالہ می حہ یات.

﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ پاشان ئو تان مرینی، (کانہ) لہ بہر غایہ تی غہ فلہ تیان نازانن، کہ ئو مرن. ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ لہ پاش مراندن زندووتان ئو کاتہ وہ ﴿ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿۲۸﴾ ہر وہ کو خہ لق و ایجادی ئی وہی کردووہ.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا﴾ بو اکمالی نعمت، ئو ہی لہ ارضایہ بو ئی وہی خہ لق کردووہ، حتی زہریش بہ طریقی عیلم ئو توانن استفادہ ی لی بکن. حاشا ثم حاشا! خہ یال نہ کہن، کہ ئو پیغہ مہرہ فیکری (استلا یہ و سلبی نعمہ تی دنیا یہ لہ ئی وہ، بہ لکوو مقصودی ئو وہ پروبکہ نہ خوا لہ خہ لقی خوا (مادہ و معنی) استفادہ بکن.

﴿ثُمَّ اَسْتَوِيْ اِلَى السَّمَاٰءِ﴾ لہ پاش ئو ہی کہ ئرز و (ما فی الارض) مہیا کرد بو ئی وہ، مہیلی کرد بو لای ئاسمان ﴿فَسَوَّيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿۲۹﴾ تسویہ و تہرتیبی دا بہ حہوت ئاسمان، ئو ویش ہر بو نفعی ئی وہی یہ، کہ لہ بہینی امتزاجی سفلی و علوی نہ تیجہ ی منافع بو ئی وہ بدات وا ئویننی، کہ اولاً خہ لقی ارض و ما فی الارضی کردووہ. پاشان بو

جیہہ تی ئاسمان عه طفی عنایه تی کردووہ، تاکوو احتقاری نه کهن، که له ژیر پیٲانه و علویات نه په رستن .
که و ابو لازم بوو ئیوه به مقابلی ئه م هه موو عنایهت و نیعمه ته، هه ر خودا په رستن، عه هد نه شکینن له اتحاد خه ریک بن . . فساد نه کهن وهک (سعدی) ئه لی:

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نه خوری
همه از بهر تو سر گشته و فرمان بردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری.^(۱)

وه قتا که فه رمووی ئیوه (اموات) بوون و ئیوه مان زندوو کرد بو ئه وه، که بزانیان مه بدهئی حه یاتی ئیمه له چی یه وه یه؟ هه روا به طریقی توالده، یا خود مه بده ئیکی هه یه؟ ئه و جا بو به یانی مه بدهئی بشری ئیمه و، ئابائی ئیمه به وجهی منتظم له گه ل (ماقبل و مابعدی) فه رمووی ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ خطاب له گه ل په سولی خوئی تا بزاندری ئه و ماجه رایه به وه حی ئیلاهی زانیویه تی له کتبی سالفه ی وه رنه گرتووہ .

ئه هلی عه قل له (ملیون و طبیعیون) متفقن، که ئه م ئه رزه له ئه وه له وه خالی بووه له حه یات. ئه م حه یاته چون هاتووہ؟ طبیعی به طریقی طبیعی نازاندری. ئه وی گوتراوه له تخمین و خیال، بوئی ئیمه اعتماد ئه که یه سه ر وه حی خودا، که بو پیغه مبه رانی عظام هاتووہ .

﴿لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً﴾ به فریشته کانی فه رموو، به تاکید من خه لیفه یی، جی نشینی له ئه رز خه لق ئه که م، دای ئه نیم. استشاره ی

۱- هه ور و با و مانگ و پوژ و ئاسمان له کاردان، تا تو نانیک به چه نگ بخریت و به بی ئاگا نه خویت . هه موویان له پیٲاو تو مه دهوش و فه رمانبه رن. جا مه رچی ئینصاف نیه، که تویش کاریک به جی نه هینی . . ع . بیمار .

جه نابی کبریائی له گه ل مه لائکه تان بو (جعل) و دانانی خه لیفه زور معقوله .
(غایة الغایة) به یانی دهره جهی لیاقه تی ئاده م و مه له که . استشاره ی کرد .
ئایا ئیوه له خه لقی خه لیفه له مه سلحه ت و مفسده چ ئه بینن . ئه وانیش به
غهری (مفسده) هیچ جهه تیکی تریان نیشان نه دا .

﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ چۆن دانه نیی له
ئهرزی که سیکی، که فساد له ئهرزی بکا . بی هووده خوین برپژئی، ئه سلنه
پووی چاکه یان نیشان نه دا . زیرا ئه وهنده یان به کافی دیت . بو خه لقی
نه کردنی خه لیفه له قه واعیدی مقرره یه، که مانع و مقتضی گرد بوونه وه
مانع مقدمه ئه وه یان له چ زانی؟ واتنی گه یشتن خه لیفه، یا خه لیفه ی حوکمه؛
ئهو ی حاکم بی ئه بی، حوکمی نفوذ بکا . که سیکی مخالفه ی کرد (مخالفه) که
نه هیلی . ئه وهش بالطبع سه ر ئه کیشیته شه رر و شوپ (هرج و مرج) . یا خود
خه لیفه ی خودا، ئه بی دائماً خه ریکی عبادت بی به تسبیح و تقدیس و
تمجیدی نیلاهی مشغول بی . ئه گه ر ملحظ ئه م فائده بی له قبیله ی تحصیلی
حاصله .

﴿وَمَنْ يُسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَنُقِدِّسْ لَكَ﴾ که وابی خه لقی خه لیفه بی هووده یه و،
شتی بی هووده ش له تنزه و تقدسی کبریائی دووره .

تسبیح چی یه؟ تقدیس چی یه؟ .. هه ردوو له اصلی مه عنا شریکن، به معنی
پاک کردنه وه یه، فه رقیان به اعتباری متعلقه . تسبیح تطهیره له (نقص) . به
اعتباری اموری خارجی، تقدیس تنزیه له نقص به اعتباری ذات .
لاشک که سیکی خه ریکی تسبیح و تقدیسی کبریائی بی، ئه بی بی پاک بی
له فه ساد و خوین پزاندن، بوی ئه فه رمون (بحمدك و لك)، تا بزنان خوا
خوی منزله، متصفه به کمالی ذاتی و فعلی، نه وه ک ئیمه پاکی ئه که یه وه .
تسبیح ئه گه ر له گه ل تعظیم نه بی، تقدیس ئه گه ر بو که سی نه بی، که
خوی (قدوس) بی گه مه یه . نابینی عبادی أصنام ئه م هه موو تسبیح و

تقدیسه‌ی جمادات و حیوانات ئەکه‌ن، عجباً ئەوانه ئەبن به مقدس؟ حاشا
که‌ر هه‌ر که‌ره:

(خری عیسی اگر به مکه بری

چون بیاید هنوز خر باشد)^(۱)

ئەمما ئەصلی خلافت، خه‌لافه‌تی خه‌لق و ئیجاده، خه‌لافه‌تی صنع و
اختراعه، خه‌لافه‌تی که‌شفی ئەسراری قودره‌تی ئیلاهی‌یه، که‌ له‌سه‌ر ئەرز و
ناو ئەرزی داناوه. خلافتی نظامه.

له‌به‌ر ئەوه جه‌نابی کبریائی، له‌ جوابیان‌دا ئەفه‌رمووی: ﴿قَالَ إِنِّي أَنَا مَّا

لَا نَعْلَمُونَ﴾^(۳۰) به‌ پراستی من ئەزانم ئەوی ئیوه‌ نایزان. له‌ او‌له‌وه‌ جه‌نابی
کبریائی ته‌نبیھی ئیمه‌ ئەکا، که‌ ملائکه‌ت به‌ هه‌رچۆنی خه‌یالیان بکه‌ن،
خالی نین له‌ جه‌ل. ئەوجا جه‌نابی کبریائی خه‌لقی ئاده‌می کرد له‌سه‌ر ئەو
صوره‌ته‌ی، که‌ ئیستا بنی‌ئاده‌می له‌ سه‌ره. نه‌وه‌ک (داروین و اتباعی داروین)
ئەلین ئینسان له‌ او‌له‌وه‌ شتی بووه‌ وه‌ک مه‌یموون، دوایی به‌ توالد و
تناسل به‌ طریقی انتخابی طبیعی ئەو جنسه‌ ترقی کرد، هاته‌ سه‌ر ئەو شکل
و شمائل‌ی بشری.

ئەوه‌ش مه‌عنای فه‌رمایشتی پیغه‌مبه‌ره (خلق الله آدم علی صورته)، که
ئەم‌پۆکه‌ مه‌عنای ئەو حدیثه‌ زه‌ریف ئاشکرا بووه‌ و، گه‌لی که‌س به‌ نه‌زانینی
خۆیان، له‌م حدیثه‌ تووشی کفر و ضلال بوون.

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ جه‌نابی کبریائی هه‌زه‌تی ئاده‌می خه‌لق
کرد، پر له‌ مدارک و مشاعر و عه‌قل و قوه‌تی عامله، که‌ بتوانی محسوسات
و معقولات درک بکا. خه‌واص و علائمی اشیا بزانن. جمع و تفریق له‌ به‌ینی
متخالفات و متماثلات دا بکا، وه‌ به‌ قوه‌ی حس و سرعه‌تی انتقال و انتباه
اسراری طبیعه‌ت تی‌بگا و، ده‌ری بینن ئەو تعلیمی فطری‌یه ئیلاهی‌یه،

(۱) که‌ری عیسی ئەگه‌ر بچینه‌ مه‌که‌ه، که‌ گه‌ررایه‌وه‌ هه‌ر که‌ره‌که‌ی جارانه (ع. ب).

نه وهک ته نها بو ئینسان بو حیواناتیش نه و تعلیم و تربیه ی هه یه .
 نه ممما تعلیمی ناو و اسمی بی مه عنا، چ مه عنا ی نی یه، باوجودی لغاتی
 به شهر نه وهنده مختلف و زوره، قابل نی یه له شه خصیکدا گردببیته وه، (مع
 انه) له پاش ئاده م تا نه مپو صه د هه زار هه زار چشتی وا په یدابووه، که
 ناوو نیشانی له عالهمی وجود دانه بووه، له بهر نه و (سه عتی) صنع و
 اختراع، بشر هاواریه تی له چه نگ قصوری لغه ت. نه و جا پاش نه و خهلق و
 تعلیمی فطری یه زه مانیکی پی چوو، که ئاده م علومی مکتسبه به واسطه ی
 قوای فکری بینیته ده ست خو ی. نه و جا بی بو مجلسی امتحان. بو یی
 نه فه رمووی ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ معلوماتی مکتسبه ی خو ی به حقائقی
 کائنات له سه ر ملائکه تان نو اند .

﴿فَقَالَ﴾ ئاده م فه رمووی .. ﴿أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٣١﴾
 خه برم بده نی به علاماتی ظاهره ی نه و موجوداته، فه ضل له اسراری حقائق
 و دقایقی، نه گه ر ئیوه پاست نه که ن له راستانن. لاشک تا قوای مدرکه زیاتر
 بی، مدرکات زیاتر نه بی. ته ماشای کرم و ئینسان بکه ن. ئینسان جسمیکه
 وه کو سائری اجسام ..

(نامی) یه که وه کو سائری گیا و دار حساس و متحرکیکه، وه کوو سائر
 حیوانات زیاد ی به چی یه؟ به قووه ی عه قلّه، به قووه ی انتباهه . بناءً علیه
 ئینسان له علم و قدره ت و صنع و اختراع دا نه وهنده گه وره یه، ناتوانین
 بلئین ممثلی خودایه . نه ممما نه لئین له سه ر نه رز خلیفه ی خودایه، خاصه
 سرری نه م خلافه ته له م قه رنه دا زور چاک ئاشکرا بووه .

نه و جا ملائکه ته کان له خه جاله تان، نه یان توانی پوو بکه نه ئاده م. پووی
 ذیلله ت و انکساریان کرده جه نابی کبریائی فه رموویان: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ
 لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ عیلمی ذاتی هه ر بو تووه . له هه مووکه می ذاتی و صفاتی و
 افعالی منزهی، هه یچ عیلم بو ئیمه نی یه الا نه وه ی، که تو فیрман بکه ی.

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (۳۲) دانا بہ حکیمت و اسراری موجودات؛ ہر تہتوی۔ واضعی کلی چشت، کہ لایق بہ مقامی فطرتی خوئی بی؛ ہرتوی۔ ہزرہتی ئادہم باوجودی ئو معروضاتہی ئوزانی، لاکن خودسہرانہ اظہاری نہ فہرموو، تاکو ئہمری پی کرا لہ طرف جہنابی باری، کہ فہرمووی:

﴿قَالَ يَتَّادُمُ أَنْبَتُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ ئویش درعقب ئہمری بہ جی ہینا۔

﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ کہ ہزرہتی ئادہم خہبری دا بہ ملائکہ تان بہ حقائق ئو موجوداتہ، ئو جا بہ راستی قہدر و قیمہتی ئادہمیان لئ معلوم بوو۔ جہنابی کبریائی ﴿قَالَ﴾ بہ ملائکہ تہکانی فہرموو: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اسراری کائناتی علوی و سفلی، من بہ راستی ئوزانم چی ئہ بی، چؤن ئہ بی، چی لئ (ترتب) ئہ کا۔ ئہرز ئہ گہرچی لہ نظر ئیوہ محقرہ، ئہمما اسراری وای تیدا ہہیہ، کہ شایانہ تفضیل بدرئ لہسہر علویات۔

﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (۳۳) و بہ راستی ئوزانم ئہوی ئاشکرا ئہیکہن، ئہوی بہ دزی ئہیکہن و، مقتضای فطرہتی ئیوہش لہ من بزر نیہ۔ ئو جا پاش دہرکہوتنی قہدر و قیمہتی ئادہم و نقصانی علمی ملائکہت چی بوو، چ کرا؟ بو ئہوی، کہ بزانی بہ زہریفی تذکارمان ئہ کا ئہ فہرمووی:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾ بہ ملائکہ تہکانمان گوت ﴿أَسْجُدُوا لِلْآدَمِ﴾ سجدہ

بہن بو ہزرہتی ئادہم۔ ئو وائیش بلا اہمال ﴿فَسَجَدُوا﴾ وا دیارہ مہقامی ئادہمیان ئوہندہ بلند دیت، خویمان ئوہندہ (منکسر) چاو پی کہوت، مہیلیکی وایان تیدا پہیدا بوو بو، کہ جبراً سہوقیان بکا بو سجدہ بردنہ بہر ئادہم۔ بہس منتظری ئہمر بوون۔ ذاتہن ئہوی ئہلی انصاف بی کہ لہ معنویات دا انکسار و ذیللہتی بہسہردا ہات؛ (مادہ) یش اظہاری (تذلل) و

شڪستي خوي نه ڪا .

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ له سجده بردن جو ٿاڏم اباي ڪرد. ﴿وَأَسْتَكْبَرَ﴾ طلبي
تعالی ڪرد. خوي له ٿو زيتر زاناند. له ڪمالي بي خه جاله تي اصداري
له سر ڪبري خوي ڪرد.

﴿وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾ (٣٤) اساساً طينه تي پاڪ نه بوو. خوي به گوره و
بلندر ٿي زاني، نهايت تائو وه قته تووشي امتحاني نه بوو، ڪه ٿو ڪفر و
عناد و جه هلهي لي به ڊهريڪه وي:

خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان

تا سیه پوی شود هر که دروغش باشد. (١)

ٿو سجده لاي من سجده يي حقيقي يه. زيتر، ته سليم و انقيادي
ملائڪه ته ڪان، ڪبر و عناد و عصياني ابليس به ٿو مره نه يا، به
ڊرنه ڊه ڪهوت. ذاتن ٿاڏم و ابليس جو سجده بردن بهر خودا حاضر و
ٿاماده بوون. سبحان الله له حيكه تي خودا، ڪه به ڪفر ٿيمان به ڊه رده خا.
ڪه وابي حاجت به تاويلاتي مه لايان ني يه، پاش ٿم سرگوزشته جه نابي
ڪبريائي ٿو مري ڪرده ٿاڏم:

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ خوت و پرفيقي هياتت لهو

به هه شته دانيشن.

هه تا ٿيستا به حسي (زوجه) نه بوو، لکن به گوڙهي اسراري ٿو ٿايه ته ي،
ڪه به يانمان ڪرد (ولهم فيها ازواج مطهرة) اشاره جو اتمامي نعمت و اڪمالي
له ذذت، اظهاري ٿو مر به دانيشتنن به هه شت به پرفيقي حياتي ٿاڏمي
فه رموو.

ليرهدا ته رکي (اذ) ٿو فه رموي، چونڪي له ميانهدا انڪساريڪي ٿاڏمي
تي داهه يه، هز ناڪا به وه جهي تذڪار به ياني بفه رموي. چون له آخردا

(١) خوش ٿو بوو، ڪه سهنگي محڪي هه بوايه، تا ٿو هي ڊروي بڪردايه روي پش بوايه .

مسامحہ ی کرد، لیڑہ شدا مسامحہ ئہ فہرموی۔ لہ زوبانی فارسی مہ شہورہ:
(بزرگان برداشتهء خویش را نینداخته اند)^(۲)

دیسان بؤ امتحان، کہ ئادہم بہ فضل و علمی خوی مغرور نہ بی و
لہ (شرری) دوژمن ئاگاداریی فہرموی۔

﴿وَكَلَّا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا نُقْرِبًا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ بخون ہہردو وکتان لہ
میوہ جاتی بہ ہشت خواردنی زور، واسع، فراوان، خوش گوار؛ نیکی ئہم
دارہ مہ کہون۔ ئہ ودارہ چی یہ؟ زور قسہ ی لی کراوہ، بہ لام محققہ ہہرچی
بی، میوہ ی ئہ و دارہ زیاد لہ دارہ کانی تر، زور زو تھیج و تہرکی شہوت
ئہ کا۔ ئیوہ ئہ گہر بخون لہ و دارہ ﴿فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(۳۵) لہ خوتان و لہ
انسالتان۔

﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ ابلیسی پر تلبیس تہ لہ زگہ ی پی دان۔ ﴿عَنَّا﴾
لہ و بہ ہشتہ خوشہ، واسعہ، پزق زورہ۔ ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ دہری
ہینان لہ و عیشہ خوشہ ی، کہ تی دابوون، حتی نہ یاندہ زانی معاشرہ
چی یہ۔ ئالات و ادواتی زواج ہہ یہ یان نا.. بہ محبہ تیکی ساف و پوحانی
لہ و بہ ہشتہ خوشہ دا، امراری حیاتیان ئہ کرد۔ ئادہم و زوجہ یشی،
شیطانیش لہ مہ قامی علویتی خویان تنزیان کرد۔ بویئ ئہ فہرموی۔

﴿وَقُلْنَا أَهْبَطُوا﴾ کہ نشستی ظاہری (ترتب) ئہ کا لہ نشستی باطنی
کہ سئ (معنی) لہ مہ قامی دوور کہ ویتہ وہ۔ طبعاً لہ و مہ قامہ دہرئہ کری۔ حتی
بہ ظاہری تییشی دابی لہ حقیقہ دا تییدا نی یہ۔

﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ بعضیک بؤ بعضیک دوژمنن ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ
مَسْنَعٌ وَمَتَعٌ﴾ وہ لہ بؤ ئیوہ ہہ یہ لہ ئہ رزی جئی قہرار و تمتع، یا نہ فسی
قرار و تمتع۔ آدم اصلاً لہ ئہرز خہلق کرابوو (منہا والیہا)، شہیتانیش

(۲) - گہورہ کان ئہ وہی خویان ہہلیان گرتوتہ وہ؛ فرئی نادہن .. (ع . ب)

لہہر ثقلی کبر و انانیتی بوو بہ ئرز. ذاتهن ائقال مائلی مرکزی ئرزہ .

﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ تازہمانیکی محدود، کورت یا دریژ، شہیتانی خبیث، باز لہسہر تمرد و عنادی خوئی مایہوہ . لاکن حہرزہتی ئادہم پہشیمان بوو، توبہ و انابہی کرد، لہ پرووی لطف و کہرہم توبہی قہبول کرد .

﴿فَنَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ ہہرچہند حہرزہتی ئادہم بہ علم و فضل تفوقی لہ ملائکہتی پاک طینہت کرد، ئہمما لہبہر صہفوہتی قلب گیرودہی داو و تزویری ابلیس بوو، ئہمما کردی بہ دہرسی عبرت، کہ جاریکی تر بہ حیلہ و مہکری حیالان ہہلنہخہلہتی، (کانہ) عیلمی سیاسہتیش فیئر بوو . ﴿فَنَابَ عَلَيْهِ﴾ ئہو ثقل و گراناییہی لہسہر لادا .

﴿إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ بہراستی خودای تعالی (توابہ)، حہز ناکا باری گران لہسہر شانی عبادی خوئی دانئ و، تا لہ دائرہی امکان دابی . بویئ بہ شرائطی خفیفہ، توبہی لہ ئادہم قبول کرد . ئہگہر جہنابی حہق ئہو کلماتہ سیاسیہی بہیان فہرموو بایہ، ئہہلی علم ئہیان کرد بہ دہستووری لا یتغیر، ناگیان لہ قہواعدی تزویر و تلبیسی شیاطینی ایام خویمان نہدہما، زوو بہ بندہکہوتن، نہوہک حہرزہتی ئادہم توہم بکا بچیتہوہ مہقامی پیشی . بو قطعی املی لہ حہیاتیکی بسیط فہرموی:

﴿قُلْنَا أَهْبَطُوا مِنهَا جَمِيعًا﴾ قابل نیہ تا قیامت حیاتی بسیطی بیخدعہو مہکر و فیئل چہنگتان ناکہوئ، بہلکوو ئہمہندہیہ ﴿فَأَمَّا يَا تَبِئْتُكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ کہ ہیدایہتیکیان لہطرف منہوہ بؤہات ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ ولو پئیسی اہلی تلبیسیش بی .

﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ خؤف و حزنیان لہسہر نیہ، بہ گوناہی پابدوو نایان گری، ئہمما ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بہذاتی کبریائی ئیمانیاں

به زهرفی به خوا نه بی ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ چ ئایاتی عقلی، چ ئایاتی وه حی .
 ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ئه وانه ره فیک و خاوه ندی ئاگرن ﴿هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ﴾ ﴿٣٩﴾ لیک جودا نابنه وه .

ئه و ماجه رایه چه ند فائده یه کی تی دایه، گهرچی اشاره مان بویان کردوه،
 ئه ماما چه ز ئه کهم به تفصیل عه رضتان بکه م: -

یه کهم: استشاره ی خودا له گه ل ملائکه تان دوور نی یه خصوص، که
 مقصد اظهار کردنی حکمه ت و سرریکی عظیم بی، که له و کاره دا هیه و
 بالخاصه ئه توانین بلین، ئه وه دهرسیکه بو ملوک و سلاطین و امرائو علماو
 عظمای، که مستبد بالراین، سه ربه خو ئیشان ئه کهن . خودایی به و علم و
 عظمت و کبریائی یه، استشاره له گه ل به نده کانی خوی بکا .

ئیوه استشاره له گه ل امثالی خوتان و، به لکوو له ئیوه زیاتر له علم و
 فضل و هوش و معرفه ت نه کهن . جیی تعجب و استغرابه، بویی چه زه ته ی
 رساله ت استشاره ی ئه کرد، وه گه لی جار ره ئی پیاویکی (ادنی) ی ترجیح
 ئه دا به سه ر ره ئی سه رآمه دانی یارانی گزین و عملی پی ئه کرد .

دووه م: ئینسان خاصه، که استشاره ی له گه ل بکرئ، حه قی اعتراضی
 هیه به و شهرطه اعتراضه که ی (موجه) بی . به عنادی لجوجی نه بی .
 ئه وی اعتراضی لی ده گیری با (علامه) ی دهوران و قطبی زه مان بی،
 استکراهی معترض نه کا . به عنف و شددت و جنیو مقابله ی نه کا . نه وه کو
 صوفی یه کان، پاپی یه کان، علی العمیا تسلیم بن - کالمیت بین یدی الغاسل
 . ههرچی پی یان گوترا بلین قوربان وایه . نه وه ک پاپ و شیخ و بعضه
 مه لایه کان، ئه گه ر اعتراضی کیان لی گه ر ئاگر ئه ستینن . نائره ی غضبیا
 دیته جوش، قصد ئه کهن معترضه که پارچه پارچه بکه ن . به تکفیر و تحقیر
 و جنیودان ئابروویان ئه به ن .

سی یه م: ئه وی اعتراضی لی ئه گیری، به که مالی رفق و مه رحه مه ت

ایضاحی مه سئه له بکا . سائله که تی بگه یینئ .. دلائل و براهینی بو تقریر بکا .

چهاره م: به که مالی انصاف جوابی حه ق قبوول که ی، له سه ر عنادی خۆت نه مینئ ی، تابعی حه ق بی .. حه ق نه که یه تابعی خۆت .

پینجه م: بزانی غه یری خوا هه رچی له دائره ی امکان دایئ جهه تی نه قصی هه یه .. خصوص له خۆت بفکری تازیاتر بی، خۆت به ناقص تر بزانی .. به زانی خۆت مغرور نه بی . وه ک ئیمامی شافعی ئه فه رمووی (کلما ادبني الدهر ارانی نقص عقلي، و اذا ما ازددت علماً زادني علماً بجهلي). هه ر وه قتی دهر ئه من تادیب بکا، نقصی عقلم پئ نشان ئه دا و، که علم زیادبوو، علم زیادئه کا به جهلی خۆم .

شه شه م: که سی نه قصی خۆت پئ نشان بدا، تقدیر و ئافه رینی بکه ی، رپی لی نه کیشی .

هه فته م: ئه هلی انصاف، ناتوانئ به قطعی و به اطلاق تفضیلی ئینسان له سه ر مه له ک، یا مه له ک له سه ر ئینسان بدا، چونکی هه ردوو لا جهه تی نه قص و کمالیان هه یه . ئه ماما کمالی مکتسبی ئینسان له گه ل ئه و هه موو علایق و عوايقه هونه رتره و، به طریقی شاعرانه بو تشویقی به شه ر له سه ر تحصیلی علم و معارف تفضیلی بشر له سه ر مه له ک بدرئ چاتره، بالخاصة بو پئ به ستنی عباده تی پوحانیات و بلندکردنی مه له ک بو دهره جه ی الوهیته، تفضیلی بشر له سه ر مه له ک زور مصله حه ت بروان .

ئو ملائکه تانه ی ئیوه ئه لئین (بنات الله) ن، له مه یدانی امتحان له گه ل ئاده م چۆن مغلوب بوون و به کمالی انکسار سه ری افتخاریان بو ئاده م له سه ر خاکی (مذله ت) دانا، ئیوه ش کورپی ئه و بابهن، چۆن ئه و ملائکه تانه ئه په رستن؟ حقاً ئه وه فائده یی زور گه وره یه .

هه شته م: قورئان له مه دح و (ذم) مسلکیکی زور جوانی هه یه . له مه قامی ایجاب بکا گه وره ئه شکینئ، کامل به ناقص ئه نوینئ و، ایجاب بکا ناقص

به كمالی تعظیم یاد ئەكا . (حقیقە) ئەو پښگایه، پښگایښ پاسته، واجب بوو
علمای ئیسلام پښی دا بپوون .

تۆیه م: ئەگەر دوو جههتی گه وره بییت دیت، بزانه کامیان قابلی اکتسابه،
ئەوه اختیار بکه بوو خۆت، ئەو شه ره فه په یدا بکه . شه ره فیکی بوو توو ممکن
نه بی خوپی هه لدانه وهی بی عه قلی یه .

ده هه م: کلامیکی مه عنادارت بیست، به مناقشاتی بی هووده پروه که ی له
کیس خۆت مه ده . چوون ئەبی خودا استشاره ئەکا، چوون خودا قسه ئەکا؟
خودا چوون ئەم هه مووگفت و گوئی له گه ل ابلیس ئەکا؟

به و خه یالاتی بی هووده، خۆت مه مرینه، ئەوجا پاش ادراکی ئەو
حکمیاته، پوو بکه نه ئەهلی فساد و شقاق و عناد بنی اسرائیلی، بلین ئیوه
ئەگه ر کورری ئاده من، ئینسان بن، تی کووشن، ارشادی بنی نه وعی خۆتان
بدن، فساد و تفرقه یان باوینه به یینی، والا دیاره ئیوه ابلیسن چوونه ته
کسوهی بشری، تا تلبیسی حق به باطل، باطل بکه ن به حه ق و، خۆتان
دوچار ی غضبی ئیلاهی بکه ن . وقتاً که له ئایاتی سابقه، علاماتی ئەو
منافقانه ی، که فیلیان له خودا ئەکرد و گه مه یان به ئەهلی ئیمان ئەکرد .
ظاهر و هویدا بوو په رده له پووی هیاکلی ئەو نفاقه هه ل گییرا . به دهر
که وت که ئەوانه پووسای جووله کانن بوئی به خطابی عام پووله بنی
اسرائیلی ئەکا، ئەفه رموی:

﴿يٰۤاِسْرٰٓءِیْلُ﴾ به عنوانیکیان بانگ ئەکا، که شه رم له کرده وهی خۆیان
بکه ن، پوو له فساد وه ربگیررن، په یره وی ئابائی خۆیان بکه ن .
ئەزانن اسرائیل کی یه ؟ (الکریم ابن الکریم یعقوب ابن اسحق ابن
ابراهیم) ه .

﴿اٰذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ﴾ ئەوی (نعم) ی عمومی ئەگه ر لاتان موجبی
شکران نی یه، یادی نعمه تی خصوصی بکه ن، که له حه ق ئیوه م کردووه .

ئو نعمتانهش خوتان ئهيزانن. ياخود نعمهتي ئهوهنده گهوره نه نايته بهيان.

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ پهيماني من به جي بينن ﴿أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ منيش پهيماني ئيوه به جي ئههينم. خوداي تعالي بو كهس وهعدي نه داوه (تو دانيشه و من بو ت ئه كه م)، به شرطئ ئينسان عهدي خوا به جي بهينئ، خوداش عهدي ئه و به جي ئههينئ.

آن زياده فائدهي وهعدي خودا بو قووهتي قلبه، كه (مطمئن) بيئ. ئهوي خودا وهعدي دابي، ئه بي هه ر بيئ.. به صدمات و موانع سستي نههينئ. لهه مو مقصودتر له و عهد و پهيمانه ئهويه ﴿وَإِنِّي فَأَرْهَبُونَ﴾ هه ر له من بترسن. قهومي كه له غهيري خودا بترسئ، ترس غلبه ي لي ئه كا، ئه و قه ومه قهت غالب نابئ، دائماً ئه بيته ژير چه په لوك. ئه م ما تا له خودا زياتر بترسن، ئازاتر ئه بن.

سبحان الله له و خودايه، كه بهنده گي بو ئه و ئازادي به! ترس له ئه و ئازايي به!..

﴿وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ هه ر ئيمان بينن به ئه و كتبه ي، كه نار دوومانه به مؤيد و مقوي بو ئه و كتبه ي له گه ل ئيوه به. حتى ئه و كتبه ئه گه ر ئه و كتبه نه بيئ.. ئه و رسوله صادق نه بيئ، كي ئه توانئ بلي ئه و منداله ي، كه له ناو صندوق به ئا و دادرا و هه ل گي رايه وه له بني اسراييلي به؟ الانيش بعضئ كهس به علني ئه لين: (موسى) كورري فرعونه، كه ئيوه تكذبي قورئان بكن، ئه بي تكذبي نه سه بي پيغه مبه ري خوشتان بكن. به و ئيمانه صحيحه ئيوه له (موسى) و له ته ورات دانا برين.. ذاتهن موسلمان (امتي) هه موو پيغه مبه رانن، كه خاتم الرسل به ديني اقوم و اكمل و اتم، له غايه تي نه زاههت و خاويني ته مثيليان ئه كا.

﴿وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِينَ﴾ مبادره مكه ن به انكار، مه بن به اول قهومي

باورر نه کهن به قورئان؛ دهنه ئیوهش فهرقتان نابیی له گه لئو و گرووهانهی، که گورج انکاری موسی و ابراهیم و پیغه مبه ره کانی تریان ئه کرد.. ئه گه ر ئیوه معذورین، ئه بیئ ئه وانیش معذورین.. ئه وانیش عادات و عنعنات و ئادابیکی قهومی خویمان بووه.

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآبَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ئایاتی خودا، ئه حکامی سماوی، که زور قیمهت داره، به چشتی که می مه فرۆشن و، هه رشتی له مقابلی ئایاتی ئیلاهی وهرگرن. ئه گه ر دنیا و مافیها بی، له حه قیقه تدا که مه، ئه و (خسه ت) و دهنه ته، له خواص و مزایای مه لایه کانیان بووه.

﴿وَأَيُّهَا قَاتِلُونَ﴾ هه ر خو له من بپاریزن.. قه در و قیمه تی من و ئایاتی منتان له لابی. خودا خوئی ئه زانی هه ر دینی، هه ر ئایینی، که تیگ چوو بی، به واسطه ی ئه و خو فرۆشانه ن دهنی هیممه ت، بی خوین و ده مار.. شه رری ئه و گرووه بو دین گه لی زوره و، اعظمی مصیبتان ئه و گرووه به دطینه ت و به دره وشت و به دکردارانه ن، که لیباسی تزویر له به ر حه ق ئه که ن. حه ق به باطل به صورته تی حه ق ئارایش ئه دهن. حقا ئه وانه عه ینی ابلیسن.

﴿وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ به طبعی شاعرانه تان، لباسی باطل له به ر حه ق مه که ن. ئه مرۆش ئه و نه وعه ابلیسه زورن، به لکوو له هه موو اعصار و ازمنه ی سابقه زیاترن. حتی ئه وانه ی، که به ناوی اصلاحی دین هاتنه پیش، دللی موسلمانانیا ن جلب ئه کرد.. ئه وه ندی پی نه چوو په رده ی تزویریا ن در، ئاشکرا بوو له په نای ده عوای اصلاح، ده عوای پیغه مبه ری یان کرد و، گه لی (سخیف العقل) یان پی هه ل خه له تا!.

ئه وانه ی که تمثیلی حه ق به باطل، باطل به حه ق ئه که ن.. نه فره ت ئه که ن له تمثیلی حه ق به حه ق، تلبیسی ئه ویش ئه که ن، ئه لین: (ماذا اراد الله بهذا مثلا).

﴿وَتَكْنُوهُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ﴾ ﴿۴۲﴾ سیاستی ئہوگرؤہہ (اولاً) کتمی
 حہق، پاشان اظہاری باطل بہ سورہتی حہق. وہ ئہشزانن، کہ ئہوانہ ئہو
 کارہ بہدبہختیہیان ئہکرد، لاکن لہبہر ہہوا و ہہوہس، طمعی پریاسہت و،
 بہلکوو بہ (خہیالی) تہشکیلی سلطہنہت مبالاتیان بہو بہدکاریہ نہدہکرد.

﴿وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ ﴿۴۳﴾ پڑسای دین بہ
 عمومی، تووشی حالی ئہبن، خویان لہ مہقامی زور بلند ئہزانن، ئہلین:
 ئیمہ (خواصین) و خواص الخواصین، لہوہی گہورہترین، کہ عباداتی عوامی
 بکہین، ئہمہش دیارہ لہ کبر و انانیت و غرورہ.. بویٰ خطابیان لہگہل
 ئہکا، ئہفہرموئی نوپڑ بکہن و ہکو خہلقی، و ہک شہیتان خوی لہ زومرہی
 ملائکہتان دہرکرد، ئیوہ خوتان لہ گرؤہی ئہو عوامیہ صافدلانہ، کہ
 مداری معیشہت و گہورہبیتانن دہرمہکہن.. وہ زہکات بدن!! خوتان ئہزانن
 چہند بخیل ئہبن، حتی لہسہرمہرگیش کہس استفادہتان لی ناکا.. لہگہل
 پاکع و مطیعان مطیع بن.. پشتی خوتان نوی کہن، بہ کبر و سہرافرازی
 مہکہن.. تہماشای ئہو پیغہمبہرانی عظام بکہن، کہ خوشیان خادمیک
 بوون و ہکوو سائری افرادی (امت)، ہیچ وہقت لہ خزمہت خدا، لہ ملاحظہی
 حالی ئوممہت غافل نہبوون.. چ تہکلیفیکیان لہ ئوممہت کرد، بو خوشیان
 کردوویانہ و ہکو ئہوان؛ لاکن ئہو پڑحہ، ئہو زہوقہ، کہ ئہوان لہو عباداتی
 عامہیان چیشتوہہ.. بہ خہیالی عوامدا نہہاتوہہ. ئیوہش ئہگہر پاست
 ئہکہن، و ہکو ئہوان بن روحی عبادات بہ چہنگی خوتان بخہن.

نابینن کہسیکی صاحبی شہوق و ذہوق، تہماشای بہہار و باغ و پاغ
 ئہکا، گولوکی رہنگاورہنگی دیتہ بہرچاو، جمالیکی دیتہ بہر نظر، کہ
 عہقلی تیدا حہیران ئہبی.

کہسیکی بی ذہوقیش تہماشای عہینی مناظر ئہکا، (مع انہ) لہ حیوانات
 زیاتر چلی دہرک ناکات.

﴿ **أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ** ﴾ ئہ مر دہ کہ نہ خہ لقی بہ چاکہ و، خۆتان له فکر ئہ کہن، بہ درؤ و دہ لہ سہ دنیا له پئیش چاوی خہ لقی ئہ خہن. مال و دہ ولہ تیان بہ (نذروہبہ) و وہ قف و وہ صییت و زہ کات لی سلب ئہ کہن، خۆشتان زہ کات نادہن!! ئہ مریان ئہ کہنی بہ اطاعہ و تسلیم بن (کالمیت بین یدی الغاسل)، خۆتان دہ ربارہی خودا، بہ کبر و انانیت و گہ ردهن افزازی له ئہ مری ئہ و ئہ چنہ دہ رہ وہ. ئہی واہ بہ حالی ئیوہ... ﴿ **وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ** ﴾ ئیوہ کتیبی ئیلاہی ئہ خویننہ وہ.. ﴿ **أَفَلَا**

﴿ **تَعْقِلُونَ** ﴾ ﴿ ۴۴ ﴾ عجا ہیچی لی تی ناگہن؟ عجا ئیوہ تی ناگہن، کہ صاحبی کتاب ئہ مری بہ چاکہ کردوہ و، خۆشی دائماً خہ ریکی چاکہ کردن بوہ. خۆیان له زمہی ئوممہ تی خۆیان نہ ہاویشتوہ تہ دہ رہ وہ، بہ لکوو علاوہی تکالیفی عامہن تکالیفی بہ (مشقہت) تریان ہاویشتوہ تہ سہ رخۆیان چارہی ئیوہ بؤ دہ فعی پزیلہیی کبر و بخل ئہ وہیہ ..

﴿ **وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** ﴾ صبر و ثبات بکہن لہ سہر کسری نہ فسی خۆتان، مصارعہ و مخاصمہی لہ گہ ل بکہن.. تاکوو پامی ئہ کہن و ئہی ہیننہ وہ مہ قامی خۆی.. بیکہن بہ متواضع، کہ خۆی لہ آحادی ئوممہت حساب بکا، چ جورہ طاعات و عبادہتی خودایان کردوہ، ئہ ویش بیکا بہ لام:

﴿ **وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ** ﴾ ئہم استعانہ بہ صبر و صلاۃ گرانہ، ئہمما گران ﴿ **إِلَّا عَلَى** الخشيعين ﴿ ۴۵ ﴾ ﴾ الا لہ سہر ئہ وان کہ سانہ نہ بی، کہ خاشع و متواضع و خوشکین بن.

﴿ **الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنْتُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** ﴾ ﴿ ۴۶ ﴾ ئہ وانہی کہ گومان ئہ بہن ملاقاتی خوی خۆیان ئہ کہن و، گہ ررانہ و ہیان بؤ لای ئہ وہ. یہ عنی ئہ و کہ سی گومانیکی ہہ بی، کہ حشر و حساب ہہیہ، مرجع خودایہ .. ئہ و

خراپانه ناکا، استعانه به صبر و صلاة، له سهر ئه وانه ئاسانه، که وایی مقصد له و ئایه ته اشاره یه، که ئه و گرووه به دطینه ته گومانیشیان نی یه، فضل له علم اشاره ییکیشی هه یه، که سیکی متقی بی خوی له مظنوناتیش ئه پاریزی، چشتیکی گومانی خراپه ی لی هه لستی، نایکا .

خطابی بنی اسرائیل، تا ئیره له گه ل ئه و گرووه بوو، که حاضری زهمانی نبوی بوون، له مه ولا توجیهی خطاب بو بنی اسرائیلی پیشی یه، ئه ماما مقصد زهر و توبیخ و عتابی (حاضرون) ه، بوئی تکرار به عنوانی سابق و سه ره له وحی تذکار به ئه مری مشترک له به یینی فریقین ئه فه رمووی:

﴿يَبْنَئِ اسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾﴾ من ئیوه م ترجیح دا له سهر عالم، ئه وی بو ئیوه م کرد، بو هیچ شعبیکم نه کردوه، خاصه بو تعلیم و تربیه تان، (لا یعد) انبیام له خوتان ناروده ته سه ر خوتان، تا کوو له دین و دنیا مستقل بن.. تا که س فخرتان له سه ر نه کا.. هه رچه ند جه نابی حه ق له هیچ خصوصیکه وه نعمه تی خوی له ئیوه دریغ نه کرد.. اسبابی استقلالیتی دنیا و قیامه تی پی که ره م کردن، لاکن مع الاسف بی فائده ده رچوو، ترجیح کران فقط، ترجحان نه بوو. وه کو کوردی ئه لی:

« هر چند ته تکه م به سه رپالوو،

ئه ماما خوت ته که یه بن پالوو .»

له اعظمی نعمی ئیلاهی، انتسابتانه له جهه تی حسب و نسب بو پیغه مبه رانی عظام، به لام ئه ویشتان کرده مایه ی شقاوه ت و گومراهی بو نجاتی اخروی اعتمادتان دایه سه ر (نسب)، به لام ئه وه زور خراپه .

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ خوتان پیاریزن له و پوژهی، که که س له جیاتی که س هیچ حه ق قضا ناکا، هه ر که س حقی که سیکی له سه ر بی، ئه بی خوی ادای بکا . ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ﴾ له و پوژده هه یچ تکا

قبوول ناکری له کهس . ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ له هیچ کهس (فدییه) وهرناگیری . فدییه معلومه له پوژی قیامت نییه .. ئه وه ئه وه فدییه، که ئه مرپو خوتان پی هه لئه لاتاندوو و عالمی پی هه لئه خه له تینن، که مصلحی گه وره له ئیمه خوئی کردوو ته فدییه عالم .. ئیمان به و فدییه بئینن، ئیتر هه رچی ئه یکه ن بیکه ن زهره رتان نادا .. ده رئه که وئی، که ئه م فدییه، نییه، قبوول نه کراوه، خه یالئیکی مؤمنانه نییه، له کافره کانی (بوذه وی) و ئه مانه وهرگیراوه .. چو ن ئه وان محروم ئه بن؛ ئیوه ش محروم ئه بن .

﴿وَلَا هُمْ يُنصرون﴾ (۴۸) هیچ کهس له طرف هیچ که سه وه نصره ت نادرئی . ئه م ئایه ته صریحه، که له پوژی قیامت شفاعت له کهس بو کهس نییه و، فی الحقیقه قطعی امل له غه یری خودا سوقی ئینسان ئه کا بو ئیمان و (عمل)، شفیع و یار و یاوه ری که له ئینسان جودا نه بیته وه؛ هه ر ئیمان و عمله .

به لام مه لایانی ئیمه، که (ئه هلی سنه و جماعه تین) لامان وایه، که شفاعت هه یه . بعضی توجیها ت و تاویلاتیان بو ئه م ئایه ته کردوو، که روح و په ونه قه که ی بردوو، زور چاک به دلله وه ناچه سپی . منیش عه رضتان ئه که م، ئه وانی امیدی شفاعه تیان هه یه دوو قسمن:

اولیان: به امنیه و خه یال اعتماد ئه دهنه سه ر شفاعه ت . نه فسی خو یان به ره لدا ئه که ن، له اطاعه ی خودا ده رئه چن .. حتی تکاکاره کان به شریکی خودا ئه زانن . به لکوو (نوعاً ما) حاکمی یه تیکیان ئه دهنی له سه ر خودا .

لاشک شفاعت بو ئه وانه له هه ر ئوممه تی بن، له هه ر خانه دانی بن نییه .. نه ئه مرپو نه پوژی جزا (الی ابد الآباد) ئه و تکایه، تکاکاره هه ر نییه!

دووهمیان: ئه وانه ی که گونا هیکیان لی صادر بوو؛ خه جاله ت ئه بن .. له

کمالی شهرمه زاری سه ربه خو، ناتوانن پروو بکه نه ده رگاهی ئیلاهی عالم،
 ئه و جا پرووی پجا ئه که نه یه کئی له (مقربانی) باره گاهی کبریائی، ئه یکه ن به
 وه سیله، که خودا وهندی غیور قه له می عفو به گونا هانیان دا بینئ، وه ک
 سعدی ئه لئ:

« من نگویم که طاعتم به پذیر »

چونکه خوّم به صاحبی طاعت نازانم، به لکوو له پرووی انکسارو
 (مذلهت) هوه عه رض ئه که م « قلمی عفو بر گناهم کش ». بی شوبهه
 ئه وانه له شفاعت استفاده ئه که ن، شفیع خویان ناکه نه حائل له بهینی
 خوا و خویان.

ئه و جا هات یه ک یه ک له نعمی ئیلاهی، که له حه ق بنی اسرائیلی یه کانی
 پیشووی کردووه و اثری ئه و نعمه ته له (حاضرون) دا ماوه. از جمله نجاتی
 بنی اسرائیلی یه له فرعون. ئه مریان ئه کاتی به تذکاری ئه و نعمه ته .

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ مه لایانی نابله له ته ئیخی مصر
 گه لئ قسه ی پرروپو و چیان له فرعون کردوه .. حتی مه لایان اشتقاقی ئه و
 کلمه یان له (فر) و (عون) وه رگرتووه، لکن ئه مپۆ ته ئیخیان ئاشکرایه . ئه وی
 مجلاتی مصری یه بخوینتته وه، حال و ئه حوالیان ئه زانی. حتی له و بهینه
 هه یکه لی فرعه ونی (موسی)، که (توت عنخ آمون) ی پی ئه لئین، له اهرام
 هینایانه دهره وه و مامورینی گومرک، په سمی مروری هه یکه لی فرعون ی به
 قانونی (رسم السمک) ئه ستاند (سبحان من لا یتغیر).

﴿يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ عملی شاقه یان ئه هاوینته سه ر، (کانه) وه کو
 حیواناتی له چراگاهی به درک و چقل و چرگان ئه یان له وه پاندن. له وه پتان
 عه ذابی پیس و ناخوش بوو. ﴿يَذَبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ سه ری کوره کانتانیان
 ئه برری.

﴿وَلَيْسَتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ مانه وه ی ژنه کانتانیان ئاره زوو ئه کرد. البته ئه مه

خۆپایی نه بوو، کاریکی (وایان) پئی بوو. قورئان له بهر غایه تی حیا، شهرم ئەکا اظهاری بکا. مه پرسه له بی ناموسی بنی اسرائیلی، شهرم و حیاو عاری نیه! ئەو وه قته که بغداد استیلا کرا چی یان کرد؟ هه موومان ئە زانین لهو سایه وه، نائلی ماموریه ت بوون و، ئە مپۆش ئەو حورمه ته یان هه رماوه .

﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ﴾ لهو عه ذابه، یا لهو نجاته بۆ ئیوه هه یه . ﴿بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ

عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ امتحانی گه وره له طرف خوا، عجا پوچی حیاتتان هه یه، یان مردوون؟!

ذاته ن به ته ئریخ ثابته ، گه لئ ئوممه ت له طرف دوه لی غالبه تضییق کراون، تحقیراتیان دیتوووه؛ له نتیجه ی تضییقات ئاگری غیره ت له دلئ ئەوان دا هه ل بووه، فورانی کردوووه .. تاکوو له ژیر نییری ئە ساره ت نه جاتیان بووه .. به کمالی شکوه تۆله ی خۆیان کردوه ته وه . به لام شرطه ئەو ئوممه ته صفوه تیکی پوچی هه بی .

وه کو ئاو، تا زیاده تضییق بکری، به قووت تر ده رئه چی . یاخود بهو نه جاته امتحانمان کردن، تاکوو بزانه پاش په فعی ئەم به لایه چی ئە که ن؟ به چ احتیاطات و احتیاطات محافظه ی خۆتان ئە که ن، که دووباره تووشی (مذلت) نه بنه وه و ممکنیشه، (ذلکم) اشاره بی بۆ هه ردووکیان یه عنی له (کل) یک له نه جات و عه ذاب، که بۆ امتحانی ئیوه بوو. انعامی گه وره ی تی داهه یه . به لام لهو نعمه ته محروم بوون، له امتحان ده رنه چوون . ئە گه ر که سی به خه یالی دا بی، که بنی اسرائیلی به مه ردی و مه ردانه گی، خۆیان له چنگ فرعون نه جاتیان بوو وه ک بعضی (امم)، که عه رض کرا بۆ ده فعی ئەو توهمه، ئەو خه یاله خاوه به وه جهی تذکار ئە فه رموی:

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾ یاد بکه ن ئەو وه قته ی، که به حرمان بۆ ئیوه

شەق کرد، لیک جودا کرده وه، با وجودی ئەو فرقه محض به قودره تی ئیلاهی بوو. ئەمما ئە وه نده به ترس و له رز به ناوی دا ئە پۆشتن (کانه)

خویان بہ حرہ کہیان شہق ئە کرد، بۆیئ ئە فہرمویئ (بکم).

﴿ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ﴾ ئیوہمان پزگار کرد لە دەستی فیرعہون. ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ

فِرْعَوْنَ ﴾ فرعون و آلی فرعونمان خنکاند ﴿ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ﴾ ئەو نظر و تہماشایہ بۆ بنی اسرائیلی زہمان حہرزہتی موسی، پای العین بو، بۆ ئەوانی زہمانی سعادت نہ جاتی بنی اسرائیلیان لە بہ حر و غہرقی فرعون و آلی فرعون لە بہ حر، بی واسطہی طبیعی ئەمریک بوو، مشہوری انام — جیلا بعد جیل — بہ تواتر قطعی گہیشتبوو، حتی (طبیعیون) ہکانیش ئەیان زانی. گایہتی خہریک بوون بعضی اسبابی طبیعی بۆ بدۆزنہوہ، لە بہر ئەوہ (کانہ) بنی اسرائیلی زہمانی سعادتیش پای العینیان بۆ مشہودیان بوو، کہ تہماشای خویان بکردایہ، کانہ تہماشای حادثہ کہیان ئە کرد.

ئەگہر بہو نہوعہ آبائی ئەوان نہ جاتیان نہ بوایہ، ئەمان ہەر نہدہ بوون. حقیقہ ئەو نظرہ بۆ ئەہلی نظر، گہلی بہ قووہت ترہ لە تہماشاکردنی چاوی. ئەوجا بزانی ئەوانہ مقابلی ئەو نعمتہ عظمایہ، ئەو خارقہ کبرایہ، ئەو عنایہت و کہرہم و لطفہ، چییان کرد؟

﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ ئەمہش یاد بکہن، کہ وەعدہمان دایہ

حہرزہتی (موسی) بۆ پزئیشاندان، پاش چل شہو کتیبیکی پی کہرہم بکہین، کہ تفصیلی ئەم مواعدہ لە بعضی ئایاتی آتیہ ئەزاندری.

تہئریخ عالم شاہدہ و ئەمرۆش، کہ ئەلین عہصری مدنیہت و علمہ، عہینی حال ثابتہ. قہومی، میللہتی مغلوب لە نعمتہتی علم محروم ئەکہن، تابتوانن لە گیزاوی جہلدا ئەیان خنکینن. بنی اسرائیلی، ئەگہر چ محروم بوون لەو نعمتہ، ئەمما ئەوہندہ غرقی جہالہت بووبوون. حسیان نہدہ کرد، لاکن حہرزہتی (موسی) زۆر متاسف بوو، دلێ بہ قہومی خوی ئەسووتا، لە پاش نہجات اہم مہمات لە نظر (کلیم) ئەوہ بوو، کہ خودای تعالی کتیبیکی پی کہرہم بکا بہ طریقی تعلیم و تعلم، قہومی خوی بکا بہ ئینسان. گہلی

جار ئارہ زووی خوئی عہری (کبریائی) ئہ کرد.

جہ نابی باریش پرووی قبولی نیشان ئہ دا، بویئ ئہ فہرموی (واعدنا) به (صیغہی مشارکہ) پاش ئہ وہی، کہ خودای تعالی کتیبی احسان کرد به موسی .. به ئومیڈی ئہ وہ بگہ پیتہ وہ، قہومی به و نووری ہدایہ تہ له به حری ظلماتی جہل بہینتہ دہرہ وہ .

حہ قیقہ ت فہرقی به حری جہالت، فہرقی زورہ له گہ ل فہرقی به حری ئاو . نہ جات له به حری ئاو جسمانیہ، نہ جات له به حری جہالت پوحانیہ، حیوانیش ئہ توانی به مہ له له ئاو بہ پیتہ وہ، ئہ مما له حیوانی خوئی ناتوانی دہرچی .

﴿ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ له پاش ئہ م ہہ موو حال و حیکایہ تہ، گولکتان اتخان و قبول کرد به خودا . ﴿مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ دوییی چونی حہ ضرہ تی (موسی) بؤ میعاد . حقاً ظلمیکہ له ئہ ندازہ بہ دہر، عہقل تپیدا متحیرہ، لکن جہل ہہ موو چشت به ئینسان ئہ کات .. ئہ و ظلمہ ظلمیکی ئہ وہ ندہ فاحش بوو، کہ ناپیتہ خہ یال . ہہ روہ کوو اتخانی عجل له غایہ تی دووری دا بوو . غفویش له و ظلمہ له منتہای دووریہ . بویئ به عنوانی (ثم) ئہ فہرموی:

﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ له پاش ئہ م ظلمہ بیئہ ندازہ، اصلاً حہ قی عفویان نہ بوو . ئہ مما جہ نابی کبریائی له غایہ تی بہ ندہ نوازی، ئہ و ظلمہ گرانی بہ شتی کہ م ہینایہ بہر نظر، مسامحہ ی فہرموو .

﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ بہ لکوو ئہ و جا تی فکرن، شوکرانی ئہ و نعمہ تی فوق النعمتہ، فوق القصور، فوق الخیال، فوق الأمل بکن و، تاہہ موو کہ س بزانی ہہر کہ سیکی ادنی ادنی ئہ مہ لیکہ ہدایہ تی لی بکری، خودای تبارک و تعالی دہرگہ ی رہحمہ تی لی نابہ ستی، دلّی مؤرناکا، چاوی کویر ناکا . ئیوہش وکو بنی اسرائیلی سطحیانہ تہ ماشای ئایہ تی خودا مہ کہن،

ئەوجا تەماشایە کەن قەومییە معاملەیان دەربارەیی خوایی، وا بە لطف و کەرەم، پێغەمبەری وا غەمخوار و ساعی بۆ نەجاتیان لەو مصیبەتە گەورە گەورانە، باوجودی نزیکە تاریخیان لە پێغەمبەرانە ئابائی کرامی خۆیان پاش ئەو معاملەیی ملپانانە، کە دەربارەیی پێغەمبەرانە دووای حەضرەتی (موسی) یان کرد؛ ئەبێ پەفتار و معاملەیان دەربارەیی پەسولی عەربی چ بی؟! ..

کەسێ ادنی معلوماتیکی بە احوالی ئەوان هەبێ، چۆن بپروایان پێ ئەکا؟ پێیان هەڵ ئەخەڵەتێ (ارجوفەیی) ئەوان چۆن ئەکاتە دەلیلی طعن لە قورئان؟ لە نبووەتی پەسولی ئاخەر زەمان؟ پاش ئەو عەفوە، ئەو ئەمەلی شوکرانە بە ئومیدی ئەو کە لە کتیبی ئیلاهی، ئەوجا استفادە بکەن، (کانە) سەرپەخۆ بێ نظر بۆ مؤاخذەیی سابقو اتخادی عجل، تذکاریان ئەکا بە کتیبی هادی ئەفەرموئ:

﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ کتیبیکی فارقی بەحری جەهالەت، هادی - پێی پشاد بە موسی مان کەرەم کرد لە ئەمەلی ئەو، کە ئیو نەجاتتان ببێ، چی تر دوای احساساتی خۆتان نەکەون. گەرچی جەنابی کبریائی، گوناھی بنی اسرائیلیانی نظر بە مەرەمەتی خۆی کەم نواند. لاکن ئەو عەفوە (سلمە السلام) بە جارێ هەموو بنی اسرائیلی لە پێدەرئەچوون. بۆیە نەسبەت بە حەضرەتی موسی تذکاری عفویمان ئەکا ئەفەرموئ:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ کانە ئەو فکرو پەئییە، پاسا لە طرف حەضرەتی (موسی) وە بوو بۆ قەومی خۆی، بۆیە نافەرموئ (واذ قلنا لقومه) و نوعاً ما انقطاعیکیش ئەنوین، لە بەینی خودا و قەومی (موسی). حتی بە عنوانی بنی اسرائیلیش یادیان ناکا. حەزرەتی (موسی)، کە لە میعاد گەررایەو مطلق بوو، لە سەر ماجهرا تاملی فەرموو، بە فکری صائبی

خوی زانندی، که نه جاتی قهومی له ظلماتی جهل نابی، الا به فهوتانی ئه و
گرۆهه، که گۆلکیان په رست. به ئومیدی نه جاتی بقیه له کفر و ضلال
قورتار بوونی گۆلک په رسته کان له عهذابی ابدی، چاره ییکی نه دیت الا
انتحار. ئه و جا پرووی کرده قهومی خوی فه رمووی:

﴿يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلِ﴾ ده نائت و خه بائته تی
نه فستان گه یشتوه ته دهره جهیه ک، نه ته نها له زومره ی پسل، به لکوو
خۆتان له سلکی بشری دهر کردوو. اصلاً به فکر و نظر، به ئایاتی بینات
اصلاحتان نابی. لاکن هر وه کوو له دنیا انقطاعان کرد له خودا، با له
حیاتی عقبی له په حمته خودا محروم نه بن.

﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ﴾ رجوع بکه نه وه لای خودا، ئه ماما به تزکیه و تطهیری
نفس ئه و تۆبه یه غهیره قابله. ﴿فَأَقْضُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ چاره تان نییه، الا انتحار
نه بی، خۆتان خۆتان بکوژن، نه وه ک فرقه ییک فرقه ییک بکوژی. مه بادا
ببیته سه به بی عداوه تیکی زیاد له به ینتان دا. چۆن تۆبه و انابه ی
ملائکه تان، ظهوری خه بائته تی شهیتان، چ چاره ییکی تری نه بوو، الا به
سجده بردن بۆ حه ضره تی ئاده م، ئه مانیش چ چاره یان نییه الا انتحار.
که وایی حاجت به تاویلاتی مه لایان نییه، که خویان پیوه ماندوو کردوو.

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ بۆ قیامه ت ئه وه یه به که لکتان بی ﴿عِنْدَ بَارِيكُمْ﴾
له لای خودای خویان، ئه گهر به هیچ نه وعیک چاره یان بکرایه، محقق قرار
له سه ر انتحاریان نه ئه درا.

وادیاره ئه وانیش قبولیان کرد له وه قتی شروع له انتحار، حضره تی
(کلیم) خه به ری دانئ به قبولی تۆبه، فه رمووی ﴿فَنَابَ عَلَيْكُمْ﴾ چونکه به
پاستی شهرتی تۆبه یان هینایه جی.

﴿إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ لاشک قبولی تۆبه له و نه وعه که سه،

(ولو) بہو صورہتہش بی عہینی مہرحہمہتہ، زیڑا ئەگەر خۆشیان انتحار نہکردبوایہ، ہەر ئەمردن و ذاتہن لہ حیاتی مادی خۆشیان مایوس بوون. عجا بزانیئ ئەو بقیہی باقیہ، کہ گویا لہ پاش نزولی کتاب فارقی بین الحق والباطل مانہوہ، بزانیئ لہو کتیبہ استفادہیان چ بوو؟ بہو نوری نجاتہ بو چ جہہتہی پۆیشتن؟ بو تذکاری حالی ئەوان ئەفہرموی:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اٰلٰهَ جَهْرَةً﴾ کانہ لہ نتیجہی فضائلیان، واتئگہیشتن لہو ئایاتی، کہ حہضرہتی موسی بویان شرح و ایضاح ئەکا ئیمانہکەیان تقلیدی محضہ، ئەیان ویست ئیمانہکەیان ببی بہ شہودی، وەک صوفیہی ئیمہ، کہ ئەلین نظر اعتباری پئنیہ، ہەر (شہود) حسابہ، کہ لہ تصفیہوہ پەیداببی، بہ ئایاتی پیغمبەران رازی نین، ئەلین (حدثنی قلبی عن ربی) نازانن شہود ہەر شہودی عقلیہ، ئەوہندہ ئەحمەق بوون نہیان ئەزانی، کہ دیتنی چشت لہ مقولہی ئیمان نیہ، ئەوجا گوتیان ابداً ئیمہ ئیمان ناہینین بۆتۆ.

وایان ئەزانی، کہ شہودی ئیلاہی ئەوہیہ، کہ بہ چاو ببینری و لہ پیشہوہش قورئان، فہرموی ہیدایہتی کتیبی ئیلاہی ئەوہیہ، کہ قابلئ ئیمان بالغیب بن. ئەوانی ئیمان بہ غەیر محسوسات نہہینن اصلاً لہ کتیبی ئیلاہی استفادہ ناکەن و، دیارہ علیالعلوم ئەو بنیاسرائیلییانہ حس پەرست بوون. لہ عەصری (موسی) چۆن بوون، طبیعی لہ عەصری (محمد) دەھا خراپتر بوون، دیارہ ئەم گرۆہہ لہ گۆلک پەرستەکان خراپتر بوون. ئەوان نوعاً ما انکساریکی نفسی یان ہەبوو، خۆیان لایق نہدەدیت، کہ خودا ببینن، بۆی بہ تمثال اکتفایان کرد، ئەمما ئەوانہ بہ غەیری دیتنی ذاتی کبریائی، بہ چیتر اکتفایان نہدەکرد.

چارہی ئەوانہ چیہ؟ وەک مەلایانی ئیمہ ئەفہرموون، لہ حەق (عنادیون) نان سووتانہ، ھاویشتنہ ناو ئاگرہ. یا بسووتین لہ کۆل ببنہوہ، یا اعتراف بکەن.. دەست لہ عناد ھەل بگرن، بۆی ئەفہرموی:

﴿فَأَخَذَتْكُمْ الصَّلَاقَةَ وَأَنْتُمْ تُنظَرُونَ﴾ ﴿۵۵﴾ بروسکھی ئیوہی گرت، خوتان دیتان چ بروسکھی بوو، له دانشمہندیکیان پرسی، بو ئینسان چ چاکہ؟ فہرموی علمی کہ عالم نفعی لی ببینی. گوتیان ئہ گہر ئوہ نہ بوو؟ فہرموی: عہ قلی کہ مداراتی پی بکا بہ حسنی سلوک له گہل عالم بژی. عہ رضیان کرد، ئہ گہر ئوہش نہ بوو؟ فہرموی بروسکھی بک بی له ئاسمان لی داو بیسووتینی.

دیارہ ئہ صاعقہیہ، صاعقہیہک نہ بوو، کہ بہ تہ واوہتی بیان گری و بیان مرینی، بہ لام حرکہ و هوش و گوشی لی بررین. ہر ئوہ بوو ہناسہییکیان ئہ ہاتو ئہ چو، وک مردو بوون.

لہ و سالانہ لہ لای (بیلاوہ) بروسکہ لہ دوو کہسانی دا، یہ کیکی دہرحال کوشت، ئوی تریان چاکہ نہ گرتبوو، بہ لام وک مردو و ابو بردیانہوہ چہند پوژ لہ جی کہوت، بی هوش و گوش، بی خواردن و خواردنہوہ. دواپی وردہ وردہ چاک بووہوہ، لکن پاش چہندی لہ شہ خصیکی بیلاوہی ئہ حوالم پرسی، گوتی (حقیقہ) چا بو تہوہ، ئہمما ئیستاش ہر گیژ و ویژہ، چ ئاگای لہ خوی نییہ. ئہ و قہومہ پاش بروسکہ کہ زور دور بوون لہ حیات، ئہمما جہنابی کبریائی بہ قوہتی فاطری، چاکہ کردنہوہ، پاش ئہ و مردنہ زندوی کردنہوہ.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾ ﴿۵۶﴾ لہ پاش ئہ و مردنہتان ﴿لَعَلَّكُمْ﴾

﴿تَشْكُرُونَ﴾ ﴿۵۶﴾ بہ پجای ئوہ ئیوہ شوکرانہی خودا بکن. لہ مقابلہی ئوہ حہیاتہ حسییہ، حہیاتیکی معنوی، شعور و ادراکیک بہ مقامی کبریائی پیدای بکن.

ئو نہ خو شہ بروسکہ لی دراوانہ، گیان و بہدہن سووتاوانہ، لاشک احتیاجیان بہ دوو چشت ہہیہ؛ یہک: سیبہر بو فینکایہتی، یہک خواردنیکی لطیف، ہم دہروون پاک بکاتہوہ، ہم قوہت بدات.

له و چۆل و صحرا و بیابانه، ئەو سیبەر و خۆرشه چۆن به دەست ئەکهوئ؟ محضا به قودرەت نەبی دەستگیر نابئ، بۆیئ ئەفەرموئ:

﴿وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾ ئەو ههوره، که مەنشەئى بروسکه یه بۆ ئیوه مان کردە چەتر و سایه بان، له سەر ئیوه مان هەلدا.

﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى﴾ ناردمانه سەر ئیوه بۆ تنقیه و تقویه، گەزۆ و شیلاقه .

اکثری مفسرین ئەفەرموون (ترنجبین) ه. «آلوسی» ئەفەرموئ: (ترنجبین) شتیکه به زهوی ئەچئ، مزوۆکه یه. گەلیک مفسریش ته فسیریان به گەزۆ کردووه .

له ولاتی ئیمه له شاخ و داخی کوردستانمان زۆر ئەکهوئ، وهک خوناوک ئەنیشیته سەر دار و بهرد له و جئى ته واو فینک بی ئەمه یی، رهق ئەبی. له و جئى گهرم بی، یا وشک نابئ، که کۆبکریته وه ئەوهی ئەکهوئته سەر گیا و بهرد خه سار ئەبی، ئەوئ ئەکهوئته سەردار و باری بی بهر، لقه کانی داره که ئەبرن له ئاوی گهرمی هه لئه کیشن، ئاوه که ئەکولینن، تا نهختی پهیت ئەبی، ئەبی به دۆشای شوک.

له کویستانان ئەوی سەر بهردان خرر ئەکه نه وه، سپی و خاوین، اکثری ئەینین بۆ سلیمانی، هه لوایه کی زۆر خوشی لی دروست ئەکه ن. ئەوی ئەکهوئته سەر (گۆین) ی له وهقتی ته کاندن دا ورده په لک و تۆزی گۆینی له گه ل تیکه ل ئەبی، بۆر ئەنوئین. ئەوی له سەرداران بی طبیعی له وهقتی ته کاندن دا، ورده په لکی تیکه ل ئەبی سه بز ئەنوئین. وه هه مووی زۆر شیرین و خوش و به له زهته و ملی نه و، به گه لی دهرمان ئەشیئ.

(سلوی) ته فسیر ئەکه ن به نه وعه ته یریک و (سمانی)، یا نه فسی سمانی، په نگه له ئاسمانی وه رگیرابئ. یا له بهر په نگی سماوی، که ئەو ته یره مه یله و شینه، یا زۆر له بلندی یه وه دئ و ئەنیشئ.

گه لی جار له باوکم ئەبیست، که تعبیری به شیلاقه ئەفەرموو. (حقیقه)

شیلاقیه ش ته ییریکی مه یله وشینه زۆر نافرری، بالی سسته، گرتنی سه هله .
حتا که سیکی شله په ته بی، به کاوه خو برروا به کوردی ئه لاین: (ئه لئی شیلاقیه ی بال شکاوه).

ئه وجا له جهه ت لطف و عنایه ته وه ئه فه رموی:

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ له و پرزه پاکه ی، که بۆمان ناردن له و نباتات و بهری دارانه، که له ئه رز بۆمان خهلق کردوون، بخۆن.
ذاته ن کیوی (طور) وه کی (کۆسره ت) و چیای (سه فین) ی ئیمه، چیایه کی به گیاو دار و باره . ئه نوعی خو رشی تی دا هه یه .. گه لی که س به و مواد ی طبیعی یه ئه ژیی .

حتی له سالی گرانی (۱۳۳۶) اکثری اهالی، به که نگر و امثالی وی زۆر چاک ژیان، له مردن ده رچوون . ئینسان که ته ماشای عنایه تی جه نابی کبریائی ئه کا له گه ل بنی اسرائیلی یان و، معامله ی حقوق – شکه نانه ی ئه وان ده هیئتیه بهر نظر؛ نزیکه بلئی ظلمیان له خودا کردووه (کانه) جه نابی کبریائیش ئه فه رموی: وایه ظلمیان هه یه، ئه م ما ظلم له کی ئه که ن؟

﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ ئه و ظلمه یان له ئیمه نه کرد، خودا له زهره ر و زیان منزهه، وه ک له (حدیثی قدسی) فه هم ئه کری، ئه گه ر هه موو عالم له ئینسان و (اجنه) اولین و آخرین له غایه تی چاکی ی بن، چ له مولکی خودا زیاد ناکا، ئه گه ر ئینسان و (اجنه) ی اولین و آخرین له غایه تی خراپی دا بن نه قص به مولکی خودا ناگا .

﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ به حه ققه ت ظلمیان له نه فسی خو یان کرد . عجا پاش ئه و ئایاتی بیناته، پاش ئه و تصریحاتی ئیلاهی یه، مه لایی ئه توانی بلئی «خودای تعالی له گه ل ئه م هه موو ئایات و معجزاته ی بوی ئه نواندن، محضا به خلقی خو ی دلئی ره ق ئه کردن و، کفری تی دا خهلق ئه کرد « حقا ئه و فکره ده رحه ق به خودا له فکری بنی اسرائیلی یان

خراپ تره و، بۆ ئوممهت زه هریکی قاتله .

وه قتی که فه رموی له و بزقه پا که بخۆن، ئه مریکی تریشی پی کردن؛ اولاً به حسنی جوار له گه ل ئه و ئاوه دانیا نه ی، که له اطراف سینا بوون، تا کو به تجارته و معامله و ئه م نه وعه چستانه ش مال بۆ خۆیان په یدا بکه ن، بۆ پی دیسان به طریقی تذکار ئه فه رموی:

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ برۆنه ناو ئه و دئییه، که له نیزیکتانه ئه بیینن. ﴿فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾ بخۆن له محصولاتی ئه و دئییه له هه رجی یه کی له هه ر نه و عیکی، که محصولاتی هیه .. جی پی به محصولات خوورش و واسعی هیه، ئه م ما چۆن بچن؟

﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ به ده رگه دا بچنه ژوره وه به خضوع و خشوع و، وقار و تمکین، استعطافی ئه هله که ی بکه ن.

﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ ئیمه هاتوینه جه واری ئیوه، رحالی خۆمان له جه واری ئیوه خستوو .. ئه گه ر وابکه ن. ﴿تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ ستری عیوبتان ئه که ین، بالطبع به معامله ی دۆستانه له وسائلی گوناهان دوور ئه که ونه وه .

﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٥٨ بۆ ئه وانی، که محسن بن رعایه تی حقووقی (جوار) بکه ن، به حسنی سلوک په فتار بکه ن، ئیمه علاوه ی لی خووش بوون احسانتان له گه ل ئه که ین، لاکن ئه مه یان نه کرد ..

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ هه موو، یا بعضی، که ظالم بن، له هه موو چشت تجاوز له حد ئه که ن .. به پی پی راست دا نارۆن قسه که یان گۆرری به ﴿قَوْلًا﴾ به قسه یه کی که ﴿غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ غه یری ئه و قسه یه بوو، که پی یان گوترا، چۆن ئیمه به و نه وعه بچینه ئه و شاره، ئه و تذل و نه رمی یه بنۆینن، دیسان ئه که وینه به ر دهستی ئه و قه ومه، وه کو فرعونی عه ذابمان ئه دن .. تووشی ئه ساره ت ئه بیینه وه . جزای ئه و ظالمانه چی یه ؟ .

﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ له سه ر ئه و ظالمانه عه ذابیی کمان نارد له طرف ئاسمانه وه، که تعیین ناکری، ئه مه نده گه وره یه، به لام لام وایه پاش چهند ئایه تی ئه و عه ذابه دهر ئه که وئی.

ومن العجائب بعضی له (مفسرین) ئه لئین: ئه و رجز من السماء به فر بوو به سه ریان دا باری، هه فتا هه زار که سی لی کوشتن .. گه رچی ئه مه دوور نی یه له قودره تی ئیلاهی. به لام له گه ل ئیره هیچ مناسبه ی نی یه .. احتمالی هه یه ئه و مفسره له اهالی بلادی بارده بی، زور دهر د و به لای له به فر چاو پی که وتبی! . سه به بی ناردنی ئه م عه ذابه ش.

﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ به سبب خروج له اطاعه بوو. خروج له اطاعه بوبوه خووی ئه وان وازیان لی نه ده هیئا.

که سیک ئه لی: ئه وه جهه تی خو رشیان به هه ر حالیک بوو، تامین کرا .. ئه دی ئاو؟ خو حه یات بی ئاو ده وام ناکا .. ئه و به رو بیابانی، که ئه و قه ومه تییدا بوو، گه لی جیهه تی دووره له ئاو. ئه و قه ومه چۆن ئیداره یان ئه کرد بو به یانی کیفیه تی تامینیان له جوابدا باز به طریقی تذکار ئه فه رموی:

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ حه ضره تی موسی طلبی ئاوی کرد له بو قه ومی خو ی. حاجه ت ناکا ئه مانه بلئی به وجهی عناد طلبیان کردووه . وا دیاره که حه ضرته ی (موسی)، پاسا جست و جو ی ئاوی کردووه و، ئه یزانی به غه یری خوا، چ چاره سازی نی یه، که له و بیابانی وشکه ئاویان بو په یدا بکا. له جوابی دوعا و نیازی حه ضره تی (موسی)، جه نابی کبریائی ئه فه رموی:

﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ ئاو په یدا کردن له و جیگایه، که متر نی یه له شقی بحر به غه یری (خرقی عاده ت)، به چی تر چاره ی ناکری، حه ضره تی (موسی) له سه ر ئه مری خودا عصای خو ی له به ردی دا .. هه ر به ردی بی، امتیازی به ردی له به ردی نی یه بو ئه م جهه ته . بعضی مه لا

زۆر بهردی دوریان هاویشتوووه، به لام نه که وتوه ته بهر عصای (موسی) ..
حاصلی قسه کانیاں وشک و بی ئاوه .

﴿فَأَنْفَجَرْتُمْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ در عقب هه ل کولی له بهرد، یا له
ضربی عصا . لیږه بو (مرجعی ضمیر) کامیاں دورتره، ئه و نزیک تره، زیږا
علتی حقیقی قدرهت و عنایه تی ئیلاهی یه . ئه و جا ئه و ئاوه له ژیر نظاره تی
حه ضره تی (موسی) له بهینی اسباط تقسیم کرا به نه وعی :

﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾ هه ر کهس جیگای شرب و حه قی شربی
خوی لی معلوم بوو به نه وعی، که کهس تجاویزی له حه قی کهس نه کا .
وهک شاری کویه، بعضی له ئاوه، ئه خنکین بیزارن له ئاوه، بعضیک بو ئاوه
ئه مرن .

مه گه ر جه نابی کبریائی، که سیک بنیږی له جیاتی (عصا)، به بوږی ئاسن
ئاوه له ناو شار بگیږی، هه ر کهس مشربی خوی بزانی .

ئه و جا له پاش اکمالی نعمه تی ئیداره له خواردن و خواردنه وه ئه فه رموی :

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ عاده ته
قه بیله یی زۆر، که له موقعیکیاں هه لدا، پاوانی، سوته نی و مرعای حیوانات
بو هه ر شعبه ییک تعیین ئه کری . ئه گه ر وانه بی ئه که ونه (مشقت) تووشی
شه رر و هه للا ئه بن؛ حه ضره تی (موسی) ش هه ر وه کو ئاوی به سه ردا تقسیم
کردن .. پووش و پاوانیشی بو تعیین کردن، چونکی له (تحتی نظارتی) خوی
نه بوو وهک ئاوه، ئه مری پی کردن .. تنبیهاتی دان، که له و حدود و مواقعی
ئه رضی بویاں داندراره، تجاوز نه کهن .

له پووی فساد و انتظام تیگ دان، با وجودی به گوږه ی احوال (فوق
مایتصور) تامینی ئیداره یان کرا و، له پیشه وه حه ضره تی (موسی)
نشانی دان ئه گه ر خواهش معیشه تی حه ضره تیاں هه یه .. ئه ها له م دی یه
ئه توانن خوږشی مدنی به چنگ خوٚتان بخه ن، نه شیاں کرد له پووی بی عاری

و بی شه رەفی، عەرضی حەزەرەتی (موسی) یان کرد: ئیّمە لە سەر ئەو معیشتەتە صبر ناکەین، باز جەنابی باری بە نەهجی سابق ئەفەرموی:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسُ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ خۆرش ئەگەرچی دوو سی پەنگ بی ئەمما، که بە دائمی بی، هەموو پۆژ لەوی زیاتر نەگۆرری بەیەک پەنگ حسابە و، هەم ماکولاتی (برری) خصوص بنجی گیایان بە اکثریت تامیان یکە و دیارە ئارەزووشیان ئەو بوو خواردنی مدنی بە طریقی معجزە بۆیان پەیدا بی، بۆی عەرضیان کرد:

﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ﴾ دوعابکە بۆ ئیّمە، که خودای تۆ دەر بکا بۆ ئیّمە لەو شتانە، که ئەرز پئی ئەگەیینی، فەرقی چی بە برری و بستانی وایان ئەنواند، که ئەوی ئەوان طلبی ئەکەن، شتیکیە حاضر و مهیا، هەر هینانە دەری پئی ئەوی.. وەکو پیفۆک، گیزبەلە، کهنگر و دومبەلان. ئەو چشتەکەش...

﴿مِنْ بَقْلِهَا﴾ لە گیای بستانی وەک بامیە و باینجان و تەماتە، بەلکوو وەک گیزەر و شیلەم و توور و پەتاتە، که ئەوانیش وەک برری لەناو ارضدا کۆ ئەبنەو، ئەهیّننە دەری و ئەیخۆن.

﴿وَقِثَّآيَهَا﴾ تەرووزی، خصوص ئەو دیمیش ئەبی..

﴿وَقَوْمَهَا﴾ گەنمی، ئەویش زۆر حاجەتی بە سقی نییە.

﴿وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِيهَا﴾ (لە نیسک و پیازی ئەرز و سائری ماکولاتی بستانی، که وەک ماکولاتی بری ئەرز پئی ئەگەیینی. ئەو قەومە تەماشایان کرد خودای تعالی بحری بۆ شەق کردن، بە ضربی عصای (موسی) لە بەردی رەق دوازە کانی بۆ دەرکولاندن، لاشک ئەوانە زۆر دوورن لە قاعدە (طبیعیەت). هینانە دەری گیا و گول و ئەم دانەوێڵەییە بە نظر ئەو خوارقە عظیمە، بە نظر قودرەتی ئیلاهی، هیچ ئەهمیەتی نییە.. مادام ئەمانە بۆ

کردین، ئەمانه شمان بۆ بکا، که زۆر سههل تریشه!! به لام ئەمه جهله:
 (اولاً : بالکلیه خروجه له نظامی طبیعته، له و قاعده، که خودا دایناوه .)
 (ثانیاً: خوراقی ئیلاهی به گوێرهی موقعه بۆ ئەصلی وجود، بۆ ادامهی
 حیات.. گهلی چشت محضاً به قودرتهی خۆی ئەیکا؛ حتی ئەمپۆش ههه
 وایه ..)

(ئینسان و سائری حیوانات له ناو پهحمی داکی دا، له بدئی تکون چی
 ئەخوا؟ چۆن ئەخوا؟ به چی ئەخوا؟ که هاته دونیا بئهیژ و بئیدان به
 غهیری شیر، که خوا بۆی مهیا کردووه و دایکی بۆ تسخیر کردووه، چی دی
 بخوا؟ پاش ئەوهش، که گهوره بوو، ئەبئ ههه وای بژیئنی، کار و کهسییک
 بکا؟

فهرخهی پهپهسیلکه بئلاق و بئبال، له ناو هیلانه چۆن بهخپو ئەکا؟
 پاش ئەوهی، که بالی بوو و هاته فررین و فرری.. طبیعی تهززی معیشهتی
 ئەگورئ.

ئهگر ئینسان به تامل تهماشای بکا، ئەزانئ عالی می ئینسان و حیوان له
 طوریک بۆ طوریک ئەچئ، که احوالاتی طوریی سابقهتی له گهه ل طوریی لاحقهتی
 هیچ مناسبهی نییه .

ئهو بنی اسرائیلی یانه له هه موو چشت تجاوز له حد ئەکهن، بۆ لای (الاه)
 ئەلین : « ارنا الله جهرة ». بۆ لای (طبیعته) ئەلین، هه موو قواعدی
 طبیعته تمان بۆ تیک بچئ. بۆ (معجزة) ئەلین، ئەبئ له هه موو حالئ بۆمان
 ببئ، نازانن که معجزه که بۆ ئەصلی ادامهیان بوو؛ ئەمما ترفیهی معیشهت،
 گۆناگۆنی اطعمه، خۆرشی حضری ئەبئ خۆیان پهیدای بکهن .

خودا گهنم شین ئەکا، تا دیته زهمانی درهو.. ئەوی لازم بئ خۆی
 ئەیکا (بعده) ئەبئ ئینسان بیدرویتهوه، بیکا به خهزمان، گێرهی بکا،
 شه نه بای بکا، له دستار یا له ئاشی بکا، بیکا به هه ویر، ئەنگوتک
 ئەنگوتک.. بیکا به نان، ئەوجا بیخوا... جهنابی ههضرتهی (موسی) به

کمالی (تحیر) ئە فه رموئی:

﴿ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ (موسی) گوتی:
 ئەوی چاک بی بو ئیوه ئەی گۆرپنه وه به چشتی خراپ؟ عجبنا نازانن ئە گەر
 جه نابی کبریائی له و بیابانه خۆرشی مدنیتان بو خلق بکا، بی رهنج
 و (تعب) بیته بهر دهستان، به جارئ بی که لک ئە بن.
 پیای می مهرد و به سعی و جهنگ ئاوهرتان لی پهیدا نابئ.. ئەمما به و
 خشونه تی عیشه زۆر ماموله، که ئینسانی (بدوی) تان لی پاشه کهوت بیئ،
 گورج و گۆل و به نیشاط و به قوووت.. ئە مرپۆش ئەوا ئە بیینن تن و
 مهندی، صاغله می قوووت و چوست و چالاکی یه ک، که له عربان و
 لادی بی یه کان دا هه یه، له شارستانی یه کان دا نی یه.
 بناءً علیه، به ته مای معجزه و خارق العاده مه بن.. خۆتان جست و جو
 بکن، پهیدای بکن.

﴿ أَهْبِطُوا مِصْرًا ﴾ هه لپرژینه شاریک له شاران، چ له لای سوریه، چ له لای
 مصر بو هه ر شاریک بچن.

﴿ فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ﴾ وه الا ئەم ئاره زوو هتان نایبته چی.. ئەو قه و مه
 بی عاره، بی نظر و اعتباره، که ته ماشای خۆتان کرد، اصلاً قابلیه تیکیان له
 خۆیان دا نه دیت، که پروو بکه نه شارئ به قوووی بازووی خۆیان،
 معیشه تیکی حضری بو خۆیان پهیدا بکن.. خۆیان له نهاییه تی په زالهت،
 ده مارحیزی، خیسهت و دنائت، بی مه کنهت و مکانهت چاو پی کهوت..
 ده رگه ی (خوارق) یشیان لی گیرا.. ئە و جا به جارئ ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ
 وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ په زیلی و دنائت بوو به قوببه و خهیمه یه ک له سه ریان
 هه ل درا.. ئەم (رجز) هیه، که له ئاسمان بویان هاته خواره وه، که له هه موو
 علویت پرووت کران، دوینی له عنایه تی ئیلاهی هه وریان له سه ر هه ل درا..
 ئە مرپۆ له دنائت و خیسه تی خۆیان په زاله تیان له سه ر هه ل ده درئ!.

ئەوہش ھەموو ئەمەرەى اعتماد على الغیرە، دووای خوارق کەوتنە، بۆیى (سعدى) ئەلئى:

(بکوشید تا جامەى زنان نپوشید)

﴿وَبَاءٌ وَيَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ﴾ گەرانەوہ لەگەل غەضەبى خودا، یاخود مستوى بوون لەگەل غەضەبى خودا.. ئەوہش سەبەبى چى بوو؟

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ ئەوان بە واسطەى ئایاتى خودای، کە لە حەقیقەتدا بۆ ارشاد و ھیدایەتە، کافر ئەبوون. لە کفردا استمراریان ئەکرد. لە مراتبىدا قادرمە بە قادرمە ھەوراز ئەچوون.

﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ ئەو انبیایانەى، کە خەرىكى اصلاحیان بوون، گویا تربیە و تعلیمیان بکەن، ئەیان کوشتن، بە ھیلاکیان ئەدان. لە بەر عنادى ئەوان پوھیان ئەکەوتە عەذاب، لە حەیات مایوس ئەبوون.. ئارەزووى مەرگیان ئەکرد.

(حقیقە) مامۆستای چاک، بە چەنگ فەقئى تىنەگەیشتوو و لاسار، روح و نشاطى تفھیم و تعلیمى ئەمرئى، نامیئى. کەوابئى ئەم قتلە قەتلیكى معنوی، چونكى ھیشتا بنى اسرائیلی نەگەیشتبوونە ئەو زەمانەى، کە پیغەمبەرەکانى خویان ئەکوشت، بە کوشتنى مادى باسى ئەوان لەمەودوا دئ. بەلام لەبەرئەوہى عبارەتەکە یەکە، بەبئى نظر بە مەقام، گەلئى مفسر ئیرەشیان ھەر بەقتلى حسى تەفسیر کردووہ، ئەمما ئەوہ غەفلەتیکى زۆر گەورە یە. ئەمە یە کە عەرضیان بکریئ (تقتلون النبیین بغیر حق).

﴿ذَلِكَ﴾ ئەم ئەحوالاتانەشیان، کە دەکرد ﴿بِمَاعَصُوا﴾ بە سبب ئەوہ، کە

ابایان ئەکرد لە اطاعە ﴿وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (٦١) لە ھەموو جەھەت تجاوزیان لە حد ئەکرد، ھەم لە جەھەتى الوھییەت، ھەم لە جیھەتى نبووت، ھەم لە جیھەتى معجزە، ھەم لە جیھەتى طبیعەت. لە ئایاتى مذکورە لە ضمنى ئەو دوو بانگە، دەر ئەکەوئى مایەى خەلاص، ئیمان و اخلاصە،

اعمالی چاکه یه؛ ئەوی بصولحی بۆ دنیا بۆ دنیا. ئەوی بصولحی بۆ قیامهت بۆ قیامهت..

اعتماد له سهر شفاعهت، پشت بهستن به کرامات و خارق العاده، خۆ هه لدانه وه به باب و باپیر؛ سببی هیلاکه.. تا هه موو کهس بزانی ئەو حوکمه ثابت و مقرر و لا یتغیره، ته نها بۆ بنی اسرائیلیان نییه، به لکو بۆ هه مه ئومه مه. ئەفه رموی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰعِدِينَ﴾ هه ر قه ومی بی

خصوص له (میلیون) که اسبابی خۆپی هه ل خه له تاندنیان لاهیه ﴿مَنْ﴾ هه ر کام له ئەوانه ﴿ءَامَنَ بِاللَّهِ﴾ ئیمانی به راستی به خودا بیئی، بی شائبه ی بت په رستی ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ئیمان به پۆژی، که کهس به فریاد کهس نایی به غه یری ئیمان و عملی چاکه و ئیمان به پۆژی قیامهت به و نه وعه و اعمالی چاکه، که بییته مایه ی سعاده تمه ندی دنیا و قیامهت، هه ر له پیغه مبه ران وه ر ئەگیرئ، که وایی ئیمان به پۆژی قیامهت؛ بی ئیمان به پیغه مبه ران ته و او نابئ.

﴿وَعَمَلٍ صَالِحًا﴾ خۆی سعی و کۆشش بکا، اعتماد نه داته سه ر

شفاعهت و که رامه تی آباء و اجدادی ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ بۆ ئەوانه اجری خۆیان له لای خوی خۆیان.

﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ ترس غه له به یان به سه را ناکا، بۆ کهس زه لیل و

منقاد نابن خه یمه ی زیللهت و مسکنتیان به سه ردا هه ل نادرئ.

﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (۶۲) عاجز نابن، ئەگه ر خه ساره تیشیان لی بکه وئ.

تاثیریکی وایان تی ناکا، که مایوس ببن له کار و عمل بکه ون..

ئهی موسلمانینه! له م ئایاتی قورئانی تامل بکه ن، تی بفرن له احوالی خۆتان. ئەوی به سه ر ئومه ته کانی تردا هاتوو، عه ینی حالیش به سه ر

ئیوہ داہات. سوادى اعظیم له خودا دوورن، به نسب و انتساب مغورن، له چاکه و خراپه ناپرسن، له پوژى جهزا ناترسن، به اغلبى عقیده سستن، به اکثرى گولک و کهر په رستن!.

بالخاصة له م زه مانهدا، خهيمه ي بي غيره تى و نامووسيتان له سهر خو ه لدا، ناموس و غيره ت و ناههنگى کوردى، به ناوى طريقى (خالى) مجددى نقشبندى تان بهر ههوا کرد.

(سابقاً) له ميانه ي باس و خواسى گو ساله په رسته کان فه رموى: کتیبىكى فارقى بين الحق و الباطلمان به پجای هيدايه تى بنى اسرائيلى كهره م کرد به حه ضره تى (موسى)، (كانه) كه سيك ئه لى: ئه وا جهه تى تنظيم ئيداره و معيشه تى

بنى اسرائيلى مان زاناند و، عاقبيه تى كاريشيانمان لا معلوم بوو. ئه و كتيبہ چى لى هات؟

بنى اسرائيلى چونيان وهرگرت به ئاره زوو و خواهشتى خونان، يا به جبر و شددت، باز به وجهى تذكار ئه فه رموى:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ عهد و پهيمانى ئيوه مان وهرگرت. ئه ممان چونمان وهرگرت؟ به صوره تى كمان وهرگرت، كه (محير العقوله) به نه وعى، كه نه بووه و نه ده بى.

﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ﴾ كيوى طورمان به سه ردا بلند كردن. ئه گهر قبولى نه كهن؛ به سه رتانا بهرى ئه دهينه وه، پانتان ئه كهينه وه.

﴿خُذُوا مَاءَ آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ وهريگرن ئه و كتيبى، كه به ئيوه مان كه ره م كرده وه، به جبر و شددت. به تو بزيه كى ئه وتو، كه ريگاي ئه م لاو ئه ولاتان نه بى. يا به جبر و شددت خوتان له سه ر نه فسى خوتان. تو بزي له خوتان بكن. كتيبہ كه وهريگرن، هه ر وا به سه رسه رى ته ماشاى مه كهن.

﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ ئه وى تى دايه له حكم و مواعظ و ارشاد، چاكي

وه ربگرن، عملی پی بگهن.

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۱۳) به شکم خوتان ئه پاریزن به فکر و نظر، چاکه و خراپه لیکن ئه که نه وه: له اعتقادیات و عملیات، ئه وی چاکه قبولی ئه کهن و ئه یکهن، ئه وی خراپه لیکن دور ئه که نه وه.

ئه ماما ته فسیری (قوة) به جد و نشاط زور دورره له وهه نگامه دا. جد و نشاط له کوئی په یدا ئه بی؟

جد و نشاط بۆ که سیکه، به مه یلیکی وجدانی پروبکاته تعلم، که وایی دیاره ئه م تعلیمه، تعلیمیکی اجبارییه، جبریکی وا به شددتیش به وه نه وعه نه بوایه، اصلا بنی اسرائیلی پرویان له کتیبه که نه ده کرد.

حتی ئه مپۆ بعضی له موسلمانان، ئه وهنده یان رق له علم و معارف ئه بیته وه ئه گهر چیا ی پیره مه گرونیان به سه ردا دهی، انجا به کمالی پی ناخوشی، پروبکه نه علم و علما.

وه اکثری بشر طبعاً (تنفر) ئه کا له علم، بۆی حکومهت له م عصری علم و معارف دا، قانونی اجباری یان داناوه بۆ تعلیم و تربیه ی اولادی ئوممهت. بناء علیه، حاجهت به (چۆن و چرا) ی مه لایان نیه. جیگه جیگه ی ضروره ته. به ضرورهت نه بی نابی. ذاتهن ئه وی ئاگاداری به سه ر ئه حوالی روحیه ی اقوامی بشر نه بی.. په نگنی به ته فسیری قورئان بکا!. معانه به وهه موو جبر و شددته، ئه گهرچی زه مانیکی کهم تمسکتان به کتیبه که کرد، به لام.

﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ حقاً ئه وه زور دور بوو، پاش ئه و جبر و شددته، پاش ئه و قبول و امتثاله، پرو وه رگی پانتان له و کتیبه هادی به، قهت نه ده بوایه بی.

له به ره ئه وه مستحق عذابی زور عظیم بوون، که قیاس له انتحار و بروسکه لی دان نه کری. لاکن فه ضلی خودای مانع بوو.

﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۶۴) لاشک ئه وی استماعی ئه و ئایه تانه بکا، دیته خاطر ی: (ربنا)، ئه گهر لطف و مهرحه مه تی تو نه بووایه، ئه بووایه چ عه ذابییکیان به سهر بی؟ به چی گرفتار ببن، که خه ساره ت مه ندی دنیا و قیامه ت بین!؟
بو خاتری ئه وانی (حاضرین) تی بگهن، که لایقی چ نه وعه عه ذابییکن، جه نابی کبریائی به خطاب له گه ل ئه وانه ی، که حاضری زه مانی سعاده تن و مستمعی ئه و ئایه تانه ن، ئه فه رموی:

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ که ئه حوالی ئه وانیش پاشدان معلوم ئه بی، له سهر ئه م تجاوزه با وجودی به نظر تجاوزی ئیوه زور که م بوو.

﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (۶۵) یه عنی حه قیان ئه وه بوو، که بیان که یین به مه یموون.. وه کو ئه وانه مان کردن به مه یموون، نه وه ک مه یموونی له طبقاتی راقیه وه ک (شه میانزی) و اشباهی ئه وان، به لکوو مه یموونه کانی (خسیس) بی ادراک.

محقق مسخی ئه و قوربه سه رانه به مه یموون، له نتیجه ی مسخی معنوی ئه و گرو هه عنوده بی شعوره، که ئابائی کرامیان بوون، وه له و ئایه تی که ریمه استفاده ئه کری: ئه وی افتخار به آباء و اجدادی خو ی بکا؛ عاقبه ت ئه بی به سه گسار، به جاری له طبیعه تی ئینسانی ده رئه چی.

بوی باوکم له زه مانی مندالیم دا، بعضی اشعاری کوردی مشفقانه و ناصحانه ی بو دانه نام. از جمله ئیستاش ئه م دوو به یته م له خاطره: —

مه لازاده ی نه خوندی مثلی سه گسار
ده بی هه ره لپه ری یا وه ک سه گی هار
قول و قاچی موسلمانان ده ری نی،
له سفره ی ظالمان نانی پفی نی..

ئه ماما مع الأسف، ئوممهت وها مسخ بووه ته وه، علامه ی ده و رانیان لا، له مه یموون که متره!.

﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ ئه م عقوبه ته مان گئیرا به عبرت بۆ ئه وانه ی، که له و عه صری بوون و بۆ ئه وانه ی، که له دوا هاتن.. یه عنی ئه وانه ی دیتیان و، ئه وانه ی بیستیان، منع ببن له (شه مو) شکاندن.

حتی ایستاش، گه لئ جوله که ناویرن شه مو بشکینن، به لام له شاره گه وره کانی وهک، بغدا و استانبول و پارس و لۆنده ره.. تازه جه وانه کانیان ئه وا ورده ورده شه مو ئه شکینن.

﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ موعظه به چشتی ئه لئین، که ذکر بکری بۆ گوئی دئیران، تشویقی تئیدا بی بۆ کردنی چاکه.. تخویفی تئیدابی بۆ نه کردنی خراپه، ئه وی متقی بی.. وه عظ له گوئی ئه گپئی، چاکه ئه کا له خراپه ئه گه رپته وه. نه وهک ته نها شه مو عینی حادثه، به لکو وه رچی بی، ئه مری خودای تئیدا بی، خۆی لئ ئه پاریزئی.

وه کو اشاره مان بۆ کردن، ئه وانی بوون به مه یموون، گه لئ له دوا (موسی) بوون، به لام پیش زه مانی سعاده ت بوون، لاکن بۆ ئه و فائده ی، که عه رضمان کردن، ئه و ماجرایه ی هینا میانه، بدیهی یه ئه وه خطاب نی یه له گه ل بنی اسرائیلی یه کانی زه مانی (موسی). که وابی نه ده بوو ئه وانی ناظرن لئیرانه دا مشوش ببن. ئه و جا وه کو ئه و قصه یه که وته میانه، ایجاب ئه کا اسلوبی خطاب له گه ل بنی اسرائیلی زه مانی موسی بگورری، بۆیی به م عبارته تی آتی یه، به یانی حادثه یه کی مهم ئه کا. ئه فه رموی:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ نه یفه رموو (واذ

قلنا لكم اذبحوا بقرة) له بهر ئه م سرره مخفیه، جه نابی کبریائی نظمی واقعی تیکدا، مؤخری مقدم کرد، دووباره به ته رزیکی تر باسی قه ومه که ی

هینایه وه ناو.

سبحان الله له و هوندنه وه عجایبه ئه وه یه، که ئه لئین: نه ظمی قورئان معجزه یه. که سیکی ته فسیری قورئان له سهر نه ظمی حاضر نه کا، به راستی ته فسیری قورئانی بۆنایی.

ئه و جا حه ضره تی (موسی) به قهومی خۆی فه رموو، خودا ئه مرتان ئه کاتی (بقره) یی بکوژنه وه، نیر بوو.. می بوو.. ئه گه رچی لازم نی یه، ئه ماما له بعضی اوصافی آتی ده رئه که وئ، که می بووه بۆی ئیمه ته فسیری ئه که یه وه به (چیل).

﴿قَالَ﴾ له جوابدا ﴿أَتَذَرُنَا هُرُورًا﴾ ئه تو ئیمه ئه گئیری به قه شمه رجا ری خۆت، گه پمان پئ ئه که ی. حالی ئیمه له کوئ، چیل کوشتنه وه له کوئ؟ « کهر له کوئ که وتوو و کونده له کوئ درراوه ». لیرانه دا سرریک هه یه، که ئه و ئه مره یان به دوور ئه زانی، پاشدان له نه ای ته تی قسه عه رض ئه کری.

﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ فه رموی، خۆم ئه پاریزم به خودا، که له زومره ی جاهلان بم، قه شمه ری به خه لک بکه م. خصوص درۆ به خودا هه ل ببه ستم. دیاره ئه وه نده قه در و قیمه تی حه ضره تی (موسی) یان لانه بوو، که ئیمان و اخلاصی ئه و ده رباره ی خودا، ناهیلئ ئه و نه و عه درۆیه هه ل ببه ستی.

وه (في الحقيقه) قه ومی هه ن ئه لئین: « ئه و پیغه مبه رانه بۆ اصلا حی بشر، ئه و نه و عه قسانه ئه که ن و ئه لئین: خودا وای فه رموو، ئیمه یان ناردۆته سهر ئیوه به پیغه مبه ری نه هیتان له ئه وه ئه کا بۆ خاتری بشر اعتماد بداته سهر قسه یان، له خراپه واز بینن، بینه سهر چاکه، والا طریقی پساله ت و نبووه ت نه و عیکی تره. »

ئه م گرۆهه، با وجودی خۆیان به حکما حساب ئه که ن، ئه ماما حه قیقه ت زۆر جاهلن. که سیکی ئه وه نده درۆزن بی، شه رم له خودا نه کا، درۆ و

ده له سه به زوبانی هه ل ببه ستی، چۆن اصلاحی خه لقی ئەکا؟ حاشا مه قامی رساله ت له و نه و عه تسویلاته، له و طبعی شاعرانه منزّهه، منیش ئەلیم: (اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین).

﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ﴾ مادام قسه کهت به جیدی یه له خودای خۆت به یان بکا بۆ ئیمه، ئەو چیلّه چی یه؟ له چ عمر دایه؟ سبحان الله له و انقطاعه، نه (موسی) ده لئی (ربکم)، نه عه رضی (موسی) شیان کرد (ربنا).

﴿ قَالَ ﴾ فه رموی ﴿ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ﴾ ئەو چیلّه چیلکیه ﴿ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ ﴾ نه پیره نه جاحیلّه.. ﴿ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ ناونجی یه له بهینی جاحیلی و پیری. وانسی یه له یه کیان نزیک تری له یه کیان. ﴿ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ ٦٨ ئەوجا ئەوی ئەمرتان پی ئەکرئ، بیکه ن. ظاهر به بقره یئ (هکذایی) اکتفا ئەکرا. ئەمما ئەوان زیاده (تعیین) یان خواست، له بهر سرریکه له مه و دوا عه رض ئەکرئ.

﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا ﴾ پهنگی چی یه؟ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ ﴾ چیلکی زه رده ﴿ فَاقْعُ لُونُهَا ﴾ پهنگه کهی زه ردیکی خالصه، نه مائل به سووری یه، نه مائل به سپی یه تی یه، ئەوه نده پهنگی لطیفه.. ﴿ تَسْرُ النَّظِيرِينَ ﴾ ٦٩ ئەوی ته ماشای کا که یفی پی دئ. ئەوجا له ظاهر دا نافه رموی: (فافعلوا ما تؤمرون).

یا، لای وابو ئەوه نده کافی یه، چی تر مراجعه ناکه ن، یا ترسا ئەمریان بکاتئ، باز (تعنت) ئەکه ن و علی الحالین نه یان کرد. ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ﴾ به ته واوی به یانی بفرموی، ئەو به یانی، که فهرموی واضح نی یه، هه زار چیللی وا هه یه نازانین کامه هه وه.

﴿ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ ٧٠ مه قصودمان له و

مراجعاته عناد نی یه، مقصودمان ئه وه ته غرضی ئیلاهی به ده ربکه وئی، که چ چیلکی مه قصوده .

ئه گهر (نادر الوجود) یش بی، ئیمه ان شاء الله ئه ی دۆزینه وه، په یدای ئه که ی، (ولو) به قیمة تی زۆریش بی، ئه ی کرین .

﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ﴾ ئه و چیله چیلکیه، نه رم نه کراوه بو جوت کردن . نییری نه چوه ته سه ر شان، که ﴿ تَثِيرُ الْأَرْضِ ﴾ ئه رز بکیلی ﴿ وَلَا تَسْقَى الْحَرْثَ ﴾ وه نه رمیش نه کراوه، که له ناعور و چشتی وا بخری، ئاوی پی بکیشن بو زراعت .

﴿ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ سه لامه ته له عیب، یا وه کو کوردی ئه لی: (مسلم کراوه) له ئیش پی کردن . وه کو که سیکی، که خه رج و پیتاکی لی نه ستین و، ئه لین ئه و (مسلمه)، یه عنی نه به بار، نه به گیره، به هیچ نه وعی نه رم نه کراوه و هیچ عه لامه تی فارقه ی نی یه به اعتباری رهنگی . نه له ناو چاوان، نه له سه ر کلکی، نه له سم و لاق .

ئه و جا ﴿ قَالُوا لَنْ نَجِدَ بِالْحَقِّ ﴾ الان (بقره) که مان بو معلوم بوو، اشتباهی تی دا نه ما . ئه و اوصافه منحصری (فی الفرد) ه . ئه وانیش چیله که یان دۆزی یه وه، به هه ر نه وعیک بوو، به ده ستیان خست . (حکایه تی پی ناوی چۆنیان به ده ست خست) .

﴿ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ چیله که یان کوشته وه، به لام نیزیکی بوو نه یکه ن .

بعضی مه لای اصولی، عیناً له و مه شره به دان، مثلاً ئه لین: ئه گهر ئایه تیکی وارد بوو، ئه بی استفسار بکه ی، خاصه یا عامه؟ مطلقه یا مقید؟ منسوخه یا ثابت؟ ئه گهر تخصیص کرابی، هه ر عملی پی ناکری .. احتماله گه لی چشتی دیشی لی استخراج کرابی و ئیمه نه زانین .

لاکن اصحابی گزینی محمد (صلی الله علیه وسلم) له م فاک و فیکه دور بوون. ئەمری که له طرف رساله ت پیان بگه یشتایه، ده حال مباده رهیان پی ئە کرد، ئەو احتمالی خیالی یه یان به دلی مبارکدا نه ده هات. ئەو جا پاش محاوره ی (کلیم) له گه ل قهومی خوی، زور جوان هه ل ئەستی، که جنابی باری به نهجی سابق له گه ل قهومی (موسی) بکا، بفرموی:

﴿وَأَذَقْنَاكُمْ نَفْسًا﴾ شه خصیکتان کوشت، (کانه) هه موو شه ریکی ئەم قتله بوون. ﴿فَأَذَرْنَاكُمْ فِيهَا﴾ نزاعتان تیدا ئە کرد. هه ر شعبه له ملی خوی دائه پنی، به ملی ئەوی تری دائه دا، کردتانه پیشوی. مقصودیشیان ئەوه بوو، ئەو خوینه (هدر) بی. ناتهن له هه موو عه صردا اکثری جرائم، که بزر ئە بی، فاعلی ده رده ست ناکری، به جزای خوی ناگا، قباحه تی ئومه ته! حتی ئەمڕۆ ئەوی شه هاده تی قتلشی له لابی خوی، ناگای لی بی که سی که سیکی کوشتی، ولو حکومه ت جبری لی بکا، شاهدی نادا. ئەو خصیله ت پیسه باعی تیکچوونی نظامی عامه، (مع انه) ئەو جدال و خصامی ئیوه، بو اخفای قاتل، بی هووده ده رچوو.

﴿وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (۷۲) ئەوی ئیوه بزرتان ئە کرد، خودا اظهاری ئە کا.

﴿فَقُلْنَا أُضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ خودا ئە فرموی: گوتمان به بعضی گوشتی چیله که له (مقتول) هکه هه لسوون - هه ر بعضی بی، هیچی له هیچی زیاتر نسه تی بو زندوو بوونه وه نیه، که وایی به تعیینی بعضیک، له هه ر دووکیان خو ماندوو کردن بی هووده یه. ئەوانیش امتثالیان کرد، شخصه که زندوو بووه وه، قاتلی ئاشکرا کرد.

﴿كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ به و نه وعه جه نابی کبریا، مردوووان زیندوو

ئہکاتہ وہ . نہ عیسیٰ بہ وہ کاز، نہ ملائکہت بہ بانگ کردنی اموات . خلاصہ
 ہرچی بہ خہیالا بی، بہ غہیری قودرہت و حکمہتی ئیلاہی، چی تر تاثیر
 لہ زندوو بوونہ وہی مردوو ناکا . نافہرموی (کذلکم)، بہ لکوو خطاب ئہکا
 لہ گہل ہر کہ سیکی، کہ قابلی خطاب بی .. تی بفری، کہ بزانی احیا و
 اماتہ، خاصہی جہنابی کبریائی یہ .

ئہما توجہ ئہکاتہ وہ اسرائیلی، بہ جمع ئہفہرموی: ﴿وَأُتِرِکُمْ آيَاتِهِ﴾
 گہلی ئایاتی خوی بہ نیشان ئیوہ ئہدا، بوتان ئہنوینی .

﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (۷۲) بہ ئومیدی ئہوہ، کہ عہقلی پہیدا بکن، چونکی
 تی گہیشن و پی گہیشن، ہر بہ عہقلہ .

ئایہتی کریمہ دہلالہت لہوہ دہکا، کہ چشتی واقع بووہ لہ زہمانی
 حہضرہتی موسیٰ، بویج جوولہ کہکانی زہمانی (نبوی)، نہیان توانی انکاری
 بکن بہوہ، کہ ئہو ماجہرایہ لہ تہوراتی ئیستایان دا نیہ، نابی ئیمہ
 صہرفی عبارہت بکین لہ صریحی خوی، چونکہ تحریف و تبدیل و تغیر و
 حذف و زیادہ و نقصان کردن، لہ بنی اسرائیلی دوورنیہ! . (الی الیوم ومن
 الیوم الی الابد) . وہ تطبیقی ئایہتی قورئان لہ گہل (مافی التوراة) ی
 ئیستایان غہیرہ قابلہ ...

حاصلی ما فی التوراتیان ئہمہیہ: «کہ سیک بکوژرابوایہ، لاشہی لہ
 دہرہوہ فری بدرایہ، ئہبوایہ شیوخ و قضاتی بنی اسرائیلی بچن تہ ماشا
 بکن، ئہم لاشہیہ لہ کامہ گوند نیزیکترہ، گویا ئہوان متہم ئہبوون . بو
 دہفعی تہمہت، شیوخی ئہو دئیہ گولکیکی جووت و مووت پی نہ کراو
 ہلگرن، بیبہنہ شیوہ دلی، کہ ئاوی دائم پی دا پروا و نہ کیلدرابی . لہ
 وادیہ کہ دا ملی عجلہ کہ بشکینن، ئہوجا شیوخی ئہم دئیہ، دہستی خویان
 لہ سہر کہ لاکی عجلہ کہ بشون و، ہاواربکن: دہستی ئیمہ ئہو خوینیہ
 نہرژاندووہ .. چاوی ئیمہ نہی دیووہ .. خوایہ عفوی شعبی خوت بکہی .

« ئه وجا ئه وانی، که ده خلیان له قتل هه بی، ناویرن ئه مه بکه ن ». .
 ئه وه له کوی؟ و ما فی القرآن له کوی؟! .

جاری ابدأ موافقه له گه ل (اضربوه ببعضها) ناکا و، تاویلی (کذلک یحیی الله الموتی) ش پوچی ئایه ته که ئه با (ویریکم آیاته لعلکم تعقلون). ئه بی به چاوی کویر و بی عه قلی ته ماشا بکری، چونکه ئه و حیله یه (کولی نانیه کانیش) ئه یکه ن، مثلاً دزی یی بکری له په لکه نانان ناووس ئه که ن، ئه لاین ئه وی ئه و دزی یه ی کرد بی، په لکه ناننه که ی پی قووت نادرئ، له گه رووی ئه مینی .. پی ئه خنکی! . ئه وجا واهمه ئه یان گری، مال که ئاشکرا ئه بی .

عجبا ئه وه ئایه تیکه که خودای تعالی به و نه وعه به یانی قودرته و
 حکمه تی خوی پی بکا؟

تی ناگه م (مجددی مصری)، که کیوی علمه، باقری دقایقه، لی ره و له
 مسئله ی پره فی کیو له سه ر بنی اسرائیلی، ئه و له ق و لوقه، ئه و تزلزل و
 اضطرابه بو ئه کا؟

من که ئیمان بهینم به شقی بحر، به ده رکۆلینی دوازده کانی له به رد؟
 بو ئیمان ناهینم به هه لگرتنی کیو و، زندوو کردنه وه ی مردوو؟ مع انه امر
 به ده بی بقره، بو که شفی سړیکی مکتومه، نه ده بوو له مجددی مصری،
 علامه ی عصری بزری! .. له ایامی فراغه، مصری علی الاکثر بقره په رست
 بوون، بقره یی به نه وعیک له اشکال و په نگ و علامه تی ممتاز؛ بنی
 اسرائیلیش (خدمه ی) ئه و گۆلکانه بوون - که ولی عهدی الوهیتی بقره یه له
 وندا انتخاب ئه کرا - بو یی محبه تی عجل له دلیان دا شین بوو بوو، زور مائل
 بوون به بقره په رستی. غایه تی بعضی له خۆفی موسی اظهاریان نه ده کرد؟،
 بعضی کیش، که له ئه وان دوون تر بوون له غیبوتی (موسی) بو میقات،
 فورسه تیان زاناند تمثالی گۆلکیان په رست، بقیه ش له و سۆز و گودازه
 دابوون بو خاتری ظریف (ما فی الضمیر) یان به ده ربه که وی. له م

حادثه یه (فرصة بالاستفاده) حه ضره تی (موسی) ئه مری کردنی، بقره یی بکوژنه وه، چونکی آلهی مصری یه، دائماً له خه یالیان دا تجسمی کردبوو، زور ترسان، که له و جنسه، بقره مقصود بی، بوی قه ناعه تیان حاصل نه کرد، الا به نفی (علامه تی فارقه). ئه و جا دلان هاته وه سه رخوی. لاکن حه ضره تی (موسی) تی گه یشت، چه جای ئه و بنی اسرائیلی یانه به ئه و احیایه ئیمان بهینن؟! کفریان پی زیاد بوو. دیاره (بقره) خصوصاً، که نه و عه امتیازیکی هه بی، سرریکی حه یاتی تی داهه یه، که به لیدانی بعضی له گوشتی پاش کوژرانه وه ی، ظاهریش مردی زندوو ئه بیته وه. ئه مه ش دیاره سرریکی الوه ییه ته. له بهر ئه وه ئه فه رموی:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ له پاش ئه م احیایه ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ دلئ ئیوه وه کو به رده، به لکو له به رد په ق تره.

قابله، بحر به عصا شهق بی، ئاو له به رد ده رکولی، به لام فیرو بوون و چشت زانین، ئه بی له مهیل و هه وه سیکی بی، که له دلئ نه رم ده رکولی.. هه موو اعضا و أعصاب نه رم بکا، که توجه بکاته مزه عه ی علم، به فکر و نظر، کشت و که یلی بکا، حقائق و دقایقی لی بهینتته ده ره وه. ئه وه اصلاً به ضربی عصا نابی. .

استادی مشفق ئه بی سعی بکا، ئه و مه یله له دلان دا شین بکا، دیاره دلئ ئیوه له به رد په ق تره، چونکی:

﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ ذاته ن ئه وزئی یه گه وره گه ورانه، له و روبرانه په یدا ئه بی، که سه رچه شمه یان له چیا یان هه ل ئه کولی.

﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ بعضیک هه یه له و به ردانه، له بنه وه یان ئاو هه یه، ئه و ئاوه ورده ورده تاثیر تی ئه کا، نفوذی ئه بی له لای سه ره وه، گه لی درزی تی دا په یدا ئه بی.. ئاوه که ی لی دیتته ده ری.

﴿وَإِنَّ مِنْهَا﴾ بعضیك هه یه له و بهردانه ﴿لَمَّا يَهَيِّطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ ورده ورده به به فر و باران و شهخته و با، پارچه پارچهی لی ئه بیته وه، نقصان ئه کا، ضعیف ئه بی، وهک که سیکی، که خوفی خوا تاثیری تی بکا بی تاوینیته وه، گه لیک له و بهردانه هه یه، که هیچی نامینئ، ده بیتن به په مل، به لام دلی ئه و بنی اسرائیلی یانه، نه به رفق و مہرحہ مہت، نه به عنف و شدہت نہرم نہ بوو.

ماء الحیاتی ئیمانی تی دا پهیدا نہ بوو، ئه و نہ وعه که سانه له هه موو طوائفی بشری زورن. تعجب ئه وه یه بعضی دل له نہرمی حیزی دا، وارہق ئه بی. . ہزار چشتی بی ناموسی و بی غیرہتی و مذللہت و احتقار به سہری دادئ، اصلا متاثر نابئ، به لکوو وا ئه بی کہ یفی پی دئ، دیارہ هه موو چشت افراط و تفریطی مذمومہ، دل نہ ئه وه ندہ رہق بی ئیمان به خودا نہ هیئئ، نہ ئه وه ندہش نہرم بی به ناوی خودا گہ وادی و دەویتی قبول بکا، ئه و جا عہ ذابی ئه وانہ چ بی؟ به چیئ ناییتہ خہ یال و تصور، به غہیری ئه وه ی، کہ بلین:

﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (۷۴) ہر کہ سی گویئ له و ئایہ تانہ بی، تہ ماشای (سیری) بنی اسرائیلی بکا، قطعئ امل له رشاد و ہیدایہ تی ئه وان ئه کا.

له رپوشتی عالم معلوم بووہ و عہ قل جزمی پی دا ئه هیئئ، ہر حکومتئ، ہر دینئ، ہر مذہبئ، ہر حزبئ، کہ تشکل بکا. . ئیمانی ئه وان به و مبادئہ ی، کہ ئه ساسی تہ شکلاتی له سہر ئه کہن. . له اخلاقیان به قووت ترہ. . ئه وی مقصودیان ئه یکہن به (مثلی اعلی). . روح و مال و اولادیان له ئوغوردا صہرف ئه کہن.

بنی اسرائیلی یه ک ئه وه حالی اسلافیان بی، عجا ئه بی اخلافیان چون بی؟

کہ وابتی ئہی موسلمانینہ ! ﴿أَفَنظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾ ئایا ئیوہ طمع ئہکن، کہ ئہوانہ بؤ خاتری ئیوہ و له محبتی ئیوہ ئیمان بینن؟ کہ علاوہی ئہو ہموو سیئاتہ (زاد فی الطنبور نغمة).

﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ تا ئیستا باس و خواسی رچالی (حل و عقد) بو. رؤساء و سہرامہدہکان معاملہیان چؤن بوو لہ گہل حہضرہتی (موسی)، بہیان کرا.. لہم فہصلہ بہیانی حالی مہلایہکانیانہ لہ گہل کتیبی ئیلاہی.. ئہوانیش سی فرقہن:

قسمیکیان، زؤر چاک لہ تہورات گہیشتون، قسمیکیان ہہروا سہرسہری بہ (ظاہری ألفاظی) ہہلخہلہتاون. قسمیکیش ہہم تئی گہیشتون، ہہم عملیان پی کردوہ.. ئہمما ئہوانہ ئہوہ نین بہ فرقہ و قسم یاد بکریں، لہ میانہدا اشارہیان بؤ ئہکریں.

۱ - قسمی اول: فضل لہ ئہوہی عملی پی بکن، تحریفیان ئہکرد لہ پاش ئہوہی، کہ بہ زہریفی تئی گہیشتبون و شک و شوبہہیان نہ مابوو، وہکو حہکیمی جہربہزہ، با وجودی لہ حقایقی اشیا زہریف ئہگا، ئہمما فکری مشاغبہ و مغالطہ غہلہبہی لی ئہکا، تحریف و تبدیلی حقائقی موجودات ئہکا. تبدیل و تحریفی ئہوانیش وا نہبوو بہ مہعناپی، بہلکوو بہ الفاظ ئہیان گؤری. ئہو نہوعہ فرقہیہ حیلہیان زؤر گہورہیہ، قیاسی لہ ہیچ مہکر و کہیدی تر ناکریں.

کتیبی ئیلاہی وہک ہہنگوینیکی زہر ئالوودی لی ئہکن، خہ لقی بہ ہہنگوینی تئی ئہگا ئہیخوا، بہلام زہر ئالوودہ ئہکوژی و ہہر دینی، کہ تیگ چووبی، بہو نہوعہ مکارانہ تیگچوہ، مع الأسف دینی اسلامیش بہو نہوعہ مکارانہ لہ باریہک ہاتہدہرہوہ.

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کہ ملاقاتیان ئہکرد لہ گہل ئہو مہلایانہی

خویان، کہ بہ راستی ئیمانیاں ہینابوو، فکری خویان ئە کردہ تابعی حەق، نہوہکو حەق بکہنہ تابعی فکری خویان.

﴿قَالُوا ءَامَنَّا﴾ ئیمہش وہکو ئیوہ ئیمانئیکی بہ راستیمان ہئیہ، تہورات کتیبئیکی منزله لہ طرف خوداوه بہ سہر حہضرہتی (موسی)، تفریقی محکم و متشابہی ئەکہین، ئەوی علممان پیئ نہبوو رانہوہستین، تجاوز لہ مقداری فہم و ادراکی خومان ناکہین.

﴿وَإِذَا حَلَا بِعَضُّهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ کہ بعضی لہم فرقہیہ، ئەچوونہ لای بعضئیکی تر لہ خویان ﴿قَالُوا﴾ ئەم بعضہ بہو بعضہیان ئەگوت:

﴿أَتَحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ گویا ئەم تحریفات و تبدیلات و تغییراتہیان، کہ ئەکرد بہ فتوحاتئیکی ئیلاہییان ئەزانی، ئەیان گوت ئیوہ بہحث ئەکہن بہم فتوحاتہی، کہ خودا لہگہل ئیوہی کردوہ، لہ گہل ئەو مہلایانہی، کہ ملاقاتیان لہ گہل ئەکہن، ئەو ئایہ تہ کلمہیہکی پیئ ئەوی، کہ تئیدا زیاد بکری.. وہ الا مہعنای نایی.. یا ئەبیئ ئەو ئایہ تہ شتئیکی زیادہ لئی فری بدری، یا ئەو لفظہ بہ لفظئیکی تر بگوری. حاصلی ئەو کتیبہ نقصانہ، ئەبیئ اکمال بکری، ئەمانہیان بو باس ئەکہن، کہ بہیانئیشی بکہن.

﴿لِيَحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ بہ حجت و بہ دەلیل، غلبہ بکہن لہ سہر ئیوہ لای خوی خوتان. بلین: یاری ئەوانہ دەشلین ئەم کتیبہ کلامی تویہ، کہچی ئەلین ئەم کتیبہ احتیاجی ہئیہ بہ اکمال، بہ ترمیم. وہلای ئەہالیش شہرمہ زار ئەبن، چونکہ ئەم فتوحاتی ئیوہ، ہیشتا نہچوتہ اذہانان؛ ئەمپوش لہ عالہمی اسلامہتی دا ئەم نہوعہ فرقہ ہئیہ وہک، (بہائی) و (قادیانی) ئەلین حہضرہتی (محمد) پیئغہمبہرہ، قورئانئیش کلامی خودایہ، ئەمما احتیاجی بہ اصلاح ہئیہ.

عه جابب ئه وهیه، ئه وی به جیهه تی اصلاحی ئه زانن، له قوانینی فه پهنگیان وه گرگرتوه، خویان پی ئه کهن به مصلح و ئه مپوش خویان له جی پی نادهن، که بزنان مه لای چاکی تی دایه! . به لام له ناو قهومی ضعیف العقل اظهاری رساله ت ئه کهن، فضل له اصلاح.

﴿أَفَلَا نَعْقُلُونَ﴾ (۷۶) ئه وهنده عه قلّه تان نییه، ئه وان الزامتان ئه دهن مفتضحتان ئه کهن، صبر بکهن تا ئه م فکره، ورده ورده استیلای اذهانی قهوم ئه کا، ئه و وه قته علی العموم، ئه و تحریفاته ی ئیمه به فتوحاتی ئیلاهی تلقی ئه کهن.

ئه و جوړه مه لایانه نامینن، ئه گهر بشمینن نفوزیان نامینی، میلیه ت گه مه یان پی ئه کهن.

جنابی حه ق له په ددی ئه و گرۆه غافلّه ئه فه رموی، بالغرض ئه و خوتان نه جات دا له ئابروو چوونی دنیه وی. حیه و کید و فیلی خوتان بزر کرد، ئه دی چ ده کهن له جهه تی خودا؟

﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (۷۷) ئایا نازانن، که خودای تعالی عالمه به وهی به دزی ئه یکهن و، به وهی ئاشکرا ئه یکهن. ئه گهر بلین ئه وانه وه کو بعضی حکماء ئه لین خودا علمی به جزئیات نییه، یا بلین شت هه تا ئاشکرا نه کری، خودا نایزانی، ئه لین ئه و قصه بالکلیه له گه ل ئیمان به نبوه ت دووره، مه لا باشه کان فرقه ی دووه م بوون. ئه م ما وه کو عه رضم کردن، چونکی که م بوون له میانه دا ئیشاره ی بوکرا.

۳ - فرقه ی سنییه م ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ﴾ له حه قیقه ت جاهلن ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾

﴿الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي﴾ هیه له کتیب نازانن، الا مقدرات و خه یالی خویان به علمی تام تی ئه گهن، بی محاکمه و تفکر، دوا ی (اکذوبه) و خه رافات ئه که ون، خصوص که ناوی معجزه و که رامه تیش هاته سه ر، ئه و جا مه پرسه! وه کو (قصاص) و حیکایه ت خوانه کانی ئیمه، حکایات و خه رافات عینا وه کو

حکایہ تی ئےسکہندہر و پوستم، قسہی پوچ تییک ئےخہن. له مهقامی
وہعظ به سہر موسلمانانیا ئےخویننہوہ .. موسلمانانیش (صدق ونیم دەق)
پئیان بپوا ئےکہن.

﴿وَأِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (۷۸) ئےو فرقہی کہوا کلامی خویان تحریف ئےکرد،
وہکو عہرضم کردن (من حیث اللفظ و العبارة) بوو، نہوہک تحریفی مهعنا و
بهس. بویئ خودا ئےفہرموی:

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ به دەستی خویان کتیب
ئےنوسنہوہ ﴿ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ پاشان ئےلین ئےوہ له طہرہف
خودایہ. عجبا ئےو جہسارہتہ بۆچی ئےکہن؟ خویان مستحق ویل و
حقارت و ئابروو چون و، حہسرہتمہندی ئےکہن؟.

﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ تاکوو بہو محرّفہ فائدہیی کہم، عہرضیکی
دنیہوی و دەنی بکرن .. بیہیننہ دەستی خویان. ئےوہش حقیقہ موجبی
حہسرہتہ .. گوناہی دەنائت کارانہیہ.

﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ له خہط دەستی خویان، یا له دەست -
خہتی خویان. ہہم له مہکتوب ہہم له کتابت.

﴿وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (۷۹) ہہم ویل بۆ ئےوانہ له سہر ئےوہی، کہ
کہسبی ئےکہن لهو (ثمنہقلیلہ)ی، کہ وہری ئےگرن، یہعنی له مکتوب و
کتابت و فائدہی کتابت ئےوی بۆ ئےوان بی حہسرہت و ئےندۆہ و عہذابہ ..
ئےو فرقہ له عالہمی اسلامہتی دا ہہیہ، بہلام ناتوانن اظہاری تحریفاتی
خویان بکہن، له بہر بعضی اسباب: -

اولاً: قورئانی عظیم الشان، له بہر بہلاغہت و فہصاحت و جزالہت و
تہرتیب و نظمی، ہیچ کلمہیہکی اجنبی قبوول ناکا .. وہکو دورر و لؤلؤ و

یا قووت و مهرجان، (خه مهره ی) له گه ل ناھۆندریتته وه! . که سئ بیشی کا پی ی دانا پۆشرئ، زوو به دهر ئه که وئ.

دووهم: کثره تی حفاظی قورئان. حتی ئه مرپۆش که سئیک له سه ر مه حفهل، یا له مه جلسئیک قورئان بخوئینئ، ئه گه ر غه له طیک بکات له هه موو طه ره ف صدای (چی چی چی) بلند ئه بیئ، وائه بیئ (قاریء القرآن) که له خه جاله تان قورئانی پی ناخوئندرئ.

ئه م ما له تحریفاتی معنه وی قصوریان نه کردوو، که سئ ته ماشای تفاسیری (رافضی) یان بکا، قورئانی به شه هنامه ی علی، خودا یا پیغه مبه ری به (فردهوسی) دئته به ر نظر (ویل لهم ویل لهم) وه له مه ودوا له تراجمی قورئان بی شک تحریفاتی زۆر ئه کرئ، خوئیا که ته رجه مه ش ئه کرا له طه ره ف مه لایه کانی به دین و زوبان زان و محری چاک بکرایه .

سابقاً عه رضمان کردن مه داری نه جات، به ئیمان به خودا و پۆژی جزاو به عملی صالحه . ئیمانی صحیح به قیامهت - لاشک - ئینسانی سه وق ئه کا بۆ چاکه، ئه گه ر ئه و ئیمان به صحیحه نه بیئ، ئینسان چاک نابئ، پوو له چاکه ناکه ..

که وایی یه گانه سه به بی جساره تی ئه م گرۆه چی یه ؟ بی ئیمانی یه ئه م هه موو فساداتانه یان ئه کرد.

﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ ئه یان گوت ئاگر به ئیمه ناکه وئ ئیمه ناگرئ، الا چند پۆژیک نه بیئ، ئه وه ش بۆ ئه وان، که سانه یه، که عباده تی عجلیان کرد و، نائی شه فاعهت نابن. هه فت پۆژ به قه دهر عومری دنیا، که هه فت هه زار ساله عه ذاب ئه درئین. پۆژئ مقابل هه زار سال (حه قیقه) حسابی زۆر نارئیکه، زۆر بی مه عنایه، ئه گه ر به قه دهر ایامی عباده تیش بوایه، هه ر چاک بوو نسبه تئیکه هه بووا! (مع انه) زه مانی عه ذاب به گوئره ی زه مانی، کفر و گونا ه نی یه .

مثلاً که سئ هه فتا سال له سه ر کفر بژئ، بلئ خوا نی یه . خو نالی خوا

ہفتا سالہ نیہ، بہ لکھو لہ آئی کدا نہ فی وجودی ازی و ابدی ئەکا. کہ سئ زللہ یہک لہ یہ تیمی ئەدا، عذابی ئەو بہ گویرہی ئەو آنہ نیہ، کہ زللہ کہی لئ ئەدا، بہ گویرہی ئەو قساوت و دل پرہقیہ، کہ بووہ تہ کیفیہ تیکی پاسخ لہ دلی دا.

مہ لایانی ئیمہش لہو نہوعہ اغرایہ خویمان نہ پاراستووہ، حتی بعضی ئەلین: گہرمی جہنم لہ سہر موسلمانان، بہ قہدەر گہرمی حمامہ، وہ ئەو موسلمانانی بجیتہ ناو جہنم، خہوی لئ ئەکەوئ.

سبحان اللہ، کہ ئیمہ الحمدللہ موسلمانیشین، ئیمانمان بہ خودا و پیغمبەر و پوژئی جزا ہہیہ، گہلئ شہو لہ ہاوین لہ بہر گہرما خہومان لئ ناکہوئ، خاصہ کہ پیشکەش دہورہمان لئ بدا، دیارہ ئەو قہومہ چہندیان ئیمان بہ حمام ہہیہ، ہەر ئەوہندہشیان ئیمان بہ جہنم ہہیہ، (مع انہ) کہس لہ ناو حمام خہوی لئ ناکہوئ.

﴿قُلْ﴾ یارسول اللہ ﴿أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا﴾ ئایا عہد و پیمانتان لہ خزمہت خودا وەرگرتووہ؟ ﴿فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ ئەوہ قطعییہ، کہ خودای تبارک و تعالی عہدی خوی ناشکیئ.

﴿أَمْ نَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿۸۰﴾ یا خود افترا ئەکەن قسہ ہل ئەبہستن، ئەوہ جہلی خوتانہ ئەلین خوا وای فہرمووہ، بئوہ ثیقہ و دەلیل و بورہان. (حقیقہ) ئینسان، کہ ترسی لہ خودا نہبئ لہ ہیچ ناگہریتہوہ، کوا شخصی وەک (مہیب) لہ خوا نہ شترسی عصیانئ نہکا، ئەو نہوعہ کہسہ نادرہ، حتی ئەویش فہرضیہ. سہرورہی کائنات، حبیبی خودا لہ ہہموو کہس زیاتر لہ خودا ئەترسا خہلقی دی چوئن ئەبئ نہترسی، بہو ہہموو عہیب و عار و گوناه و شہرمہ زاریہ!؟

بزائن. ئاگاداربن ئەی (قربای) کرامم، ئەوانہی کہ لہ (ملیون) حساب ئەکرین دوو قسمن: مطیع و عاصی؛ ہہریہک لہو دوو قسمنہ دوو نہوعہ:

دل نه رم و دل قاسی .

گوناهکاری دل نه رم، نه گهر له سهوق و شهوقی شهوانی، گوناھیکی لی صادر بی، شکستیکی قلبی، انکساریکی پوحی، ئیشیکی وجدانی بو پهیدا نه بی. نه و ذیلله ته، نه و انکساره، نه و ژانه خوئی جهلبی لطف و مہرحه متی ئیلاھی نه کا. حتی خه جالته و انفعال نه یگه ینیتته نئیزیک مایوسی، نه و خه جالته هی لا، گه لیک له عه ذابی حسی گرانتیره، وهک (خیام) نه لی:

با نفس همیشه در نبردم چ کنم
و از کرده ی خویشتن به دردم چ کنم
گیرم که مرا فرو گذاری به کرم
زان شرم که دیدی که چ کردم چ کنم^(۱)

گونه هکاری دل رهق خاصه، که اولادی دل رهقان بی وه، یا خود به نه سه بی مغرور بی هه زار گونا بکا، زهره ییک متاثر نابی خه جالته نایگری! نه و نه وعه که سه نه گهر ئیمانیشی هه بی، نه وه نده که مھیزه اصلاً نابی به مانع. نه و جوړه که سه نه فسی خوئی به ره للاً نه کا، هه موو نه وعه گوناھیک ارتکاب نه کا، گونا ه دوره ی لی نه دا حسیش ناکا، نه همیه تی پی نادا.. دیاره نه و گرووه مقصودن به رهدد و ابطالی ده عوای کاذه .

﴿بِکَلِّ مِنْ کَسْبٍ سَيِّئَةٍ﴾ هه که سی گوناھ بکا له هه طائفه یی بی، موسلمان یا جووله که، اسرائیلی یا سید، کورد یا عه رب ﴿وَأَحْطَتْ بِهِ﴾ خَطِيئَةٌ ﴿(سیئه) گوناھیکه، که خوئی مقصود بی. (خطیئه) گوناھیکه، که وه سیله بی بو گوناھی تر. (کانه) گونه هکار له و گونا هه، شه قاو نه هاوی بو گوناھی تر.

کانه گونا هه سه ر گونا هه، نه کاته پی پلقه پی دا هه لئه چی بو گوناھی تر.

(۱) - چبکه م، هه مووده م له گه ل نه فسی خوئا ریگه ده رناکه م، له کرده وهی خووم به نازارم، دامنا، که تو به جوامیری خوت وازت لی هینام، به لام له و شه رمه ی، که کرده وهی منتدی، چبکه م؟ ع . بیمار

چاکہ ئەکەن، چاکە ئەکەن بە وەسیلە ی چاکە ، ومع هذا خوا هەمووی هەر بە چاکە ئەزانئ، چونکە چاکە چاکە .

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۸۲) ئەوانە خواوەندی بەهەشتن، لیک جودا نابنەوہ . ئەوانی پێشوو خواوەندی جەنم، ئەمانە خواوەندی بەهەشتن، ئەگەر کەسیکی تر بچیتە بەهەشت، یا جەنم بە تبعیەتی ئەوانەوہیە وەک خزمەتکار لەگەڵ ئاغا .

ئەوجا لەو تحریرە نایابە بە دەرئەکەوئ بو گوئ دێران، کە ئێرە جی جی تەماشای و اعتبارە، بە چاوی انصاف تەماشای خۆیان بکەن نەسبەت بە گونا، بە چاکە مەیل و تاثیر و تاثیران چۆنە، تاکو تی بکۆشن و بەراستی و دروستی بزانت، کە مایە نەجات، ئیمان و عملی چاکە، بە حسب بە نەسب، بە ئومیدی شفاعەت، بە کەمی عەذاب هەلنەخەلەتین .. جی جی چک بردە چک بردە (سنی و معتزلان) نییە .. جی جی تاویل و حرفی ئەو نایەتە نییە بە نەوعی، کە روح و پەروەقی ببا .

* * *

تا ئێرە سێ فەصلە، (یەکی) بەیانی عەلامەتی ئەوانە، کە اقتدا یا اهتدا بە قورئان ئەکەن و، نیشانە ئەوانە، کە قابل نییە ئیمان بە قورئان بێنن . وە ئەو نیشانە ذل و انکسارە بە سینە پر کینە ی بنی اسرائیلیان دا درواوہ کە ئەوانە لە سەر آمەدانی غضب لێ گیراوانن . (دووہم) باسی زعمای بنی اسرائیل لەگەڵ حەضرەتی (موسی) و ئایاتی . (سێیەم) باسی مەلایەکانی، کە تەوراتیان وەرگرتبوو، گویا عملی پێ بکەن و زانیتان ئەوانە سێ فرقەن .

لەم فەصلە، بعضی تفصیلاتی معاملاتیان بەیان ئەکا، تا بزانت دەربارە ئەو کتیبە: حکماً حکماً، جملة جملة چیان کردوو، بۆی ئەفەرموئ ئەوہش یاد بکەن .

﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ؎ ئهوی عهه و پهیمانی له سهر کرابوو
 چبوو؟ ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ ؎ غهیری خودا عبادهتی کهس ناکهین.
 ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ؎ له حق داک و باوکان چاکه ئه کهین، ئه ماما چاکه ..
 ﴿وَزِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾ ؎ وکذا دهربارهی خزمان و هه تیوان و
 دهرده مهندان، (کانه) خویمان ئه و عهده هیان تقدیم کرد، بوئی به نفی و
 اثبات ئه فهرموئی نه وهک به امر و نهی. ئه ماما دیاره به چاکه ولو به
 زوبانیش بی، له خووه پوو له خه لقی ناکهین، بوئی ئه فهرموئی: ﴿وَقُولُوا
 لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ ؎ قسهی چاک به خه لقی بلین، امر به چاکه بکهین، نهی له
 خراپه بکهین، خزم یا بیگانه، به دهسه لات یا بی دهسه لات.
 ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ؎ نویژ به جی بهینن، وه زهکات بدهن
 ﴿ثُمَّ﴾ ؎ له پاش ئه و عهه و میثاقهش، که خوٲان نواندتان و من ئه مرم پی
 کردن، گویا ئیوهش قبولتان کرد. ﴿تَوَلَّيْتُمْ﴾ ؎ حاشا ثم حاشا هه رچی
 قبول بکهین؛ زهکات دان قبول ناکهین، ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ﴾ ؎ الا
 که میک نه بی له ئیوه، که مه لایه چاک و پاکه کان بوون..
 ﴿وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (۸۳) ؎ ذاتهن ئیوه پوو وهرگیتران، عهه دشکه نی یه،
 واتان پوو لی وهرگیتر، که جاری تر پووی تی نه که نه وه، ئه و عهه و میثاقه
 دائر به اخلاق و تدبیر المنزلة، (حقیقه) شرایعی پیغه مبه ران، گه لی
 له (قوانینی دول) چاتره، مقصدی اولیه تهذیب اخلاقه، راسی تهذیب اخلاق
 ئیمانی به راستی یه، که سی اخلاقی چاک نه بی، له گه ل داک و باوک و
 ضعف او بی دهسه لات، چون چاک نه بی؟ له و نه وعه بی تربیه تانه، ئه بی چ
 نه وعه عائله بییک تشکل بکا، چ خانه دانیک پهیدا بیی؟ قانونی دولی
 ته ماشای اخلاق ناکا، ئیمان به خودا ئه همیه تی نی یه!.

وہی ہش بہ سہریان! تہوہندہی ئیمان فائدهی ہہیہ، بوانتظامی عمومی و امن و ئاسایش و اصلاحی بشری، ہزار تۆپ و تہییارہ تہو فائدهیہ نادا. جہنابی حق، استثنای جمعی قلیل تہکا لو عہدشکہنانہ، دیارہ ئوممہتی و زۆر تہبی جہماعہ تیکیان ہہبی، کہ اوامری ئیلاہی بہ جی بہیئی، کہم بن یا زۆر بن، عہدیکی تریشیان ہہیہ بو سیاست المدن، ہیئہتی اجتماعی، کہ تہو طبعاً لو پاش اصلاحی فرد و تشکیلی عائلہ تہبی. ہہیئہتی اجتماعی لو عائلان مرکبہ، بوئی دیسان تہفہرموی:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ تہو میثاقہ لو زہمانی حضارت و مدنیہت دا بووہ. ہر قہومی کہ لو منکوبی و تہسارہت دا بن، البتہ لو گہل یہک چاک تہبن، بہ لام لو زہمانی استقلالیہت بالعموم لو گہل یہک تیگ تہچن، بوئی عاقبت سلطہنہ تیان مو تہبیئہوہ.

تہبینن چہند کہ لہ باب بہ لاقی بہ ستراو لو سہر باریکیان دائہنن، اصلا بہ گز یہک ترا ناچن، بہ لام کہ بہرہ للا بوون، ہر کورہ کہی جارائن بہ سہر و پۆپرہی یہ کدا تہدن! لو ہموو چشتی اہم تر لو میثاقہ؛ حفظی نہفسہ، بوئی تہفہرموی: ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ خوینی خوتان نہ پڑینن.. ہر طائفہیی، ہر قہومی، ہر خانہدانی، کہ خوبہ خوئی خوینی یہکتریان پڑاند؛ پہریشان و بیہیز تہبن، تہگہر نہش فہوتین، تہبنہ ژیر چہ پلۆکی خہلق.

﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ خوتان لو مہملہ کہتی خوتان دہرمہ کہن، زۆر بووہ لو یہک عہشیرت، فرقہیی بہ قووت طمعی لو شعبہیی ضعیف کردووہ، لو دار و دیاری خوئی دہر کردووہ، استیلای مہملہ کہتہ کہی کردووہ، تہوانیش بالمجبوریہ چوونہ ژیر بالی عہشایری تر۔ خصوص تہوانی، کہ دوشمنی ہموویان بوون۔ تہمانہیش (فرصتہ بالاستفادہ) تہحریکیان داون.. تقویہیان کردوون.. حاصلی (بعد الکر

والفرّ) دوژمنه کانیان، استیلای دار و دیاری هه موویانیان کردوه .

﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ﴾ له پاشدان ئیوه اقرار و اعترافتان کرد، که ئه و عهد و میثاقه زور باشه بو ئیمه، لاکن ئه و عهده شتان شکاند .

﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ (۸۴) ئیوه شاهد و مطلعن، ناگا له خون، که چی:

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ یه عنی انسالتان نا، هه ر خوتان خوبه خوئی یه کتر ئه کوژن ﴿وَمُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ﴾ له خوتان ﴿مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ له ولاتی خویمان . ﴿تُظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ پشت دانه یک له زهره ری ئه وان به گناه، به تجاوز له حق به غهیری ظلم و غه در، هیچ به هانه ی ترتان نی یه ..
 ئه و بی چاره ده رکراوانه، په راگه نده ئه بن .. دوژمنتان زوره، ئه که ونه ئه ساره تی دوژمنان .

﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى﴾ ئه و جا که ئه سیری دهستی دوژمن بوون و، به ناچاری هاتنه وه لای ئیوه، که له ئه ساره تیان ده ربینن بیان کررنه وه ..
 ﴿تَفْدُوهُمْ﴾ ئه یان کررنه وه، فدییه یان له جیاتی ئه دن، ئه لئین واجبه له سه ر ئیمه، شعبی بنی اسرائیلی له ئه ساره ت نه جات بدهین . ﴿وَهُوَ﴾ شه نئیکی زور عه جاییب و سهیره ﴿مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِحْرَاجُهُمْ﴾ ده رکردنیان له سه ر ئیوه حه رامه، به واسطه ی ئیوه تووشی ئه و ئه ساره ت و ذیلله ته بوون، که چی ئه لئین نه جاتیان له سه ر ئیمه فه رضه ، بوئی فدییه یان ئه دین .

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ ئیمان به بعضی کی کتیب دینن، عملی پی ئه که ن و، کافر ئه بن به بعضی کی . خلافی ئه و، حه ره که ت ئه که ن . (حقیقه) ئه مه شه نئی مل پانانه .

ئینسان به کمالی حیرهت تی ئە فکری، عجا ئه و نه و عه قه و مه عاقبه تیان چی یه، دوو چاری چی ئە بن؟!

﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ﴾ به عه قل و تامل، به (سیری) عالم ئە زانی، ئە و نه و عه که سانه هیچ جزایان نی یه .

﴿إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الا په زالهت و ده نائت نه بی له حه یاتی دنیا، چی تر جزای ئە وان نی یه، دیاره قه و می، که خۆ به خۆیی یه کتر بشکیین، مغلوبی اقوامی تر ئە بن، به کمالی حه قارهت و په زالهت و عبودیهت، ئە گهر بمینن ئە ژین، ئە وه حالی دنیا. بو پوژی قیامه تیش، خودا ئە زانی چی یان لی ئە کا .

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ هه ر ئە وه نده ئە توانین بلین، له هه موو عه ذابیان به شده ت تره ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ ئە وانه ئە وانه، که حه یاتیکی به ده نائت، به سفالت، به په زاله تیان داوه به حه یاتیکی فاخر (دی شرف) خوش، وه ک حه یاتی به هه شت .. که وایی نه له دنیا نه له قیامهت .

﴿فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ نه له دنیا، نه له قیامهت عه ذابیان له سهه سووک نابی. نه له دنیا و نه له قیامهت نصرهت نادرین. کهس به ته مای دوژمن نه بی! یارو یاوه ری بکا، ته شکیلی حکومه تی پی بکا، بیکا به ده وله تیکی مستقل، ئە و نه و عه قه و مه، که خۆ به خۆیی له یه کیان تی ک ئە دا، ئە که ونه ژیریاری خه لق وه کی کهر، ژیرنییر وه ک گاجووت .

ئە و جا بزانی قه و می، که له گه ل پیغه مبه ری خویان، ئە و زه عیمه گه وره یه، ئە و کتیبه هادی یه معامله و اطواریان وای بی، چۆن طمع ئە کهن .. ئیمان بهینن به پیغه مبه ری ئیوه؟! علاوه ئه و خه باشه ته مه یلیکی تریشیان هه بوو له حه ق پیغه مبه رانی، که دووای حه ضره تی (موسی) هاتن و، هه ر له خویان

مهیل و فکره که ش ئه وه یه، که له ئایه تی آتی به دهرئه که وئ.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ ئه و کتیبه ی، که باسی کرا (انه) هه ر بۆ ئه و هات و، هه ر بۆ ئه ویش مایه وه. ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ له پاش هه ضره تی (موسی)، یه ک له دوا یه ک پیغه مبه رانمان بۆ هه ناردن. یه ک له ئه وان هه ضره تی (عیسی) یه، که مشهوری انامه.

﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ له مه و دووا به یانی دئ.

﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ ته قویه مان کرد به جبریل، که روحیکی پاکه، یا به روحی پاکى خۆی، خاویڤ له مهیل و محابا و حب و جاه و سلطه نه ت، دهر باره ی ئه و رسلانه ئه وه یه، که له م ئایه ته ئه فامرئته وه.

﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ أَسْتَكْبِرْتُمْ﴾ به استفهامی توبیخی (لوم) پئیان ئه ئی، ئایا هه ر وه قتی ره سولئ هاته سه رئئوه، به موافقی هه وا و هه وه سی ئئوه نه بئ نه یحییڤن، تکبر و تعظم ئه نوئین؟ (انه) له وه گه وره ترین پیغه مبه رمان بیته سه ر، با له خو شمان بئ.

﴿فَقَرِيفًا كَذَبْتُمْ وَقَرِيفًا نَقَلْتُمْ﴾ فرقه یی له و پیغه مبه رانه تکذیب ئه که ن، ئه لئڤن درؤ ئه که ن ئئوه پیغه مبه ر نین، دیاره ئه گه ر ده سه لاتیان به سه ردا بشکابوایه، ئه یان کوشتن و فرقه ییکیش ئه کوژن. ئه و جا ئه م عه صره یه، که بنی اسرائیلی پیغه مبه ران بکوژن، ئه وی ده سه لاتیان به سه ردا بشکئ.

﴿وَقَالُوا أَفَلَوْبُنَا غُلْفٌ﴾ لئره ئئمه ته فسیری ئه که یه وه به محفوظ له ژهنگ، (انه) دلئ ئئمه وه ک ئاوئنه ی صاف، یا تیغی مجوهر له کیف و کالان دایه. هیچ گه رد و غوباری لئ نه نیشتووه، حاجه تی به (مصقل) نی یه، پیغه مبه رمان بۆ چی یه؟.

﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ وه معلومه ئه گه ر دلئکی ادنی قابلیه تیکی ئیمانی

تی دا هه بی، جه نابی کبریائی له لطف و مهره مه تی خوی محرومیان ناکا و،
ئه و قسه یه شیان عهینی جهاله ته .

ژهنگی کفر به نه و عیکی دلی داگرتوون، قابلیه تی (تنوری تی دا
نه هیشتوو، له بهر غایه تی کثافه تی خوی، به پاک و خاوین تی ئه گا .
که وایی راست ئه کهن دلیان له ناو غلاف دایه، ئه ماما غلافی کفر و جهل .

حالی سوادى اعظمیان ئه مه یه، بالطبع ئه و نه و عه قه و مه مؤمن له ناو

ئه وان ، زور کهم ئه بن . ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ جه معی کهم کهم ئیمان

ئه هیئن، ئه و جه معه ئه وان هه، که به راستی ئیمانیا به (کلیم) هیئاوه،
اهدایان به تهورات بووه بویی ئیمان به پیغه مبهری (آتی) ئه هیئن .

ئه مه حال و شه ئنیا له گه ل پیغه مبهره کانی خویان، ئه و جا ئه بی
کرده و هیان دهر باره ی پیغه مبهری، که له خویان نه بی چۆن بی؟

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ئه و کتیبه ش ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ قورئانی

عظیم الشانه ..

مؤید بوو ئه و چشته ی، که له گه ل ئه وان بوو، او (ما معهم) یش له ئایه تی

﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ به دهر ئه که وئی .

له پیش هاتنی ئه م کتیبه، طلبی فتح و نصره تیان ئه کرد له سه ر ئه وانی

کافر و مشرک .

روایه ت کراوه له جه معی له انصار، ئه یان فه رموو له زه مانى جاهلیه ت

ئیمه له سه ر جووله که کان غالب بووین، جووله که کان ئه یان گوت پیغه مبهریک

دی، زه مانى نزیکه . ئیمانی پی ئه هیئین، تبعیه تی ئه که یین، ئه و جا ئه و وه قته

ئه تان کوژین .

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ ئه یان گوت ئه وه له (بنی

اسماعیل) ه و پیغه مبهرایه تی خاصى بنی اسرائیلی یانه . له بهر هسه د

ئیمانیا نه هیئا، خو معامله ی ئه وانیش له حه ق پیغه مبهره کانی خویان

معلوم ہوو.. پیغہ مبرئی بیتہ سہر ئہ وان، یا موافقی ہوا ی نہ فسیانہ، کہ حوکم بہ تہورات بکا و بہس، یا مخالفہ کہ بہ گویرہ ی زہمان لہ احکام اصلاحاتی بکا.. یا اسرائیلیہ، یا غیری اسرائیلیہ .

(علی کل حال) ئیمانیاں نہ ہیئا، کہ وایی حاجت ناکا خوا بفہرموی من لہ عنہ تم لی کردن، بہ لکوو لہ عنہ تہ کہ خوی بویان دی:

﴿ **فَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ** ﴿۸۹﴾ ﴾ «آمین» ئہ و قہومہ (کانہ) خویان کردوہ تہ (ثمنی) کفر، خویان ئہ فروشن. کفر نہ کردن.

﴿ **يَسْمَاۤ اَشْتَرُوۡا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْۙ اَنْ يَّكْفُرُوۡاۙ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ** ﴾ (حقیقہ) معامہ لہ بیکی زور پیس و بی معنایہ . کہ وایی (شراء) لہ سہر مہ عنای خویہ تی. ئہ و کفرہ غلیظہ یان لہ بہر چیہ، کہ پوحی خویان پی داوہ؟

﴿ **بَعِيًّا** ﴾ حہ سادہت و تجاوز لہ حد، ئہ و حہ سادہتہ ش لہ سہر چی؟ ﴿ **اَنَّ يَنْزِلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ عَلٰۤیۤ مَنْ يَّشَآءُۙ مِنْ عِبَادِهٖۙ** ﴾ اسرائیلی بی، یا غیرہ اسرائیلی بی، حہ سادہت و کبریاں لی ناگہرئی ئیمان بہینن، رئاسہ تیان لہ دست ئہ چی، ئہ بن بہ تابع. ناردنی پیغہ مبران لہ لای ئیمہ، محضی فضل و کہرہ مہ، لای (معتزلی) یان واجبہ، ئہ مہا بعثی ئہ م ذاتہ یا ئہ و ذاتہ، لہ م طائفہ یا لہ و طائفہ - بالاتفاق - لہ فضلی ئیلاہیہ .

ہیچ شعبی خصوصیہ تیکی نیہ، کہ پیغہ مبرایہ تی منحصر بی لہ وا. ﴿ **فَبَاۤءُوۤا بِغَضَبٍۭ عَلٰۤی غَضَبٍۭ** ﴾ خویان دوچاری غضب لہ سہر غضب کرد. غضبی سابقی موروث، غضبی لاحقی مکتسب.

وہ لہ بہر غایہ تی بی عاری، اصلاً لہ و مقامہ دا تاثیر و انکساریکیان بہ سہر دا نہات، بویئ نافہرموی (ضربت علیہم الذلة و المسکنة) ئہ وہی پاش مغلوبیتی قطعی ئہ فہرموی، ئہ وہندہ ئہ فہرموی.

﴿ **وَلِلْکٰفِرِيْنَ عَذَابٌۭ مُّہِيۡتٌ** ﴿۹۰﴾ ﴾ دیارہ بالمآل توشی ئہ م ذیللہ تہ ئہ بن .

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ته ماشای اشخاص مه کهن ئینسانییکی، که طالبی حه ق بی، که یفی به علم و حکمهت بی، علم و حه ق وهرئه گری. (ولو) له گاوانی بی.

بوی جه نابی رسالهت ئه فه رموی: (الحکمة ضالة المؤمن).

﴿قَالُوا﴾ له جوابدا ﴿تُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾ و بهس، کانه ئه لئین (ما انزل الله) هر ئه وه یه بؤ ئیمه هاتوو، باقی تر هیچی له طه رهف خوداوه نی یه، بوی نالئین (نکفر بما ورائه)، به لکوو خوا ئه فه رموی.

﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾ با وجودی ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ تییک نه دراوه، ته حریف نه کراوه، چۆن نزول ئه کا (على ملأ الناس) ئه خویندریته وه، دۆست و دوژمن وهری ئه گری.

﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ﴾ هر کتیبی بؤ پیغه مبه ران هاتبی له طرف خودا، ئه م کتیبه تاییدی ئه کا فه رقی مغشوش و نقدی ئه کا، وه ک محه ک. ﴿قُلْ﴾ له په ددی ئه وان ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ﴾ ئه وان، که له خۆتان بوون.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ئه گه ر ئیوه راست گۆن، که ئیمان ئه هینن به هر کتیبی هاتبی بؤ خۆمان.

ذاتا له پیشه وه به ده رکه وت، له پاش حه ضره تی (موسی) هر که سی، به هر نه وعی ناردرابی، تکذیبیان کردوو و ئیمانیشیان به (موسی) و کتیبی (موسی) به ته قلیدی آبائه، نه وه کو له فکر و نظری خۆیان وه. وقتاً که ئه و گرو هه، تصلب و تعصب و قووته تی ئیمانیان به خودا و کتیب و ره سولی خۆیان نواند.

لاشک ئیمانیا اجیالی دواپی له قووته دا، ناگاته ئیمانیا ئه وانیه حاضری زه مانیا ره سولی خۆیان بوون. ذاتاً هر چشتی، که له (اول) وه تاسیس بکری، ئه وانیا که مؤسس بؤ تقریر و تقویه سی سه عی بی نه ایته ئه که ن -

لدى الحاجة - نفس و نفیس صہرف ئەكەن. بۆیى جەنابى بارى له پووى ئەو گروھه متعصبه مختصراً به يانى دەرەجەى ئىمانى اسلافى كراميان ئەكا. ئەوجا قووت و متانەتى اخلافيان به ظريفى تبیین ئەكا، ئەفهرموى:

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ كه سابقاً به يان كرا.

﴿ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ له پاش هاتنى (موسى)، يا له پاش چوونى

بۆ ميقات. ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (۹۳) شيمهتتان ظلمه، ته جاوزه له حەق.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ بۆ وەرگرتنى بينات به و نهوعه ﴿وَرَفَعْنَا

فَوْقَكُمْ الطُّورَ﴾ به و اكراه و تشديده ئەمرمان كردنى:

﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا﴾ ببينن، تىى بگەن، سطحى

به سهرى دا مه پۆن.

﴿قَالُوا﴾ بى (ثم) ه ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ به لى بيستان، لاکن قبوولمان

نه کرد و نايکهين، دەرکەوت، كه ئىمانى اولين و آخرييان به (موسى) و کتیبى موسایش مزخرفه، ئەوجا معلوم بوو به قیاس و نسهبەتى ئىمانى (خلف)، له گەل ئىمانى (سلف)، كه متانەتى ئىمانى ئیوه له چ دەرەجەى دایه، ئاشکرایه به دەرەجاتى بى (حد و عد) تحت الصفره.

دلى ئیوه ئەوهنده ساردبووه، له شهختهی ته جاوزى کردوو، بووه به بهرد. بزانین یه گانه سه به بى نه فرهتى بنى اسرائیلی له ئىمانى (بما انزل الله) چى یه؟ .. وهكو سابقاً به يانمان کرد (حبى) عجل بوو، نهكو تمثالى .. به لكوو ئەو عجلهى، كه له مصر خدمهى دەرگاھى بوون، ئەمما چۆن حبى؟ حبى، كه له عمقى دلوه هه لكوئى، به هه موو پهگ و ده ماریان دا برؤا، له هه موو به ده نیان سرايه ت بكا.

﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ ئەو محبه ته بى حد و غايه ته ..

﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ به سه بهب کفر و جهلیان بوو. ئەگەر ئەوانه ئاشاری ئابائی کرامیان، نەررهیی ئیمان له قهلبیاندا هه بوایه، ئەبوایه رقیان زیاتر له (عجل) ببی، به لام ئەوی حس په رست بی، ئەو نه وعه ئەفکاره ی به دلدا نایی. ئەو سرره مه کتومه ی که لی ئەترسان ئاشکرا ببی، لیره به ظه ریفی لیان ئاشکرا کرا.

﴿قُلْ﴾ یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ﴿يَسْمَأُ يَا مُرُكُم بِهِ﴾ ﴿إِيمَانِكُمْ﴾ ئەو ئیمان، که خۆتان ئەیزانن بو چیتان سه وق ئەکا، ئەمری ئیمانی چی به بو کفر؟

چ بو ئیمانی راستی ئەمری لفظی نییه، ئەمریکی تکوینییه، سه وقی وا له دل پهیدا ئەکا، که جبراً سه وقی ئەکا بو مقتضای خوی. بوئی علمای ئیمه ئەفه رموون: (عمل داخلی حه قیقه تی ئیمان). حقیقه وایه، که سئ ئیمانی هه بی به خودا و پیغه مبه ر، ئەو ئیمان هه وق و ده وقیکی تی دا پهیدا نه کا، بو اطاعه و فه رمان به رداری ئیمانی نییه .. که له دلدا شین بووبی، ئەوهنده ضعیف و بی ئەه ره (ایمانه لا) وهک (لا ایمان له وه).

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ئەگەر ئیمانتان هه بی به راستی، که می تی ئەفکرن ئەزانن ئەو ئیمانیه، که هه تانه سه وقتان ئەکا بو چشتی زور خراب. ئەمما شعورتان به بی شعوری خۆتان نییه .. حه قیقه ئەو ئیمان هه کفریکی مرکبه، قه ومی که ادعای انحصاری نبوهت بکه ن له خویان، دیاره ادعای انحصاری نعمه تی ئیلاهی دنیه وی و اخروی ئەکه ن له خویان. بالخاصه ثمره ی نبوهت له داری آخه رت به ده رته که وی.

﴿قُلْ﴾ یا رسول الله - صلی الله علیه وسلم - ﴿إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ﴾ ئەگەر ئەم ئیمان هه تان راست بی، که

نیعمہتی آخرت له طرف خوداوه، خالصی ئیوہیہ و خاص بۆ ئیوہیہ و هیچ شعبی تر له بنی آدمی، شرکەتی له و نعمه ته دا نی، وه کوو شرکەتی له نعمه تی نبووت دانی یه .

﴿ **فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ** ﴾ ته مه ننا ی مردن بکن، یا به زوهد له دنیا که - داری اکاره - خه لقی تریش له گه ل ئیوہ له و حه یاته دا شه ریکن . که سی ئیمانی هه بی به حه یاتی خالص و خاص چۆن پابه ندی حه یاتی ک ئه بی ناخۆش، مشترک له گه ل اغیار، له گه ل حیواناتی دون؟ یا به قتال (ضمنا) به یانی ئه فه رموی .

﴿ **إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** ﴾ ٩٤ ئه گه ر راست ئه کهن؟! ده رئه که وئ، که له م ادعا یه دا درۆزن، قاعده یه : «رفعی لازم مستلزمی رفعی ملزومه» .

﴿ **وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا** ﴾ حتی به زویانیش ئه مه زۆر سه هله، با به دل نه بی، گه لی که س له وه قتی ته نگانه یی، ته مه ننا ی مردن ئه کا، ئه م ما ئه گه ر (نوعاما) علامه تی ک به ده رکه وت، زۆر زوو په شیمان ئه بیته وه . سه به بی چی یه ئه م ته مه ننا یه ناکهن؟؟...

﴿ **بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ** ﴾ به سه به ب ئه و چشته ی ئه و گونا هانه ی، که به ده ستی خۆیان، به قووه تی خۆیان، به اختیار و مه یل، بی جبر و اکراه کردوو یانه، بۆ زه خیره ی (داری ابدي) پیشین ناردوو یانه . ئه وی ئه یان گوت، که ئیمه عه ذاب نادرین . ئه وی که عه ذاب بدری به عه ذابی که م، خفیف عه ذاب ئه درئ، له دل وه یان نه بوو، مقصودیان هه لئه تانندن بوو، ظلم له عبادی خودا بوو، که ئه وانیش (لا ابالی) یانه، تووشی گونا ه بکن .

﴿ **وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ** ﴾ ٩٥ به گویره ی گه وره یی ظلم، جزایان ئه دات و له هه موو ظلمی گه وره تر، منعی فه یضی ئیلاهی یه له به نده کانی خۆی .

﴿ **وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ** ﴾ تو ئه ی ره سول الله، یا هه ر

کہ سئی، کہ وجدانی ہبئی تہ ماشایان بکا؛ ئہ یان بینئی کہ لہ ہموو حریصئی، حریص ترن لہ سہر ئہم حہ یاتہ دہ نییہ و رەزیلانہ یہ با وجودی .

﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ بعضئی ہہ یہ لہ مشرکان ئہ و ہندہ حریصن، کہ

﴿يَوْمَ أَحَدُهُم لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ حەز ئہ کا ہزار سال بژیئ، ئہ و ہندہ حریصن

ئہ و اسرائیلی یانہ، با وجودی (موحد)ن لہ وانہش حریص ترن، ئہ وان حەز ئہ کەن لہ و داری دنیا یہ، غیرہ محدود بژیین .

﴿وَمَا هُوَ بِمَرْحُومٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ﴾ ئہ و ژیانہ با ہزار سالیئ بئی،

یا زیاتر بئی ئہ وی دوور ناخاتہ وہ لہ عذاب . چونکہ تووشی مردن ہر ئہ بئی و عذابیش ئہ بینئی .

یا خود ژیانی ابدی لہ داری دنیا، ئینسان نہ جات نادا لہ عذاب .. زیارا لہ تقدیری حیاتی ابدی دنیا، قیامت ئہ کە ویتہ دنیا داخلی داری جزا ہر ئہ بن .

﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (۹۱) ئہ وی ئہ یکن لہ خودا بزنا بئی وقتاً، کہ

فہرموی ئہ وانہ لہ ہموو کہ س حریص ترن، دیتہ دل و ممکنہ ئہ و گرؤہہ القاءات بکن .. ئہ و قسہ قسہ ییکی شاعرانہ یہ، مبالغہ یہ .. ﴿قُلْ﴾ یا محمد بؤ اثباتی ئہ م مدعا یہ، کہ ذہر رہیئ مبالغہ ی تی دا نی یہ، بہ لکوو حکمیکی ثابت و محقق و مدللہ .

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ ہر کہ سئی بئی ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبًا﴾

قورئانی ہیناوتہ سہر دلئی ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ تو بہ اذن و پەضای خودا

﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ لہ تہورات و سائری کتبی تر ﴿وَهُدًى وَبُشْرَىٰ

لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (۱۷) ئہ م کتیبہ ہادی یہ و بہ شارہتہ لہ بؤ مؤمنان . ئہ و ہش

موجب نی یہ بؤ عداوتی جبریل، چونکی بہ امری ئیلاہی چشتیکی زور

چاکی هیئاوه، که وایئ (تحری) و جستوجۆ بکهین سببی چییه، ئەوانه
عداوهتیکیان له گهڵ (جبریل) ههیه؟

ئەوانه عداوهتیکیان له گهڵ جبریل ههیه پێش نزولی ئەم کتیبه، پێش
ناردنی ئەم پێغه مبه ره، که ئەو عداوهتهیان کردووه ته سه به بی ئیمان نه هیئان
به ئەو کتیبه ی، که (جبریل) هیئاویه تی، لی ره احتیاجیمان ههیه به سه به بی
نزولی ئەم ئایه ته، چونکی سه به بی نزول و سه به بی نظمى ئایه ت له م
مقامه دا زۆر موافقه .

له روایاتی صحیحه به دهرئه که وئ، که ئەو اسرائیلی یانه رقیان له جبریل
ئەبوه وه، چونکی لایان وابوو حرب و خه سف و مه سخ و خلاصه ی هه رچی
عه ذاب بئ، عه یشی دونیا ناخۆش بکا له طرف جبريله وه یه، با وجودی
ئەگه ر وایش بئ صرف به ئەمری خودایه .. بناءً علیه ئەگه ر حرصی ژیانیان
له هه موو عالم زیاتر نه بوایه، جبریلئ که مه ئموری ناردنی اسبابی عه ذاب
بی، بۆچی رقیان لئ ئەبیته وه؟ چشتیکى تریشیان هه یه ئەویش ده لاله ت ئەکا
له غایه تی حرصیان، که محبه تی (میکائیله) چونکی مه ئموری هه رزانى و
ترفیه ی عه یش و خۆشى حه یاتی دنیا یه، و فى الحقیقه ئه وى رقى له
ملائکه ت، یا رسل، یا بعضه مه له کئ له بهر ئەو نه وعه عیله ته خۆش بوئ؛
صرف عدوى خودایه بۆیئ ئەفه رموئ.

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ هه ر که سیکی ببئ ﴿ وَجِبْرِيلَ ﴾

که لای وایئ مه بده ئی (شر) ه ﴿ وَمِيكَائِيلَ ﴾ با لاشی وایئ، که مه بده ئی
خیره . چونکی له و ئیمان ه دا، له و محبه ته دا عه ینی عداوه ته بۆ میکائیل، که
بیکه ن به شه ریکی خودا وا دهرئه که وئ، که ئەوانه وه ک (ئئوی) یان دوو
مه بده ئیان له لا هه یه: یه ک خالقى خیر، یه ک خالقى (شر).

له زه مانى (عبدالملك) مه لایئ لام وایه (شعبی) یه، به سه فاره ت چوو ه
استانبۆل، له پاش بعضئ گفتوگو، فه ضل و عیلمی لای امپراطۆر معلووم

بوو. گوتی:—

«تعجب نه کهم له عه ره ب پیاوی وه کو تو هه بی، به و هه موو علم و فضل
عبدالملکی بن مروان بکه نه خلیفه». مه لاش فه رموی: —
«ئهوت نه دیووه، وه الا منت ئه منده نه ده هاته پیش چاو». شعبی
که پرایه وه، جاسوسی (عبدالملک) پیشین خه بهری دا به (عبدالملک)، ئه و
گفتوگویی بو نقل کرد، که مه لا به حضوری خلیفه مشرف بوو،
(عبدالملک) گوتی:

«له و قسه که امپراطور به توی گوت، چ ده سیسه ییکی تی دایه، تی تی
که یشتی؟».

گوتی «تو بفه رموو بزنام چی تیا به؟»

گوتی «ئه و ملعونه به خیلی هات، که مه لایی وه کوتو له ناو ئیمه دا هه بی.
ئه و قسه ی بویی کرد، تا وه کو من، که بیستم له فه ورانی غضب بتکوژم.
ئه ما ئافه رین له تو، که جوابیکی چاکت دایه وه.»
که وابی ئه م نه وعه محبه ته عه نینی عداوه ته، هه زار ئافه رین له
(عبدالملک) ی، که صاحبی ئه و نه وعه نه کایه بووه، (سعدی) ش چاک
ئه فه رموی: (دشمن دانا به از نادان دوست) (۱).

﴿فَاِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (۹۸) قه ومیکی به و نه وعه حریص بی،
سه وقی بکا بو عداوه تی ئیلاهی و ملائکه ت و پیغه مبه ران، به هیچ نه وعی
ته مه ننای مردن ناکا، که سیکی به انصاف گوی له و ئایاتی سالفه رابگری،
تصدیق ئه کا که ئه حکامی نبوی هیچی ادعائی نی به، هه مووی ثابت و بیبه.
﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ (ببین بنفسه) یه واضح و
ئاشکرایه. ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُونَ﴾ (۹۹) انکاری ئه و ئایاتی بیناته ناکا،
الا که سی، که له نووری ادراک و شعور ده رچوو بی، له ظلماتی جهل و عناد،

(۱) دوژمنی هوشیار له دوستی نه زان باشته ره.

پوو چوو بی .

حقاً خطاباتی جنابی رسالہ تہ مووی لہ طریقیہ انصافہ، تعرضاتی شخصیهی تیدا نیہ، ہمووی احکامی ثابت و مقرر و مدللہ بہ دلالتی ٹاشکرا و واضح . کانہ (بین بنفسہ) یہ و لہ پیغہ وہش زاندر، کہ ئوان عہدیکیان کردبوو لہ گہل خودا، کہ پیغہ مبرئ بنیرئ ئوان ئیمانی پی بہینن و نہ صرہتی بدن، ئو عہدہیشیان شکاند، باز بہ طریقیکی منصفانہ ئہ فہرموی:

﴿ **أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ** ﴾ ئایا ئوہ ئہ بی ہر وہقتی عہدیکیان لہ گہل بکری، فرقہ بیگ لہ ئوان ئو عہدہ بشکینئ فرئی بدا . کانہ کہ سیگ ئہ لی: بہ لی ئوہ (دیدنی) آباو و اجدادیانہ، قہت انحرافی لی ئہ کہن؟ حاشا! .

﴿ **بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** ﴾ سابقاً معلوم بوو معامہ لہی بنی اسرائیلیان لہ حق ئو پیغہ مبرانہی خوین، کہ (بما لا تہوی انفسہم) ارسال بکرین، (کانہ) بو بہیانی فائدہی قیدی احترازی بہیانی حالیان ئہ کا، دہربارہی ئو پیغہ مبرہی لہ ئوان کہ موافق بی، لہ گہل فکری ئوان محضاً، بو تاییدی تہ ورات ناردرابن ئہ فہرموی:

﴿ **وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ** ﴾ رسولی حق و بہرحق لہ طرفہی حہ صرہتی حہق . ﴿ **مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ** ﴾ مؤید و ناصر بی بو تہ ورات یہک حکمی نسخ نہ کات .

﴿ **بَدَّ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ** ﴾ فہریقی لہ ئوانہی، کہ کتیبی معہودیان دراوہتی، کہ گویا حفظی ئہ حکامی بکن، ئوانیش دہر عہدہیان کردووہ و لایان وایہ ئو کتیبہ (لا یتغیرہ) ..

﴿ **كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ** ﴾ ئہی ہاویئہ پشت

خویانہ وہ، ہیچ گوئی نادنہی .

﴿كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (۱۰۱) کانہ ہیچ نازان، چی یان نہ بیستوہ، ہیچ عہدیان لئوہرنہ گیراوه؟ چ جای ئوہ، کہ ئیمان بہ پیغہ مبرہ کان بہینن .. له ئیمان بہ تہوراتیش دہرئہ چن . ئوہ فرقہ یہ له پاش زہمانی حہضرہتی سلیمان ظاہر بوون ، ئئلین دیارہ ئوہ نبوہتہ، گہمہ و گالتہ یہ .

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ دواى ئوہ نہیرہنگ و خزعبلات و عزامات و وفق و تہلہسماتہ کہوتن، کہ (مہرہدہ) و خہ بیثہکانیان ئہیانخویند لہسہر مولکی سلیمان . بہ درؤ و افترا ئہیانگوت: سلطہنہتی حہضرہتی سلیمان بہو عزائم و تہلہسماتہ بوو، بہو (خاتمی مطلسم) نائلئوہ عظمت و شکوہہ بووہ .
حقاً اعتمادی دہوامی مولک و توسعی فتوحات بہو نہوعہ چشتہ کفرہ، جہلہ بہ قواعد و (سننی) ئیلاہی . حہضرہتی سلیمان لہو جہالہتہ بہری یہ ..

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ سلیمان، کہ دہمین حوکمدارانئوہ قووت بووہ لہ ابتدای تاسیسی حکومہتی اسرائیلی، زؤر چاک ئہیزانی دہولت چؤن تشکل ئہکا، چؤن ادامہی ئہبی ..

﴿وَلَنِكَانَ الشَّيْطَانُ كَفَرُوا﴾ ئوہ جوہ کفرہ گرانہ لہ ئینسانئکی بہ شیطنت و زرنگ دوورہ، بہ لام فکری سیاسہت، یاعداوہت ئوہ نہوعہ کہسہی گہوج ئہکا، ئہوانہ ئہوہا پوویان لہ کتیب وەرگیئرا . ﴿يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ سحریان فیئری خہلق ئہکرد، تاکوو بہ جارئوہریان بگیئری لہ اسباب و علل و شرائطی حقیقی و زؤر نیزیکہ، کہ بہ خہلقیان گوتبی، موساش ئہوی ئہی کرد ہم سحر بوو ہم ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ ئوہ حقہبازی و شعبدہکاری یہ، کہ نازل بووہ سہر ئوہ دوو مہلہکہ، ئوہ دوو

پیاوہ باشہی وہک مہ لائکھت بی غل و غہش، یا ئو دوو شہ خصہی، کہ ﴿بَابِلَ هَرُوتَ وَمَرْوَتَ﴾ له بابل بوون، له ناو بابلیان محترم بوون، کلمہ یان نافذ بوو وہک پادشاہان . بوئی له بعضہ قرائتہ (ملکین) بہ کسری لام وارد بووہ ، ئو دوو شاہہ، یا ئو دوو ذاتہ مہ لہک سیمایہ، سحریان فیری خہلق کرد . وہ لازمیش ناکا له ہرجئی، کہ (انزل) بوو بہ طریقی نبووت بی، ئو دوو کلمہیہ، کہ ہاروت و ماروتہ له کلماتی بابلیہ، حاجتہ ناکا اشتقاقی تی دا بہ بیان بکہین .

﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ﴾ ئو دوو شہ خصہی فرشتہ سروشتہ، کہ سیان فیری سحر نہدہ کرد ﴿حَقِّ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾ ئہ یان گوت ئیمہ نازموودہی قلب و نقدین، وہک محہک بو تجربہ خہلق فیئر ئہ کہین .

﴿فَلَا تَكْفُرْ﴾ بہ طالبہ کہ یان ئہ گوت خوت کافر مہ کہ، خوت و ہرمہ گیرہ . ئہوی فیئر ئہ بی، له خیری صرف کہ . ئینسانیک کہ سعادتہی قہوم و میللہ تی خوی بووی، ئہ توانی بعضی اسبابی (شر) بکا بہ ئالہ تی خیر . وہک حہضرہ تی (کاک احمدی شیخ)، کہ ئو وفق و نوشتہ و دوعایہی محضاً بو خیری فقرا و مساکین دائہ نا . حتی ئہوانی گوللہ بہند و تیغ بہندیان ہل ئہ گرت، شہرطی له گہل ئہ کردن، کہ حتی جنیو نہدہن، چہ جای سیئاتی تر . بہ لام ئو نہوعہ ذاتہ زور نایابن، حقاً کہ بوون پی یان بلین (مہ لہک) .

ئہوجا لہ سہر ئو شہرط و پہیمانہ ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا﴾ ئہوی ئارہ زوویان بکردابوایہ لی یان فیئر ئہ بوون . ﴿مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ چشتی، کہ بہ ئہوی تفریقیان ئہ خستہ بہینی میرد و ژنی .

الآنیش نویشتہی ژن رہش کردن له بہر چاوی میردی له ناو ئیمہ و جوولہ کان دا ہہیہ . بہ یہ کیکی ئہ لین (یہ کساتہ)، کانہ وہک سم الساعہ زوو

تاثیر ئے کا، یہ کی تریشیان ہہیہ بؤ ہہوئی باران ئے یکہن، کہ لہ بہر چاوی میردی خوشہ ویست بیی، پیئی ئے لئین (کن فیکون)، کوردہ کان ئے لئین (کلفہ کون).

« خودا ئے یزانئی من ئے مانہ نازانم، ئے ماما لہیہ کی زور نیزیک و (موثوق بہ) ئے م مجملاتہم وەرگرتووہ ».

﴿ وَمَا هُمْ بِضَاكِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ئے وانہ زہرہر ناگہ بیینن بہ ئے وہی، کہ فیربوون بہ ہیچ کہس، الا بہ اذنی خودا نہ بیی، یا مقصد ئے مہیہ، کہ ئے م نویشتہ و چشتانہ ہیچنین، ئے وی زہرہر بگہ بیینی ہہر خودایہ . وہ یا خود ئے وانہ پیایوی باش بوون، معلوماتی خوئیان لہ جی بیی باش نہ بووایہ صرف نہ دہ کرد . کہ سی مستحق نہ بوایہ زہرہریان پی نائے گہ یاند . (اضراری مضریش) دیارہ خودا اذنی لہ سہرہ .

﴿ وَيَنْعَلُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ ئے گہر چاک ئے گہر خراب، بؤ ئے وان ہہر زہرہریوو، چونکی بہ اشتغال بہ و نہوعہ چشتہ لہ کارو کہ سب ئے بن .

طبیعی بہ یہک دوو ہیلکہی سہرقہ لہ مانہ گوزہران ناکنہ ئے بن بہ سوالکہر، لیڑہ و لہوئی ئے خولینہ وہ، بی قہدر و قیمت سفیل و سہرگردان ئے بن .

چہند سال لہ مہ و پیش، شہ خصیک ہاتہ (کوئی) لہ حضوری باو کم و شیخ عبدالکریم بہر زہنجی، گہ لئ چشتی عجایبات و غرایباتی کرد . حتی لہ من، چوار پولہ سؤرکہی سکہی عثمانی وەرگرت .. ہاویشتیہ ناو کاسہ بیی ئاو، دہسہ سرریکی بہ سہر دادا، نہختی پستہ پستی کرد . پولہ کانی ہینایہ دہرہ وہ، عیناً لیڑہ بوو زیڑری خالص و پاک، بہ تاریخ و طورہی شاہانہ !
من پیم گوت: مادام ئے مہ ئے زانی، بؤ ئے گہ پیئی بہم لباسہ شررو و نجرہ، لہ می و لہوئی ئے خولییہ وہ؟ ہہر وہقتی ئارہ زووت کرد یہک دوو پولہ کہ

سۆرکه بکه لییره و بۆخۆت زهریف گوزهران بکه .

گوتی: قوریان ئه وه (بۆفه، پووکه شه، مزخرفه) کهم وه قتی خۆی به لییره ئه نوینی، پاشدان ئاشکرا ئه بی. نیهایهت سه رم به هیلاک ئه چی .
دوایی لییره کانی هاویشته وه ناو کاسه که، بعضی ئه فسون و مه فسوونی پی دا خویند. هینایه وه دهر پوله سۆرکه کانی خۆم بوو. به سته زمانه به وه نهیرهنگی و شعبداته، بووبوه سه رسه ری و سوالکه ر.

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ به حه ققهت زاناندیان، معلومیان بوو ئه و طائفه له معلوماتی خۆیان، نه بۆ حه یاتی دنیا، نه بۆ قیامهت چ نصیبیان نه بوو.

﴿وَلَيْسَ مَا شَكَّرُوا بِهِءَ اَنْفُسَهُمْ﴾ چشتی زۆر خراب بوو، که نفسی خۆیان پی دا، خۆیان ضایع کرد، زۆر نزیک بوو به که سابهت، یا به اشتغال به علمی نافع بینه پی اوی دهوله مه ند، نواتی معتبر و خیرده ره وه . له سه ر ئه م حاله ته ش، هیشتا ئه وانه له (دجاله کانی) ئیمه چاکترن.
چه ندی له مه وپیش جه ماعه تیک له حقه - بازانی ئیرانی هاتنه (کوئی) له حه وش قه هوه خانه ی متصل به مزگه وتی گه وره، گه لی ئیشی سه یر سه یریان کرد. بانگی موسلمانانیا ن ئه کرد:

« ئه ی براده ران! پیمان هه لمه خه له تین، به خودا ئه وه گشتی پرپووچه . حه قیقهت نی یه . دیاره اربابی ئه و صنعه یه له کۆیه نین، ئه گه ر ئیمه له (تبریز) بواین له میژ بوو حیهل مان به دهر ئه کهوت .»

له سه ر ئه وراستی یه، گه لی ئافه رینم لی کردن. (مع انه) ئه گه ر به ناو شیخاتی به اتابونایه و ئه و عجابیات و غرابیاتانه یان بنواندا بوایه، گه لی کهس پی یان هه لئه خه له تان، ئه بوون به مریدیان، گه لی مالیان به ده ست ئه کهوت و به که مالی حورمهت ئه ژیان. جا چشتی زۆر خراب بوو.

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ئه گه ر بیان زانیبوایه علم و هۆشیکیان

هه بوايه، که رووی له و کاره پرپووچه وهر بگيرايه، پووین بکردبوايه سنن و قواعدی ئیلاهی ئه و فهرقه له زهمانی انحطاط پهیدا ئه بن، رووی میللهت له کار و که سب و تعلیم وهر ئه گيررن، خاصة علمی طب و فنونی عه سکه ری، جهنگ آوهری.

حتى ئه وهنده گيژ ئه بن، سه به بی شیئی نازانن، ئه چنه لای ئه و (کلی نانیانه) عه زیمه تیان بۆیکه ن، بلی ئه مه جنۆکه یان چوو ته ناو دهروون:
(اخرج بحق آهشراه . اخرج بحق سليمان، بحق قرنائیل و رفیمائیل) جا لی ئه ده ن: جنۆکان بلی، ناویان بینه: (سوژن، بوژن، تریانه، کوتک، ته به ق)

ناوه کانیان ئه نووسن، ئه یخه نه ناو ئاگره وه ئه ی سووتینن و جنۆکه کانیان ئه سووتین و، هه م وا اعتقاد ئه که ن ئه م ده ولت و سه لظه نه ت و حشمه تی موسلمانان، به سایه ی دوعا و هیممه ت و به ره که تی فلان پیری بووه . مه رقه دی فلان که س له فلان شارایه .. حفظی ئه کا چ حدی هه یه دوژمن نزیکي بکه وئ.

به ئه مری فلان که س توپ بۆ خوی چوو بۆ مه یدانى حه رب، له خۆیه وه گولله ی فری ئه دا، دوژمنی شکاندا! . که وایی چ احتیاجیمان هه یه به سوپا و فنونی حریبی .

وهک شیخ رهضا له مدحی (ناصرالدین شاه) دا ئه لئ:

از انجمنش سپاه فزونتر بود ولي

آنجا که حیدر است چ حاجت سپاهرا^(۱)

خۆزیا ئیمه ش به یه کی وهک (حیدر) هه لّخه له تابواین، ئه و جا له هه موو طه ره فه وه ئه و میلله ته نشست ئه کا، له هه موو طه ره ف دوژمن به سه ریان دا غالب ئه بی، سه لبی مولک و سه لظه نه تیان لی ئه کا . هه زار دوعا به پوولیک

(۱) - ئه گه رچی له شکر ی له ئه ستیره کان زیاتره، به لام که (حه یده ر) له وئ بیت پئویستی به له شکر چی یه؟
(ع . بیمار)

که لک ناگرئ.

﴿ **وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا**

يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ ئە گەر ئەوان ئیمانیاں بهیئابوایه به راستی به خودا، به کتیب اهتدایان پی بکردابوایه، خویان بیاراستابوایه، له م ده نائت و ره زاله ته، نائلی جه زای چاک ئە بوون له طه ره ف خودا و، جزای چاک له طه ره ف خودا چاکتره له دنیا و له (مافیها)، که سیکی ئینسان بی، ادنی علمیکی هه بی، چون ئەو خیره عظیمه له کیس خوی ئەدا.. (مثوبه) به ههنگوینیش ئەلین، جه نابی حهق له عه سه لی مصفی، جزای خیر مه ذاقمان شیرین بکا.

وقتاً که له ئیاتی سابقه معامله ی عنودانه ی بنی اسرائیلی له حهق حه ضره تی (موسی) معلوم بوو، جه نابی حهق موسلمانان له سلوکی پیگای ئاوی اخطار ئە فه رموی، نه آنکه به سوئی ادب، به جه ساره ت، ده رباره ی پیغه مبه ری خویان معامله بکه ن، به لکوو به چشتیکی، که موهمی سوء ادب بی، مواجهه هی حه ضره تی رساله ت نه که ن. ئە فه رموی:

﴿ **يَتَأْتِيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا** ﴾ مه لین ئە ی موسلمانینه، ئە ی ئەو که سانه ی، که به راستی ئیمانیاں هی ناوه، بیه به گوئی له مستی ئیمه، چیت عه رض ئە که یں و امان بووبکه. خوارقمان بو بنوینه.

﴿ **وَقُولُوا أَنْظِرْنَا** ﴾ بلین به چاوی عنایه ت ته ماشامان بکه، چی مه صلحه ت بی بو ئیمه، و امان تعلیم و تربیه بده، حتی ئە گەر له (راعنا) ش ئەو مه عنایه تان مقصود بی به ته عبیری لطیف، بی ایهام ته عبیری بده نه وه.

﴿ **وَأَسْمَعُوا** ﴾ ئیوه گوئی بده نه فرمایشتی نبوی، زه ریف تی بگه ن هه تا

پی بگه ن. ﴿ **وَاللَّكْفَرِيْنَ** ﴾ خاصه ئە وانه ی، که له پیگای ئیمان کافر ئە بن،

له پوو به حهق بزئنه بن ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿۱۰۴﴾ عه ذابى زؤر به ئيش هه يه .
 ﴿مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ حهز ناكهن ئه وانهى، كه
 كافر بوون له ئه هلى كتاب چ جووله كه، چ ديان .

﴿وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ هيج خير بيته
 سه ر ئيوه له طرف خوداى خوٲان، كه وابى زينهارا ئه مانه ت سه د ئه مانه ت! .
 لئيان ئه مين مه بن، حه سوودن، دوژمنن، پئيان هه لمه خه له تين ئه مئا .

﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿۱۰۵﴾

گوئيان مه ده نئى، كه ئه لئین ره حمه تى ئیلاهى خاصى شه عبى
 بنى اسرائیلیه، نبووه ت هه ر له ئه وان دا ئه بئى، چونكه خوداى تبارك و
 تعالى خاوه ندى انعام و احسانى گه وره يه، شامله بو هه موو عباد، ده رگاهى
 فضلى ئیلاهى به قسه ی ئه م و ئه و سد ناكرئ و، بالخاصة ناگاداربن له
 ملعنه تيان، كه ئيوه ش وه كى خوٲيان به داوى خوارق گرفتار بكه ن، تاكوو
 له فكر و نظر اعتبار، كه فیضیكى ئیلاهى به محروم بن .
 زئرا جه نابى كبرىائى قودره تى هه يه . ئه و عالهمه دائماً له زئیر په نجهى
 قودره تى ئه وه . بناءً علیه خودا ئه فه رموئ:

﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ هه ر ئايه تئى، هه ر خارقه يئى، كه ازاله ی
 بكه ين، يا به جارئكى له فكرى خه لئى ببه ينه وه، وه ك ئه و پئغه مبه رانه ی،
 كه ناو و نيشانه يان نه ماوه .

﴿نَاتٍ خَيْرٍ مِنْهَا﴾ له ئه وى چاكرت و عه جايب تر، ئه گه ر بزائين مه نفه عه تى
 هه يه، ئه به ئنين . ﴿أَوْ مِثْلَهَا﴾ يا اتيان به مثلى ئه كه ين . على الاقل،
 كه وابى وه كو (مجددى مصرى) ئه فه رموئ: مقصد له ئايه تى معجزه يه
 نه وه ك ئايه تى احكام . بوئى جه نابى حه ق ئه فه رموئ: ﴿الْمَ تَعَلَّمْ﴾ ئه ی
 طالبى رشاد ئايا تو نازانى؟

﴿ **أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ﴿۱۰۶﴾ ﴾ ہرچشتی بی معتاد و غیرہ معتاد، مادام
 له دائرہی امکان دابئی، مقدوری خودایہ . ئەمما ئەوی محالّ بی، قابلی بوون
 نیہ، ہەر کہسێ تجویزی ادنی محالیکی لاهەبی، ہدمی دینی اسلام ئەکا
 و، ناگای له خۆی نیہ .

ئەگەر مقصد له ئایەتی (حکم) بواہ، ئەیفەرموو: (الم تعلم ان الله عليم
 حکیم) یا چشتیکی ئەوہا، کہ مناسبی نسخی احکامی شرعیہبی، (حقیقە)
 ئیرہ جئی نہسخ نیہ، بۆیئ باز بہ تاکید ئەفہرموی:

﴿ **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** ﴿۱۰۷﴾ ﴾ کہوابی عادلی مطلق،
 مالک الملک علی الاطلاق له اتیان بہ خوارق عاجز نیہ و ئایاتی ئەو، کہ له
 مولکی سماوات و ئەرض دایہ، ئەگەر بہ فکر تەماشای بکەن، بہ ہزار
 دەرہجہ له فوقی خوارقہ .

﴿ **وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ** ﴿۱۰۷﴾ ﴾ بہ گیری خودا کہس
 صاحبی ئیوہ و نصیری ئیوہ نیہ . بناءً علیہ، ئەو مفسدانہ بہ خیرخواہی
 خۆتان مەزانن، وہ ئەگەر ئیوہ طلبی ئایات ئەکەن، مقصودتان چیہ؟
 اولاً ئیوہ وەکو بنی اسرائیلی نہبوونہ ژیر چەپەلۆک، ئەگەرچی له طرفی
 فارس، له طرفی رۆم استیلای سەر بعضیک له ئیوہ کردووہ، بەلام ئەوان
 بہ حورمەت ئەژین . وەکو اسرائیلییەکان مسخر نہکراون، کہوابی حاجەت
 نیہ ئیوہ بہ معجزہ نہجات بدەم، ئەگەر مقصودتان ہدایەتہ ئایاتی
 سماوات و ارض بۆ ئەہلی نظر و اعتبار کافیہ، بەلکوو اکفایہ، وہ ئیوہش
 زەکاییکی فطریتان ہییہ، بہ جبر و شددەتی اقوامی اجنبیہی غالبہ
 نہکوژاوتہوہ .

﴿ **أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ** ﴿۱۰۸﴾ ﴾ یا ئیوہش
 حەز ئەکەن، کہ سؤال له رەسولی خۆتان بکەن وەکو قەومی (موسی)، کہ
 سؤالیان له (موسی) ئەکرد، لیشتان معلوم بوو، کہ له نہتیجہی بہ غیری

قہ ساوہت چی تر نہ بوو بناءً علیہ:

﴿وَمَنْ يَتَّبِدْ أَلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾^{۱۰۸} ئەوی تبدیلی کفر بکا به ئیمان یہ عنی ئیمان، بدات و کفر وەرگرئ، یاخود لیباسی ئیمان له بهر کفر بکا و کفر به ئیمان بنوینئ، صہرفی نظری عالہم بکا له ئایاتی بیناتی ئیلاہی، پرویان بکاتہ خوارق العادہ، کہ وەکو بروسکە هەل ئەبئ و ئەکوژیتەوہ، نہ عامہ بو عالہم، نہ دائمی یہ ..

﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾^{۱۰۸} به حەققەت پئی پاستی گوم کردووہ، وە پئی به پئیگای پاست نابا و، ئەو تبدیل و گۆرینەوہ له ئیوہ دوورہ . ناتەن له سوورپەتی (فاتحہ) طلبتان کرد، کہ ہدایەتتان بدا ، بو پئیگای پاست . ئەو گرۆہہ له مشرکان، اولاً حەز ئەکەن ئیمان نہ ہینن، کہ یفیان بہ سعادتەتی ئیوہ نایئ، ئەگەر ئیمانیش بیین .

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا﴾^{۱۰۹} زۆر له ئەہلی کتاب، جوولەکہ و دیان ئارەزوو ئەکەن، ئیوہ بگێرنەوہ له پاش ئیمانتان، بتان کہنەوہ (کفار) ی مرتد، ئەوہیش دیارہ له بہر خیرخواہی ئیوہ نیہ، بہ لکوو ..

﴿حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾^{۱۱۰} لە بہر حەسادەتی، کہ نەشئەتی له نەفسی خویانەوہ کردووہ، ہیچ سەبەبی نیہ ئەو حەسادەت و بەدخواہی یہ، کانہ له ئەوان دا بوو تە چشتیکی فطری، وەکو شاعر ئەلئ:

نیش عقرب نہ از پرکین است

مقتضای طبیعتش این است^(۱)

﴿مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾^{۱۱۱} له پاش ئەوہ کہ حەق بو ئەوان تبینی کردووہ، کہ ئەم دینہ، ئەم کتیبہ ہیچ خەوشەتی تی دا نیہ، مع انہ کہ سئ

(۱) - نازاری چزووی دوپشک لە بہر قینداری نیہ، بہ لکوو سروشتی دوپشکە کہ ئەوہ ئەخوایئ کہ وایئ . (بیمار)

کہ حہقی بؤ ئاشکرا بوو، حہقی ئہ وہیہ، کہ قبولی بکا. ئہ وانہ فضل لہ قبولی، خہ لقی تریشی لئ و ہرئہ گیرن. ئہ گہر دہ سہ لاتیان ہہ بی. جنابی کبریائی مقصدی لہ اظہاری بغض و، حسادہ تی ئہ وان بؤ موسلمانان ئہ وہیہ، کہ خویان لہ شہریان پیارین، بہ دوستی ظاہری ئہ و نہوعہ دوژمنانہ ہہ ل نہ خہ لہ تین. ئہ مہما مستمع لہ حہق ئہ وانہ، کہ ہیچ و پوچ و خورایی ئہ و بہ دخواہی یہ یان لہ حہق ئہ کەن. غضبی دیتہ فوران، قصد ئہ کا ہجوومیان بکاتہ سہر، پارچہ پارچہ یان بکا، بؤی جہنابی حہق بؤ تہ سکینی غضبیان ئہ فہرموی:

﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ عہ فو بکہن، اعراض بینن، پروو و ہریگیرن. اشارہ بؤ بی مبالاتی لہ حہق ئہ و حہ سودانہ، بہ صہراحت نہیفہرموو (عنہم). ﴿حَقَّ يَا أَيُّهَا اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ ہہ تا خودای تعالی ئہ مری خوی دینی بؤ ئیوہ، ئہ وسا چؤنی فہرموو وا پرفتار بکہن. ئہ و ئہ مرہ (مجددی مصری) تہفسیری ئہ کاتہ وہ بہ (نصرہت)، بعضی بہ امری قتال. ئہ مہما تہفسیری بہ قیامہت و جزای قیامہت زور دوورہ، ئہ و اسرائیلیانہ ذاتاً لئ ناترسن.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿۱۱۹﴾ ظاہراً دوور بوو، کہ موسلمان لہ و ضعف و قیللہ تی تیدان بگہنہ دہرہ جہیی، کہ ئہ مریان بکریتی بہ قتال و نصرہت یان بدرئ لہ سہر ئہ و دوژمنانہ، بؤ اطمئنانی قلب ئہ فہرموی، خودای تبارک و تعالی اقتداری لہ سہر ہہ موو چشت ہہیہ. ئہ مپو پوژی (حرب) نییہ، پوژی ئہ وہیہ بہ خوتان مشغول بن، پابطہی اجتماع لہ بہینی خوتان تقویہ بکہن. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وہ ہہرچی چاک بی و منفعہ تی تی دا ہہ بی بیکہن.

﴿ وَمَا نَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ ہر جورہ خیر بی۔ ﴿ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ لای خودا ئہی بیننہوہ، لہ خودا جزای خوتان وەرئہ گرن ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ﴿ ۱۱۰ ﴾ ئہوی بیکن لای خودا بز نابی، ظاهر و باطن لای ئہو عہیانہ . ئہ گہر عہ بیکی ہہ بی لہ ئہو بز نابی، ئہوجا تی کوشن، اعمالتان بی غل و غش بی .

ذاتی بووہ لہ قدما صوفیہ، مشہور بووہ بہ (شیخی نساج)، جاوی دروست ئہ کردو ئہ یفرؤشت، گوزہ رانی پی ئہ کرد. جارئی بہ رادایی تۆپہ جاویکی بؤ شہ خصیک دروست کرد، لای وابوو زور بی عہیہ، شہ خصہ کہ تہ ماشای کرد، یہک دوو عہیہ لی دیتہوہ، عہرضی شیخی کرد، شیخ دہستی کرد بہ گریان .

شہ خصہ کہ گوتی: قوربان مہ گریی، پارہ کہ ئہ دہم و جاوہ کہ قبولئ ئہ کہم . فہرمووی: «بویئ ناگرم . بویئ ئہ گرییم تو لہ و تۆپہ با وجودی زور سہ عیم تیدا کردبوو کہ ہیچ عہییم لی نہ ئہ دیت، عہیبت دیتہوہ . جا خودا بہو علیم و بصیری یہ ئہ بی چہند ہزار عہیب لہ عملی من بدوزیتہوہ، کہ لای خوم زور بہ خالص و مخلصی ئہیکہم» .

﴿ وَقَالُوا ﴾ ئہ ہلی کتاب بؤ اغرا و اغوای عالم ﴿ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ﴾ ابدآ محالہ کہس داخلی بہ ہشت نابی . ﴿ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا ﴾ الا کہسی جوو بی یا دیان!! ئہ ہلی جہننہت لہ نظری ئہ ہلی کتاب، یہ کیکہ لہو دوو فرقہ:

﴿ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ﴾ ئہوہ ئہمہلی بی ماحصلہ، خہیالی خاوہ .

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿ ۱۱۱ ﴾ بفہرموو دہلیل و حجت و برہانیان بہینن لہ سہر ئہم دہعوایہ، ئہ گہر پاست ئہ کہن .

﴿ بَلَى ﴾ ئہو حصر و اختصاصہ باطلہ ﴿ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ﴾ ہر کہسی

پاک بکا ذاتی خوئی، به دماغ و قلب و روح نییهت بۆ خودا، پووی هر له ئه و بئ، ظاهر و باطن توجه نه کاته هیچ. شائبهی شرک له دلای نه مینئ ﴿لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ چاک بئ، اعمالی پیک و پیک بئ، ئه و کهسه ﴿فَلَهُۥٓ اَجْرُهُۥٓ عِنْدَ رَبِّهٖ﴾ جووله که بئ، دیان بئ، موسلمان بئ، غهیره بئ، هرچی بئ.. له هر شعبی بئ، بۆ ئه وه ئه جری خوئی لای خودای خوئی، خودا هر خودای بنی اسرائیلی نییه، به لکوو خودای هه موو عالمه .
 ناتهن له صدی کتابه وه افتتاح کرا به حمد و ثنای رب العالمین.

﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ خوف استیلایان ناکاته سه، عاجز نابن، ئه زانن ئه جریان به خو پایی ناچئ. ئه هلی کتاب.. دوو ادعایان هه یه، یه کئ چوونه به هه شتیان، بئ حق و حساب هر چوئی ببن، دوو م غهیری ئه وان (ولو) مؤمنیکی خالصاً مخلصاً لله بئ، ناچئته به هه شت.. یه عنی دخولی به هه شت بئ خوف و حزن، بۆ ئه و نه و عه که سانه یه، که مسلم و محسن بن، به ناوی جووله که یی و دیانی و موسلمان نییه .
 ئه و نه و عه مکارانه، اولاً جهه تی ترس نیشان ئه دهن، که پئ بیان هه لئه له تان، ئه و جا پئگای ترسانیان بۆ ئه که نه وه، پاش ئه و ادعای اجمالی یه، ئه و جا بزانی تفصیلی ده عوایان چۆنه .

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ جووله که ئه لئین دیان له سه هر هیچ نین، دینیان نییه، هه مووی اوهام و خیالاته، که و ابئ به هه شت خاصه ی ئیمه یه .

﴿وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ﴾ بالمقابله ئه لئین: ﴿لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ که و ابئ به هه شت خاصه ی ئیمه یه . ئه م قصه یه له و دوو طائفه یه زۆر عجاییه، ئه گهر که سئ جاهل بی کردابوایه، هر چوئی بوایه قهیدی نه بوو.. ئه ماما ئه وانه .

﴿وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ جووله که ته ورات، دیان انجیل، که سئ کتیبی خودا

بخوینی به تی گه یشتن، چۆن ئەم قصه پوپووچه ئەکا، بالخاصة (دیان) ئەگەر ته وراتیان به دهسته وه نه بی، ئەوان چیان هه یه له گوفتاری جهالت، آثاریان به دهر ئەکه وئ، ئەوانه جاهلن، علمیان به کتیبی خودا نی یه .

﴿كَذَلِكَ﴾ وه کو ئەو لاف و گه زافه ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ له سائری ملل .
 ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ قسه یی وه کو قسه ی ئەوان، حتی گه لی له موسلمانانیش ئەلین .. هه ر ئیمه (ناجین)، غه یری ئیمه هه موو فره قی اسلامی ئەچیتته ناگر، نه ته نها فره قی اعتقادیات، به لکوو اربابی طرق و مذاهبیش وا ئەلین .
 ئەگەر انصاف بکه ین، ئەو لاف و گه زافی له ناو ئیمه دا هه یه، باورپ ناکه م له ناو جووله که و دیانان دا هه بی، به لام ئەوانه قورئان خوین نین، اعتقاد به قسه ی رۆسای خوین ئەکه ن .

له کتیبیکی پافضی یانم دیت، که خودا ئەفه رموی « هه ر که سیکی (علی) خوش بوئ، تاعنانی ئاسمان گوناھی هه بی، من لی خوش ئەبم، ئەوی رقی له (علی) بییتته وه، ئەگەر مابینی ارض و ئاسمان چاکه ی هه بی، لی قبول ناکه م عه ذابی ئەده م» .

منیش نووسیم: ئەگەر حسنی معامله ی له گه ل خودا هه بوایه، ئەبوایه ئەویش له مطیع و محبانی خوا خوش بی، با رقیشی لیان بییتته وه! به لی ئینسان به قسه ی خوشکه له خوشکه له، هه ل ئەخه له تی . ئەو نه وعه خودپه سند و هه رزه گوایانه ئەبی جزایان چی بی؟ هه ر خودا ئەیزانی، به که س ناییتته به یان، بوئی ئەفه رموی:

﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿۱۱۳﴾ خودا حوکمیان له به یندا ئەکا له ئەوه ی، که اختلافیان تی دا هه یه، فصلی قضا، ده فعی نزاع، هه ر که س به جزای خو ی گه یاندن عاندی ئەوه .

وقتا که معلوم بوو تسویلاتی بنی اسرائیلی صرف بو ئەوه یه، که پووی

عالم له خدا وهرگيړرن. نه و عبادت گاهى، كه بو خدا بناكرايوو به صوهر و تماثيل و هياكل بيكه نه بتخانه، وه كوو مشركه كاني عهره ب. جه نايى حه ق بو اظهارى نه م ظلمه، نه م ته جاوز له حه قه نه فه رموى:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ كى ظالم تره له و كه سهى، كه مهنى مزگه وتانى خدا نه كا، كه ذكرى خوداى تى دا بكرى به خالص و مخلصى، بى شائبه ي شرک.

﴿وَسَعَى فِي خَرَابِهِنَّ﴾ كوشش بكا بو تيك داني نه و مزگه وتانه. ذاتاً تعميرى مزگه وت به طاعت و عبادته پوره دگارى عالمه، كه سكاني خالص و مخلصى تى دا نه ما، (ولو) بنه و باره گا و گونبه دى سهر بكيشيته قوبه ي فه له كى مينا پهنگ، هر به ويرانه حساب. دياره نه و نه وعه كه سانه تاكوو دليان به حبه بت و اصنام و تماثيل نه بوويته بتخانه، مزگه وتانيش ناكه نه بتخانه و سه عيش ناكه ن بو تيك داني دلى موسلمانان، كه تلويشى بكن به تماثيل. نه مپوش ته ماشاى مزگه وتان بكن نسبت به سائرى مواقعى عبادته، كثافت و بى رهنگى و بى نه يرهنگى توحيدى تى دا نه بينن، نه وانى تر به بتخانه، مسرحى تياترو، ملعبه ي ره قص و سه ما و چه پله ريزانه زياتر نه چن، به لكوو عينا (بيت الاصنام) ن غايه تى ناويان جودايه.

نه و نايه ته رابطه يه كى زور عه جيبه، بو نظمى ماقبلې له گه ل مابعدى.

﴿أُولَئِكَ﴾ نه وانى، كه سعى نه كهن بو تخريبي مساجدى نه هلى توحيد. ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ بو نه وانه نه بوو، كه بچنه ناو نه و مزگه وتانه، الا له گه ل ترس و خوف و خه شيه تى خودايى. حه قيان نه وه بوو بچنه ناو نه و مزگه وتانه به كمالى خضوع و خشوع، پووبكه نه جانبى ئيلاهى. به لام حبه صورته و اشكال، رابطى دليان به جهه ت پووى له خوداوه ندى بى جهه ت وهرگيړران.

﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ بۆ ئەوان ههیه له دنیا ئابرووچوون، (حقیقه) ئەوه ئابرووچوونیکى زۆر گه ورهیه . کهسێ له (میلیون) بئى خانهی ئیلاهی وهربگێرئى، تماثیلی کفر و ضلالی پێوه بکا .

﴿وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿۱۱۴﴾ که وایى بالعکس بۆ ئەوانه ی سعی بکه ن، دلی عباد و عبادەتگهانیان له پیسی پاک بکه نه وه، جزای خیریان نایته بهیان، (مع انه) ئەو مساجدانه ببن، یا نه بن چ نقص بۆ عظمتی پهروهردگار نییه .

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ بۆ خودایه هه موو ئەرز، ئەوروپا و ئاسیا، ئەمریکا و ئەفریقا، ئەوی عبادەتی خوا، بکا ئەتوانئ له هه موو جئیه ک بیکا . لای خودا په رست، قدسیهت بۆ جههت نییه . قدسیهت بۆ ئەو کهسه یه، که منزه له جههت، له هه موو جههت هه ر ئەوی پووی قلبی هه ر له ئەوه .

﴿فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ غایه تی له بهر بعضی مناسبه، بعضه جههتی انتخاب کردوه، که له صورتهی ظاهری عبادی خودا پووی تئ بکه ن، هه ر جئیی ئەمریان پئ بکا پووی ئەکه نئ، ئەمما پوویمان هه ر له خودایه .

﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿۱۱۵﴾ محصور نییه له مه کانیک، محدود نییه به جههتیک، محددی جهات و محددی محدد الجهات هه ر ئەوه . قودرته و علمی احاطه ی به هه موو چشت داوه، له سه ر ئەم تقدس و تنزهه، که جهنابی کبریائی هه یه تی، ئەو جاهله گومراهانه جهنابی کبریائیان له زومره ی نباتات و حیوانات حساب ئەکرد .

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ چ کورچ کچ، جههاله تیان گه یشتبووه دهره جهیه ک، فضل له جههتی گوررین به خه یالی فاسدی خویمان، حقیقه تی خودایان ئەگورری .

﴿سُبْحٰنَهُ﴾ جهنابی کبریائی منزهه، وهک له سووره ی اخلاص

ټه فرموي: نه كهسى لى به وولد بووه، نه له كهس به وولد بووه، كى يه له عالمى موجودات وولدې خودا بى؟

﴿بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ټه وي له ئاسمان و ټه رزدا بى، هه مووى مملوك و عه بدى خودان.

﴿كُلُّ لَّهُ قَانُونَ﴾ ټه مووى بو ټه و خاضع و ذليل و مسخر و بى دهسه لاته.

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مختري ئاسمان و ټه رزه، ئاسمان و ټه رزي بى وينه ايجاد كړدووه، يا خود بى نظيره له ئاسمان و ټه رز. كه و ابى كى ټه بېته وولدې خودا؟ ټه وي ټيوه ټه لىن وولدې خودايه، له (مبدعات) كه متره، دنيا مالاماله له اشباه و انظاريان.. امثالى خوتانن، ټيوهش و هكو ټه وانن، ټه وانيش و هكو ټيوه (زه مانى) ن و (مکانى) ن، اجرامن، اجسامن، محاطن، محدودن.

﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ كه انفاذى امرى بكا، حكمى بفرموي، له سهر آلات و ادوات معطل نابى، مجرد امرى تكوينى بى مباشره و، و هضغ و نسبت كافي يه بو بوونى.

هر چشتى، كه قصدى بكات ټه وچشته پووى مخالفه نى يه در عقب ټه بى، و هكو عه رضمان كردن ټه م ټه مره، ټه مرى تكوينى يه، ټه مرى تكليفى نى يه. ټه م و ټيرادهى تكوينى مخالفه نى يه، كهس له و شه ټنه دا شرکه تى له گه ل خودا نى يه، هه رچى بېته وجود به طريقى توالد، يا ابداع هه مووى به تكوينى خودايه.

قه دهر چى يه؟ .. احضار و ټاماده كړدنه بو بوون.

قه ضا چى يه؟ .. انفاذ و به جى هينانى چشته بالفعل، له قه دهر خو پاراستن ټه بى، ټه م ما له قه ضا نابى، ممكن نى يه.

روايهت كراوه، جه نابى رساله ت په ناه به ته ك مه غاره يى مائل به كه وتن

خیرا پڑی و تپہ پری، تا له ئاقاستی دەرچوو. عہرضیان کرد: تو له قہضای خودای فرار ئەکھی؟
 فہرموی: له قہضای خودا فرار ئەکھم بۆ لای قہدہری.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ گویا ئەوی تپہ پری قسە زانایەکانیان بوو، ئەوی نازانایەکانیان ئەیان گوت:

﴿ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ﴾ بۆچی خودا قسە لەگەڵ ئیمە ناکا؟ ظاهراً ئەوہش بە تحریک و دەسیسە زانایەکانیان بوو، وە الا عەوامی ھەر میللەتیک ھەبێ خۆی لە زمرە ی خواص حساب ناکا ﴿ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ﴾ یا قسەمان لەگەڵ بکا بە زەریفی بیناسین، یا خارق العادەیی و امان بۆبێ، کە ناچار ئیمان بەئینین، حاصلی، ادعایان کرد، کە علمیکى ضروریمان بێ بە خودا، وە الا ئیمان ناھینین.

﴿ كَذَلِكَ ﴾ وەکو ئەوہ لە جەھل و عناد.. ﴿ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ گوتیان ئەوانی پێش ئەوان ﴿ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ قسە یەك وەکو قسە ی ئەوان.

﴿ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ دلایان پیک ئەچێ، بۆی قسە ییشیان پیک ئەچێ. (حقیقە) ئەو قسە زۆر بێ مەعنا یە، ئەوی ئەو القاءاتە ی کردووہ، ئەگەر مقصودی اضلال و اغوا نہبێ، ئەزانێ ئەگەر خودای تعالی قسە لەگەڵ ھەموو کەس بکا.. نبووہت نامینێ (عیسی، موسی، ابراھیم) بۆچی یە؟ وە ئەیان زانی ئیمانی الجائی، ضروری قاعدە ی تکلیف تیک ئەدات. ئیمان ئەبێ ئینسان خۆی بە فکر و نظر پەیدای بکا! بۆ ئەو جەھتە ش:

﴿ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿ ۱۱۸ ﴾ له مەلە کوتی سماوات و ئەرز، ئایەتی (لا یعد ولا یحصی) مان داناوہ، لەسەر زویانی پیغەمبەران شەرح و ایضاحمان کردووہ، بۆ قەومیکى بزائن، لە حقایق بگەن بە زانین و تپگە یشتنیکى مەحکە م.

خوارق پڑوی، دەوری تپہری. نتیجہی معلوم بوو. زہمانی فکر و ہوشہ و، کہسی فکری ہبئ لہ ئایاتی انفس و اکوان، ہزار ہزار ئایاتی بؤ کہشف ئہبئ، کہ ہزار مہرتہ بہ لہ خوارق بہ فائدہ ترہ.

﴿ **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ** ﴾ ئیمہ تۆمان ناردووہ بہ علم، بہ فکر، بہ نظر سہوقی ئینسان بکہی بؤ کہشفی اسراری فیطرہت.

﴿ **بَشِيرًا وَنَذِيرًا** ﴾ بہ شارہت بدہی بؤ ئو کہسانہی، کہ بہ راستی ئیمان بہینن و چاکہ بکہن، دلّیان خوش بکہی. ئہوانہی کہ مزخرف و منافقن بیان ترسینی، حہقی تۆ ادای پسالہ تہ.

﴿ **وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ** ﴾ (۱۱۹) تۆ مسؤول نی لہ جہل و ضلالہت و کفری ئہوانہی، کہ خاوندی جحیم، پرفیقی ناگرن.

مہلایئ صہرفی قودرہتی خوی بکا بؤ تپگہ یاندنی فہقی. فہقی کہ تپنہگا، مہ لا چ قصوری ہہیہ؟ ئیشارہمان کرد، کہ قسہی ئو جاہلانہ بہ دەسیسہی مہلایہ کانیانہ، بویئ ئہوانہی لہ میانہ فری دا و فہرموی:

﴿ **وَلَنْ رَضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ** ﴾ خصوص (جہلہ)ی عہرب لہ قہید و بہندی قسہ لہ گہل کردنی خودا و ئایاتی ضروریہ دانین. ئہگہر قسہیہکی وابکہن بہ القاءاتی ئہہلی کتیبہ، ئہوانہ لہ تۆ راضی نابن، ہہتاوہکو تابعی دین و ئایینی ئہوان ئہبی.

﴿ **قُلْ** ﴾ تۆ بفہرموو، یا رسول اللہ ئیمانم ہہیہ بہ خودا، زۆر چاک برپوا ئہکہم ﴿ **إِنَّكَ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ** ﴾ ہدایہتی خودا ہہر ئو ہدایہتہ، من کہ سہر فیطرہتی ئیلاہی ماوم، دواہی ہہوا و ہہوہس نہکہوتووم. غہریزہ، حس، عقل کفایہت نادا، الہام و وحی ربانی پئیئہوی.

ئیمانم ہہیہ، کہ (موسی و عیسی) لہ پیغہمبہرانی خودان، ہیدایہتیان ئیلاہیہ. پاش ئہوہ کہ خودای تعالی کہشفی ئہحوالی ئیوہی بؤ کردم، لہ

شفاق و عناد و نفاق و حهسه دی ئیوه تی گیشتم .. تبعیه تی من بو ههوا و ههوهس و خیالات و ئه وهامی فاسدهی ئیوه محاله، له دائره ی امکان چووته دهر. و (مع هذا) ش خوی راساً ئه وه نافه رموی، تاخودا ئه فه رموی:

﴿وَلِئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ بالخاصة، وه هي (ولد) بو خودا ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ علم به خباتتی ئه وان و به سائری حقائقی اشیا، که له طرف خوداوه بو ت هاتوو ه .

﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (۱۳۰) یه عنی بالغرض و التقدير، ئه گهر تو اتباعی ههوا و ههوهسی ئه وان بکه ی، قطعی امل له خودا بکه . له طه ره ف خودا هیچ یار و یاوه رتنابی که له طه ره ف خوداوه یار و یاوه رت نه بی، هه ر نابی .

ئهمه حالی سه ودای اعظم له بنی اسرائیلی چ جوو، چ دیان . به لام بعضی هه بوون له بنی اسرائیلی، فکریان له سه ر حه ق (کانه) له گه ل ئه وان هه ریه ک نه بوون، بوئی بی عطف ئه فه رموی .

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ ئه وان ه ی، که ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ کتیبه که یان ئه خوینده وه، به حقی خویندنه وه که تامل و تدبر و تفکره، له مه عنا گه یشتنه . ره ش خوینی هیچ اعتباری پی نی یه . مقصد فه می مه عنا یه ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ ئه وان ه به راستی ئیمان به کتیبه که ئه هی نن، بوئی ئیمان به (ما انزل علیک) یش ئه هی نن، قطعی نظر له اشخاص ئه که ن، ئه زانن ده عوه تی تویش، وه کو ده عوه تی (عیسی و موسی)، حه ق ه .

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾ ئه وی کافر بیی به کتیبه که ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ (۱۳۱) به راستی ئه وان ه خه ساره تمه ندن، ئیمان به توش ناهینن .. یه عنی ئه وان ی که ئیمانیا ن به کتیبی تو نه هی ناوه، ئیمانیا ن به کتیبه که ی خویشیا ن نه هی ناوه . خاک به سه ر له هه ردوو دنیا بوون . خائب و خاسر، له هه ر دوو دین محروم

بوون . جہنابی حق خطاب لہ گہل ٹہوانہی، کہ ئیمانیاں بہ حہضرہتی
(محمد) ہیئا، فہرموی:

﴿يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَيِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۲۲﴾﴾

ٹہوانی کہ بہ عنوانی تہ شریف پیان بیئرئی (یا بنی اسرائیل) ٹہمانہن،
ٹہوی شایان بی، کہ تذکار بکری بہ نعمہتی ئیلاہی ٹہمانہن، ہرہوہکو
تفضیل دراون لہ طرف خودا بحق، ٹہوانہ، قبوولی ٹہم تشرفہیان کردوہ،
کہ ئیمانیاں ہیئاوہ بہ خاتم الرسل . عینا ٹہمریان ٹہکاتی و ٹہفہرموی:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ نہ کہن بہ دینی جدید ہہ لخہ لہ تیئ،
کہس لہ پوژی جہزا لہ فریادی کہس ناگا، نہ (ابراہیم)، نہ (موسی)، نہ
(عیسی)، نہ (محمد).

﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ ذاتا ٹیوہ لہ سہر فکری فدیہ نہ بوون و، لہ (دینی
مبین) یشدا فدیہ نییہ .

﴿وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ﴾ نفع نادا بہ ہیچ نہفس، ہیچ شفاعت، سابقاً
بہ یانی مسئلہی شفاعتہمان کرد، احتیاج بہ اعادہی ناکا .

﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (۱۲۳) ٹہوانہی، کہ بہ وخیالاتی باطلہ، ہہ لخہ لہ تاون،
نہصرہت نادرین، یار و یاوہری نا کرین، لہ خودا بہر گہشتہن، ہہر کہسی
خودایی بی لہ ٹہوان، بہرگہشتہ ٹہبی .

لہ و ئایہتی کریمہ بہ دہر ٹہکہوئی، کہ دہعوہتی محمدی، انذاری احمدی
بو دوست و دوژمن، مؤمن و کافر، موافق و منافق، ظاہراً و باطناً، سراً و
علناً، ہہر یہ کہہ فروفیل و خدشہی تیڈا نییہ (صلی اللہ علیہ و سلم و جزاہ
عن الرسالة حق الجزاء) سابقاً فریادی تظلمی موسلمانان لہ دہست ٹہو
ظالمانہی، کہ منعی مساجدی خودایان ٹہکرد، لہ ذکری خودا تیڈا کردن بو
گوئی ٹہہلی انصاف کرا ..

بعضیٰ لہ مؤمنی بنی اسرائیلی اجابہی دعوہ تیان کرد، کتلہ بیکی (مرکب) لہ اسرائیلی و اسماعیلی لہ ژیر رایہ تی ہدایہ تی محمدی گردبوونہ وہ بالاتفاق، ئەو مساجدانہ لہ چہنگ ئەو ظالمانہ نہجات بدہن. وہ اعظم و اہمی مساجدی ئەہلی توحید ئەو مزگہوتہ بوو، کہ لہ طرف حہضرہ تی ابراہیمہ وہ بنا کرابوو. حہضرہ تی ابراہیمیش مصدری (فرقتین) بوو ابی اعظمی اسرائیلی و اسماعیلی بوو. بوئی بہ تذکار بہ یانی حالی ابراہیم و کیفیہ تی بنای مسجد ئەفہرموی:

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾ کہ خودای ابراہیمی، ابراہیمی امتحان کرد ﴿بِكَلِمَاتٍ﴾ بہ چند احکامی، کہ شایان بی امتحان خلیل الرحمانی پی بکری، دیارہ اوامرہ بہ نینووک کردن، بہر تاشین، طہارہت کردن.. ئەو جوڑہ اموری تافہہ نییہ، تا لہ مہقامی ﴿فَأْتَمَّتْ﴾ تحسین و ئافہرینی ئیلاہی دہربارہی بگوتری - ئەگہرچی نظر بہ (قون نہ شوڑہ) کانی دیانان ہونہ ریکی تی دا ہہیہ - تہواوی کردن بہ مکملی بہ جی ہیئان و ہکو لہ امتحان دہرچوو، (کانہ) لہ مکافات ﴿قَالَ﴾ خودا فہرموی: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ ئەمن ئەتو ئەکەم بہ پیشہوا (مقتدی بہ الانام) ﴿قَالَ﴾ حہضرہ تی خلیل عہرضی جنابی باری کرد: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾ بعضی کیش لہ اولادو احفادم بکہ بہ امام و مقتدی بہی انام. ﴿قَالَ﴾ جہنابی باری فہرموی دوعات قبولہ، لکن ﴿لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿۱۲۴﴾ عہد و پہیمانی من ناگاتہ ظالمان، (کانہ) عہدی خودا خوئی (ابا) ئەکا لہ ظالمان، ئەمما بو ئەوانہی، کہ لہ اخلاق و تربیہ و آدابی پاکیزہی تو دہرنہچن، و ہکو تو عہد و پہیمان بہ جی بہینن، نائلی شہرفی امامت ئەبن.

ذاتاً حہضرہ تی ابراہیمیش ئەمہی مقصود بوو، ئەوانہی کہ ذریتی ئەون، مادی و معنوی اولادی ئەون، ئەوان نائلی عہدی خلافت ببن، لکن

بوخاتری نہ بی بہ بہانہ بو سفہایان، جنابی حہق تصریحی پی کرد .
 له پاش ئه وهی، که حه ضره تی (ابراهیم) نائلی شه ره فی امامه ت بوو،
 بالطبع جیگایه کی پی ئه ویست، که بیکا به مرکزی امامه تی خوئی، له هه موو
 قطعاتی دنیا جیگایه کی اختیار کرد بی زینب و زینه تی مدنی، بی تزویق و
 مزخرفاتی و ثنی، مجرد له هه موو آرایش و لذائذی دنیایی . زور نه چوو ئه و
 جیگایه بوو به مجتمعی ناس به نه وعی، که زور دوور بوو له خاطر و خیال،
 که محضاً به جعلیکی نیلاهی بی .

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ چونکی خه لقه که بو زیاره تی ئه و (بیت) ه
 ئه چن، مقره که یان هه ر بیته . ﴿وَأَمَّا﴾ اول چشتی، که جنابی کبریائی
 ئه مری به و خه لقه کرد .

﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلِّٖ﴾ له مقری امامه تی ابراهیم، جیگایه ک بو
 اقامه ی شعائری دینی دروست بکن، ئه وان مباشره یان به بنای مسجد الحرم
 کرد له دهوری بیت . ئه مما بنای نفسی بیت، در عهده ی حه ضره تی
 (ابراهیم) و جگه ر گوشه ی ئه و، که (اسماعیل) ه کرا .

﴿وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِیْلَ﴾ نه نفسی خویمان ﴿أَن طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّآئِفِیْنَ
 وَالْعٰكِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ﴾ (۱۲۵) ده رعه هده ی ابراهیم و اسماعیلمان کرد، که
 بهیتی من تطهیر بکن، پاک بکن له رسوم و نقوش و تماثیل و هیاکلی،
 که معابدی ئه هلی شرکی پی تلویث کرابوو، بوکی؟ بوئه وانه ی که دهوره ی
 ئه و بهیته ئه دهن، زیاره تی ئه کهن، له مزگه وت خویمان حیس ئه کهن،
 اعتکاف ئه کهن، ئه و گروه ی پاکع و ساجد، خاضع و خاشعن بو خودا،
 خلاصه وای پاک بکن که شایان بی پیی بلین «بیت الله» .

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ ئه و جی یه بگییره به شاریکی
 محفوظ له شه رری دوژمنی دنیا و دین .

﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ له عہدی سابق جنابی باری فہرموی: عہدی من ناگاتہ ظالمان، له دعای ئیرہ کہ حہضرہتی (ئیبراہیم) دعای پزق ئہکا بو ئہہلی شارہکہ، بہ نوعی اظہاری نفرہت له ظالمہکان ئہکا، کہ خودا ہیچ پزقیشیان نہداتی، بہ لکوو ئہم پزق و ثمراتہ خاص بی بو:

﴿مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ جہنابی حہق دعای قبول ئہکا، لاکن ئہفہرموی من ئہوانی، کہ بی ئیمان بن محرومیان ناکہم، لاکن ﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا﴾ منفعہتی کہمی پیئہگہیینم.. ذاتاً منفعہتی دنیا، ئہگہر زوریش بی کہمہ. ﴿ثُمَّ أَصْطَرُّهُ﴾ له قیامہت ﴿إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾ مادام ئہوان له دنیا بہ اختیار و مہیلی خویان، کفریان لہسہر ئیمان ترجیح کرد، پوویان له متابہعی تو و ہرگئیرا، من مجبوریان ئہکہم کہ بچن بو ناگر، چ پزگای تر نیہ بو کوئی ئہچن، (مع انہ) بدیہیہ کہس بہ مہیل و شہوقی خوی ناچی بو ناگر، ئہم ناگرہیش ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (۱۲۶) مصیر و ہکو له قاموس ئہلی بہ موضعی ئہلین، کہ له اطرافیہوہ ئاوی بو بگہرئی، بجیتی، (کانہ) ئہو جیگاہیہ حہمامیکی صیفیہ. ئہورویایی زور کہیفیان بہو نہوعہ حماماتی صیفی دی - خودای تعالیٰ حفظمان بکا لهو جیہ -

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ ئہوہی زور چاک یادبکہی حقاً جیگای اعتبارہ و ہقتیکی، کہ (ابراہیم) و (اسماعیل) بناغہی کہعبہیان له سہر ئہساسی شہرف و مجد و بلندیی دانا، بزانیان چییان ئہگوت بہ کمالی تضرع و، زاری عہرضی نیازیان ئہکرد له خزمہت باری.

﴿رَبَّنَا ثَبِّئْنَا بِهَذَا الْعَمَلِ﴾ خودایہ لییمان قبول بکہی، لییمان راضی بیی. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (۱۲۷) دعای ئیمہ ئہبیی، ناگاداری ما فی الضمیری

ئیمه ی ئاگات له هه موو چشت هه یه، هیچ چشت له تو بزر نابی.

﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ ﴾ ئە ی خودای ئیمه، ئیمه بگێرری به منقاد و

مطیع بو تو، له ذلله تی خضوع بو غهیری تو بمانپاریزی.

﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ﴾ وهه م پهیدا بکه ی له (ذریتی) ئیمه،

ئوممه تیکی منقاد بو تو و بهس.

﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ عبادات، یا مواقعی عباداتمان نشان بده ی رای العین،

به اتفاقی ئیمه و معتزله، ئەو نهوعه شه ریه ته، به خودا نه بی به کهس داناندی، حتی حه ضره تی (ابراهیم) و (اسماعیل)، به وه موو عه قل و درایه ته ی خو یان، له خو یان رانه دیت، که شه ریه ته ی پاک و خاوین و بی غلو غه شیان بو دانین.

﴿ وَتُبَّ عَلَيْنَا ﴾ دینی سووک و حه نیفمان بو دابن، نه که وینه ژیر باریکی

گران، دیاره ئەو مه قامه مه قامی طلبی دانانی شرعه، مه قامی گونا ه و په شیمانی له گونا نیه .

﴿ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (۱۲۸) تو دائماً (کره بعد کره) پووی لطف و

مه رحه مه ت ئە که یه عبادی خو ت، مقتضای ئەو لطف و مه رحه مه ته ئە وه یه، که تکالیفی زور و صعب له سه ر عبادی خو ت دانه نی، مه بادا تووشی گونا ه بین، زاته ن شرایی ئیلاهی هه مووی بو تعدیلی طبیعه ته. ئە گه ر قه ومیک خو یان گرانبار نه که ن، خودا باریان گران ناکا.

﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ پیغه مبه ری له خو یان بو خو یان بنیری.

ئەو پیغه مبه ره یس ﴿ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ﴾ ئایاتی تو یان به سه ردا بخوینیته وه، چ مکو ن، چ منزل، شه رح و ایضاحیان بو بکا، تی یان

بگه یینی. ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ﴾ ئەو کتیبه ی، که بو ی ئە نی ری، ئەو

احکامی، که تی دا هه یه، زه ریف بو یان به یان بکا، له اعتقادی و له

اعمالی، یا خود فییری نووسینیان بکا. (حقیقة) ئەوه زۆر مناسبی حالی ئوممه تیکی (امی) یه.

﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ حقایقی اشیاان تی بگه بیینی، آداب و اخلاقی فاضله یان فییر بکا. ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ ظاهر و باطنیان پاک بکاته وه، بی غل و غهش و فکری فساد بن. (حقیقة) ئەو دوغایه زۆر باشه بو مه لایان (به خصوصی). زۆر مه لاهن به علم و حکمهت ئەبن به جهربهزه، مفسد، عنود، ئەو علم و حکمهته بو ئەوان ئەبی به ئافهت. جاهلی، له و نه وعه مه لایه گه لی چاتره.

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (۱۲۹) حالی ئینسان له بهینی حضارهت و بداوهت، یه عنی شارستانی و لادییی زۆر سهیره. انسانی مدنی مه یلی علم و حکمهت و کتابه تی ئەبی، سه عی ئەکا، تی ئە کۆشی، که ببیته یهک له سه رامه دانی زه مان. ئەمما نفاق، شه یطه نهت، کبر و انانیت، اخلاقی زمیمه، اعمالی سیئه پووی تی ئەکا، ده وری لی ئەدا، زۆر نادر و نایابه انسانیکی دل خاوین له حضارهت هه ل بکه وئی.

(به ده ووی) لادییی، جهل و غباوهت و تی نه گه یشتن، نه فرهت له که سبی علم و کتابهت و حکمهت له سه ری زیاد ئەکا. له گه لی له کرمانجانم ئە بیست له ده وری سابق، ئە یان گوت، ئە وهنده ی له قه له م ئە ترسین، ئە وهنده له تفهنگ ناترسین.

حه ضره تی (ابراهیم)، که له مه یلی بنی (اسماعیل) ئاگادار بوو، دیتی زۆر که یفیان به به داوهت دی و سائری عربی (رحالة) له اطرافی (مکه) پوو چوو بوون له احوالی به داوهت، زۆر دووری زانی، که ئەو دوغایه قبوول بیی، بوئی له خاتمه ی دوغا عه رضی جه نابی کبریائی کرد: «یاربی، تو غالبی، قوو هتت به سه ره موو چشت دا هه یه. داناییکی وه ای که ئە توانی چشتی وادابمه زریینی، موقعیکی وای بو ببینی وه، که عه قل تییدا حه یرانه».

ئہ گہر حز ئہ کہی به تہواوی له سرری ئہو ئایہ تہ بگہی، تہ ماشای اوائلی سورہی (صف) بکہ، ئہوجا جہنابی حہق دوعای (ابراہیم) و (اسماعیل)ی قبول کرد. پیغہ مہرئیکی بہو نہوعہ محضاً له عزیزت و حکمہ تی خوی بو ئہو قہومہ نارد. ماوہ تہوہ قہوم استفادہ بکہن لهو مرشدہ عظیمہ، لهو دینہ پاک و خاویئہ.

بناءً علیہ، کہ سیکی بہ ہوش بی، ممکن نییہ ئیمان بہو پیغہ مہرہ نہینئ، ئہو دینہ خاویئ و پاکہ قبول نہکا، ئہ گہر کہ سیکی نہیکا، جئی (تعجبہ) ہیچ وجہی نییہ، الا سفاہت نہبی.

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ کئی مہیل ئہکا له میللہ تی (ابراہیم)،

صہرفی مہیلی خوی لی ئہکا؟ کہس. ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ الا کہ سیکی خوی خوی سفیہ بکا، نہفسی خوی له صلاحی دنیا و دین و ہر بیگری. حتی کہ سیکی (حقیقہ) سفیہ بی قابلہ اصلاح بکری، کہ کہمی تی گہ یاندرا مہیل ئہکا بو میللہ تی ابراہیم مہیلی لی ناکا، ئہمما ئہوی خوی کەر و ئہحمق بکا، علاجی ناکری بہ (جعل و تحمق)، بہ ملعنت و خباثت، پوی خوی لهو میللہ تہ پاکہ و ہرئہ گیری، و الحال حہضرہ تی ابراہیم.

﴿وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾ بہ حہققہت ئیمہ ئہومان اختیار کردبوو له

دونیا، بہہموو افعال و اقوال و اطواری ممتاز، پاک و خاویئ بوو.

﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ کہ وایی ئہی بنی اسرائیلی و

اسماعیلی! تی بکرن بہ تقلیدی آباء و اجدادی خوتان، خوتان گومراہ مہکن، پوو له حہق و ہرمہ گیری.

نابینن حہضرہ تی ابراہیم له دنیا له کئی پاش کہوتبوو ئہ گہر تقلیدی آباء ببیتہ بہانہ بو ئیوہ. حہضرہ تی ابراہیم ئہبواہ شوین آباءی خوی بکہوی.

فعلی هذا چون ئہبوو بہ پیغہ مہر، مختاری خودا، مہداری مفخرہ تی

فریقین، ئەگەرچی لە دنیا پاشەکەوتی صالحان نەبوو، بەلام لە قیامەت لە زومپەری صالحانە. ئیوەیش واین، علی العکس مەکن. لە دنیا اولادی صالحان بن لە قیامەت بچنە پێزی سەفیان.

(ولن ینفع الاصل من هاشم اذا كانت النفس من باهله)

وہجہی ئەم اصطفاہی دنیا و قیامەتی ابراہیم چییە؟

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ﴾ دەرھال، بئ توفف، بئ (ثم و في و او) ﴿قَالَ﴾

ئەفەرموی بئ قال.

﴿أَسَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٣١﴾ ذاتاً خوۆشی لە پێشەوہ لەگەڵ اسماعیل

ئەم دوعاہیان کرد و، خوداش دوعای قبوول کردن و، دوعاہشیان بو ئیوہ کرد.. ئەگەر ئیوہیش پاک و خاوین بن، ئەلین: (اسلمنا لرب العالمین). چەند جوانە لە طرف جەنابی کبریائی (رَبُّ) لە جوابی حەزرەتی ابراہیم (رب العالمین) ئیمەش لە (صدری) کتابەوہ گوتمان: (الحمد لله رب العالمین). ئەگەر لەو حەمد و ستایشە، راستگوو بین، لیرەیش منقادی امری (رب العالمین) ئەبین.

حەزرەتی ابراہیم ئەو استسلامەتی تەنھا بو خوۆی نەبوو ﴿وَوَصَّىٰ بِهَا

إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ﴾ هەموو اولادی خوۆی، نە تەنھا حەزرەتی ابراہیم ئەو

وہصیہتەتی فەرموو: ﴿وَيَعْقُوبُ﴾ ئەویش وہصیہتەتی لە اولادی خوۆی کرد، بە میلیتەتی ابراہیم فەرموی:

﴿يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ﴾ خودای تعالی اختیاری کردووہ بو ئیوہ

ئەم دینە پاکە، امتیازی لای خودا بە دینە، نە بە نەسەب.

﴿فَلَا تَمُونَنَ﴾ ئیوہ مەمرن لە هیچ حالان ﴿إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٣٢﴾

دەوام بکەن لەسەر ئەم دینە، پێی شکوک و شوبهە مەدەن، هیچ هەلمەخە لێتین، لە سەر مەرگیش ئاگاتان لە خۆتان بئ، لە خودا غافل مەبن.

گهلئ جار عه رضی موسلمانانم کردوو له وه عظم، که سئ له حه یاتی خوی سه عی بکا، ئیمانئکی کاملی بی غل و غه ش بهاویتته ناو دلئ خوی، له سوئی خاتمه ئه مینه حاصلئ که ئیمان بوو به (ملکه)، زه والئ نابئ، به لکوو له سه ره مه رگدا قوو ه تی زیاد ئه بی، ئه وی بیستوو تانه، که له سه ره مه رگدا کافر بووه، محقق له حالئ زنده گانی ئیمانئکی باشی نه بووه، به لام ناگاداری خوی کردوو، به به رزی ماوه ته وه، له هه نگامی مردن ئه وهوش و متانه ته ی نامینئ، که غل و غه شی خوی بیوشئ، کفری زه مانئ حه یاتی لئ ظاهر ئه بی، بویئ بعضیک له اولیاء ئه یان فه رموو: ئیمه له خاتمه ناترسین له اولی ئه ترسین، حتی گهلئک له انسان ئه بینین له وه قتی شینه یی مؤمنی باشه، موسلمانه، طاعت گوزاره، ئه مما که شیده تیکی هاته سه ر، مصیبه تیکی لئ قه وما، توورره ئه بی، هه زار کفریات ئه کا.

(توصیه) لیره به مه عنا عهد و په یمانه، صاحبی قاموس ئه فه رموی: «اوصیه و وصیه توصیه عهد الیه» وه ئه وه عهد و په یمانه ی حه ضره تی یعقوب، هه م له زه مانئ حه یاتی هه م له سه ره مه گی دا بوو به دزی نه بوو، ئاشکرا بوو.. مه یگوررن. ئه وه نده به حدی (تواتر) گه یشتبوو (انه) حاضری بالمجلس بوون. ﴿ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ﴾ کانه حاضری بالمجلس بوون ﴿ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾ که مردن نزیک بوو له حه ضره تی یعقوب ﴿ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ﴾ که به اولادی خوی فه رموو، بۆ وه رگرتنی عهد و میثاقی نهائی ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ﴾ کی ئه په رستن، دوا ی من؟ ﴿ قَالُوا ﴾ تیکررا ﴿ نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ ﴾ په رستشی خودای تو و خودای آبائی تو، که ابراهیم و اسماعیل و اسحاقن ئه که یین. فه رقی اسماعیل و اسحاق ناکه یین، ئه ویش له زومپه ی آباءه، ئه ویش جگه رگوشه ی (خلیل الله) یه، بنی اسماعیلیش وه کو خو مان حساب ئه که یین.

﴿إِلَٰهَا وَحِدًا﴾ عبادەتی خودایێکی تاک و تەنھا و بێ شریک و بێ نظیر ئەکەین ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿۱۳۳﴾ ئێمە بۆ ئەو خودایە، مطیع و منقاد و فرمانبەردارین، ئیمانمان بە تقلید نییە. لەو آیاتی بیناتە بە دەرتەکهوێ کە مایە سعادەتی (دارین)، سعادەتی (نشاتین) ئیمانی دروست و اعمالی صالحیە، (روح القدس)ی حەق، جەوهەری مجردی خەلاص، خولاصە ی ارشاد، حەقیقەتی هیدایەت، (فذلکە)ی کتبی سماوی مضمونی ئەو ئایەتە، کە ئەفەرموێ:

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ئەمانە، هەمووی تێپەری، پۆیی، خۆیان و اعمالیان و چاکە ی خۆیان تێپەری. ﴿لَهُمَا مَا كَسَبَتْ﴾ ماوەتەو ئەو ئێوہ ﴿وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ هەرکەس خۆی و عەمەلی. ﴿وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿۱۳۴﴾ ئێوہ سؤالتان لێ ناکرێ لە ئەو ی ئەوان کردوویانە، ئەگەر ئێوہ چاک نەبن، چاکە ی ئەوان کە لکی ئێوہ ناکرێ. هەر کەس سؤالی عەمەلی خۆی لێ ئەکرێ.

ئینسان تەجەب ئەکا لە حاڵی موسلمانان، چۆن لەم ئایەتە غافل بوون؟! ئەلێ ی اصلاً نەیان بیستوو، مع انه ئەبووایە، هەر موسلمانێ عالم و جاهل، عارف و عامی، سید و امی، عمری و حیدری، اشعری و جعفری، ئەو ئایەتە ی لە لوحە ی (خاطر) خۆی بنووسی، دائماً بیهینیتە بەر نظری تفکر و اعتبار.

نەکا پشت بەکەس ببەستی، بەذل و انکسار لەبەر دەستی کەسیک رابوہستی، ئومیدی نەجاتی بە ئەو و ئەم بی. خودائەیزانی ئەگەر موسلمانان ئەو ئایەتەیان بکردبوایە دستور العمل، نە لە دین، نە لە دنیا نشستیان نائەهینا. ئەو روحە، کە لە صدري اسلام چوو بەر بەدەنی موسلمانان، لە ناو دلایان قەراری گرت، حەیاتییکی پی‌دان، بە نەوعیک سەعی و اجتہادیان کرد، وا سەرکەوتن، کە بوونە سەر

تاجی امم، بہ لَام ئو پوحہ زوو دەرچوو، بہ لَکوو زوو دہریان چوواند .
 ہیکہلی ئوممہت، وکو بہدہنی بیروح (تفسخی) کرد، ئعضای لہ
 باریک ہاتہ دەرہوہ، پارچہ پارچہ بوو، بوونہ ژیر چہپہ لۆکی عالہم .
 واییش!!... عزیزہتی پاش ذیللہت چہند خۆشہ، ذیللہتی پاش عزیزہت
 - کہسی حسی ہہبی - چہند ناخۆشہ، لہ مردن تال ترہ!!

مع الأسف بعضیک مہلامان بوون، لہ ہەر ئایہتی روحی حہیاتی
 ئوممہتیان تی دا بدیتابوایہ، دہرحال زہرئیکی ہہلاہل، (قتال)یان
 ئہاویشتی، روحہ کہ نہدہما، ئایہتہ کہ وکو مقہببای بۆش ئہمایہوہ .
 ئوممہت مہحروم بوو، (حالاً) ییش کۆنہقسہی ئہوان لہ سہر زوبانی
 مہلایانی عہصری، دہوران ئہکا و بہ دل و گیان قبوولی ئہکا، خۆزیا
 ئوممہت، کہ ہہرہہ ل ئہخہلہتا بہ لطفی ئیلاہی، بہ شفاعتہتی نبوی خۆیان
 خۆش بکردابوایہ، بہ لَام اعتماد ئہدہنہ سہر بعضیک، کہ لہ (بہائم) بی
 ادراک ترن .

ہزار ہزار فرسہخ لہ ساحہی (قرب و قبول) دوورن، اصلاً دہرگہی
 شفاعت بو ئہوانہ ناگریتہوہ، چ جایی، کہ شفاعت بکہن پاش ئہو ئایاتی
 کریمہ، ئہبووایہ بنی اسرائیلی علی الاقل سکوت بکہن، کہمی خہجالہت
 بیانگری، لاکن قہساوہتی دلّیان، جہسارہتیان لہ سہر قسہی پروپوچ مانع
 بوو لہ تاثر، لہ خہجالہت و انفعال، باز لہ سہر جہہل و عنادی خۆیان،
 اصرار ئہکہن .

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ جوولہ کہ ئہلّی ببنہ جوو، دیان
 ئہلّی ببنہ دیان، ئہوسا ہیدایہتتان ئہبی، ریگا بہ مقصود ئہبہن، لہ
 عذاب نہجاتتان ئہبی، ئہچنہ بہہشت، حتی ئہو قسہیان بہ حہضرہتی
 رسالہتیش ئہگوت .

﴿قُلْ﴾ یا رسول اللہ لہ جوابیان دا بفہرموو: ﴿بَلْ مَلَأَ ابْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾

بہ لکوو ئیوہ تابعی میللہ تی ابراہیم بین، کہ من احیای ئہ کہ مہوہ،
 حہ ضرہ تی ابراہیم ذاتیک بوو راست، مستقیم الاطوار، دینی ئہو دینی بوو
 مائل بہ چاکہ، (متنفر) لہ خراپہ .

﴿ **وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** (۱۳۵) ﴾ خوی لہ مشرکان نہ بوو، میللہ تی لہ شائبہ ی
 شرک پاک بوو. (توحید) ئایینی ہموو پیغہ مہرانہ، ئیمان بہ نبوہت و
 شرک، لہ دلکدا گرد نابنہوہ .

یا بفہرموو: من تابعی میللہ تی ابراہیم لہ سہر پھوشتی ئہوم. چؤن ئہو
 پروی وەرگیرا لہ ادیانی باطلہ، منیش بہو نہوعہ پروم وەرگیرا، لہ
 ہموو دینی باطل، کہ وایی چؤن بجمہ جوولہ کہ، یا بجمہ دیان؟ کہ دینی
 جوولہ کہ یی و دیانی، سہراسہر (شرک) ہ و، بہ موسلمانہ کانیش ئہ فہرموی:

﴿ **قُولُواْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ** ﴾ ئیمانی خالص لہ شائبہ ی شرک دور. ﴿ **وَمَا اُنزِلَ**

﴿ **اِلَيْنَا** ﴾ قورئان، کہ بو ئیمہ ہاتووہ، ئیمہ یش چاک وہری ئہ گرین .

﴿ **وَمَا اُنزِلَ اِلَّا اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَاٰیْمٰنَ وَاٰسَاطِیْرَ** ﴾ اسباط لہ
 بنی اسرائیلی، یا بنی اسحاقی، وکو قبائلہ لہ بنی اسماعیلی. (سبط) یش بہ
 داریک ئہ لئین، کہ کہلی زوربی، ئہو شعبانہ (کانہ) وکو کہل و لقی داریکی
 کہ لہ یہک اصل بی. کہ وایی غرض لہ اسباط اولادی یعقوب نی یہ، زیرا،
 غیری یوسف، ئہوانی تر علی التحقیق، نہ بوونہ (نبی) فضل لہ رسول .

(حقیقہ) ئہو قہ ساوہ تی، کہ لہ حہق حہ ضرہ تی (یوسف) یان نوواند، زور
 دوری خستنہوہ لہ ساحہ ی نبوہت. ئہو قسہ یہش لای (مجددی) مصری و
 (سیدی آلوسی) قسہ ییکی مقبولہ، (حقیقہ) مقبولہ .

ہم ئیمانمان ہہ یہ بہ ﴿ **وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰی وَعِیْسٰی** ﴾ ئہو کتیبہ ی، کہ
 دراوہ تہ موسی و عیسی، نہ ئہو تہورات و انجیلہ محرّفہ و ہل بہ ستراوہ ی،
 کہ لہ دەست ئیوہ دا ہہ یہ . ئیمان بہ ئہوانہ کفری محضہ .

﴿وَمَا أَوْقَى النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ﴿﴾ ہم بہ ئه وهی، کہ دراوہتہ انبیایان لہ طہرہف خودای خویمان، لہ ہر قہومیک بین، لہ ہر شعبیک بین۔
 ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ ﴿﴾ تہ فرقہیان ناہاویینہ بہینئی، بلّیین، افکار و دعوہتیاں لہ یہک جودایہ، بہ لکوو ئیمانمان ہہیہ ہہ موویان یہک فکر و یہک مہ شرب دعوہتی خہلقیان کردوہ، بؤ خودایئکی بی شریک۔
 ﴿وَوَحْنٌ لَهُمْ مَسْلُومُونَ﴾ ﴿۱۳۶﴾ ﴿﴾ ئیمہ انقیاد و اطاعہمان ہر بؤ ئه وه، پیغہمبہرہکان بہ واسطہی ارشاد ئہ زانین، نہ وہک بہ شرکاء و ابنائی خودا - معاذ اللہ -

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ ﴿﴾ عظمای ئوممہت لیئرہ (مشوشن)، بہ عضیک ئہ لّین: کلمہی (مثل) (حقیقہ) لہ قورئانہ، ئہ ممما زائدہ، چونکی خودا مثلی نییہ۔
 بہ عضیک وا ئہ نوینن، کہ ئہ و کلیمہ ہر لہ قورئاندا نییہ۔ لہ قرائتہتی (ابیہ) «فان آمنو بالذی آمنتم بہ» یہ۔
 لہ قرائتہتی (ابن عباس) «فان آمنو بما آمنتم بہ» یہ۔
 بہ لام ئہم قسانہ ہیچنین، ہہ موو (صحابہ) کلمہی مثلین لیئرہ بہ قورئان قبول کردوہ، ئہ گہر ئہ مہ بہ (تواتر)، بہ تحقیق ثابت نہ بووایہ، کہ وا نازل بووہ چؤن ئہم کلیمہیان لیئرہ زیاد ئہ کرد۔ بہ عضی علمای محقق وہکو (زمخشہری) مہ عنایئکی لطیفی فہرموہ۔ ئہ لّی:
 «ئہ وه بؤ اسکات و الزامدانی جوولہ کہ و دیانانہ، یہ عنی ئہ گہر خودا مثلی ہہ بی، ئیوہ ئیمان بہ و (مثلہ) بہینن، ہدایہ تتان ئہ بی۔ خو معلومہ خودا بی مثلہ، ئیمان بہ چشتی نہ بوو، محالہ خصوص بؤ خودایہ تی۔ کہ وابی ئہ گہر مقصدیان ہدایہ ت بی، ئہ بی ئیمان بہ خودایئکی بی شریک و بی مثل و بی ولد بہینن»۔
 بہ لام لای من سرریکی لطیف تری تی دا ہہیہ .. چونکی ئہ و خودایہی، کہ

ئەوان ئیمانیاں پئ هیئابوو، ئەوەندە دوور بوو له مه قامی الوهییهت. حتی هیئابوو یانه زومرە ی حیواناتی، که توالد بکا بارئ، هیچ نه بیئ ئەو خودایه ی، که ئیمانیاں پئ هیئاوه، له م دهنائەت و دهناسه ته پاکی بکه نه وه، نوعاً ما قدسیه تیکی، که بتوانین بلین: به لئ ئەوه مناسبه ییکی له گه ل الوهییهت هه یه. وهک (بلاکفه) ی ئیمه ئەلین: جسمه له سه ر عه رش دانیشتوو، هه وراز و نشیو ئەکا، به لام ته نزیه ی ئەکه ن له لوازمی جسمیهت و دانیشتن و حرکه، چ نه بیئ ئەوانه ش با ئیمان به خودا بهینن، با لایان وابئ له جیهه ته و جسمه، به لام نه ی هیئنه ئەم دهنائەته و ئەم تطوراته، که به سه ر (پیشوله) و سائری حیواناتی محقره دا دئ. ئەگه ر به و جوړه ش ئیمان بهینن، نائلی هدایهت ئەبن. ئەمما حاشا به و مثله یش ئیمانیاں نی یه.

﴿وَإِنْ نُولُوا﴾ ئەگه ر اعراضیاں نا و به و جوړه ئیمانیاں نه هیئا ﴿فَأَنَّمَاهُمْ فِي

شِقَاقٍ﴾ پوو چون له عه داوهت و مخالفه بو عصیاں، چ معذره تیاں نی یه الا عنادی نه بیئ، ئە ی ره سول تو ئەهمیه تیاں مه ده یئ.

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ زۆر دوور نا پوا، خودا شه رری ئەوانه له سه ر تو ده فع ده کا، خودا کافی یه بو ده فعی شه رری ئەوان.

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (۱۳۷) هیچ چشت له ئەو بزر نابئ، هه ر که س به جزای عه مه لی خو ی ئەگا ئەو میلله تی ابراهیمی، که ئیمه قبوولمان کردوو، تابعی بووین.. ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ فیطره تیکی ئیلاهی یه، په رنگی بیئ نهیرهنگی یه، خودا واحده، هه رچی وه حده تیکی تییدا هه بیئ ئەوه په رنگیکی خودایی یه، توحید وه وظیفه ی عقله، تفریق وه وظیفه ی خه یال، بو یئ له زه مانئ استیلائی خه یال شرک له به شه ردا زۆر بوو به انواعی مختلفه، حتی هه ر نه وعه خو ش یه کی له به شه ردا بو بوا یه وه، (کذا) هه ر نا خو ش یه کی عمومی ظهوری بکرا بوا یه، خوداییکیان بو دانه نا. هه یکه لیکیان بو دروست ئەکرد. جهه تی وه حده تیاں نه ئەدیت، که بزانن قاعده ی خه لق و ایجادی (خیر و

شرّ یه که . هه تا بزنان واضعی ئه و قانونه ییش هه ریه که .

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ پهنگی کئی له پهنگی خودا چاکتره؟

﴿وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ (۱۳۸) ئیمه هه ربؤ ئه و مطیع و فهرمان بهردارین . حاصلی، پهنگی ئیمه بی پهنگی یه، (متلون) نابین، له پهنگی فیطری لانداین .

﴿قُلْ﴾ ئه ی بنی اسرائیلی! ﴿أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ﴾ ئه وه مجادله له گه ل ئیمه ئه کهن؟ ئه لئین خودا هه ر خودای ئیمه یه؟ فضلای هه ر له گه ل ئیمه یه؟ ئه لئین غه یری ئیمه باقی هه موو له خودا و فضلای خودا محرومن باوجودی:

﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ خودای ئیمه یه و خودای ئیوه یه له مواهبی فطری ئیوه، چ فضلان به سه ر ئیمه دا هه یه؟ ﴿وَلَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ ئه وه دیاره ئیمه چی ئه که یین و ئیوه ییش چی ئه که ن .

﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ (۱۳۹) ئه وا عه مه لمان دیاره، که خالصاً مخلصاً بؤ خودایه . ئیوه ش به انصاف ته ماشای عه مه لی خۆتان بکه ن، بزنان چه ند له اخلاص دورن .

که وایی به چ ده لیلیک، به چ حجه ت و بورهانیک، ادعای ئه و اختصاصه ئه کهن؟ خودای تعالی اختیاری ابراهیم و غه یری ابراهیمی له بهرچی کرد؟ ئه ی هه ر له بهر اخلاص نه بوو، له ذاتیان و له لایه ن ماهیه تی انسانی چ امتیازیان هه بوو؟

وه کو حکماء ئه فه رموون: نسبه تی هه موو عالم بؤ خودایه که، ئه بی خه لّق خۆی سه عی بکا، استعداد و لیاقه تی په یدا بکا، که ببیته مظهری (فیضی) ئیلاهی، له سه ر ئه و ئیمان و اخلاص و انقیاده ی، که هه مانه بۆچی ئیمه له فه یضی ئیلاهی محروم ببین؟ ئه وه محضا تحکمه، خودا ئه یزانی عه یینی ده عوای جووله که و دیانان هاته ناو موسلمانان، حاجه ت

ناکا من به تفصیل عه‌رضتان بکه‌م، خۆتان ته ماشا بکه‌ن، ئەحوالی خۆتان له‌گه‌ڵ ئەو ئایه‌ته‌ لی‌ک بده‌نه‌وه، ئەزانن چه‌ند دوور که‌وتونه‌وه له هیدایه‌تی قورئان. ئەو ئایه‌تانه له‌گه‌ڵ حدیثی (دار قطنی) «ان الله خلق الخلق فاختر منهم العرب الخ» لی‌ک بده‌نه‌وه، ئەزانن چه‌ند دوورن و مه‌علمتان ئەبێ، که ئەو فکره فکریکی اسراییلی‌یه، له ده‌عوایان ده‌رئه‌که‌وئێ خودای تبارک و تعالی (انه) به مه‌یلیکی فیطری قه‌ومیکی ئەوئێ و قه‌ومیکی ناوئێ؟!.

ئهی‌ واه!! چی‌یان به اسلامیه‌ت کرد، چۆن روحی قورئانیان برد. حقاً اسلامیه‌تیکی، ئینسان له قورئانی عظیم الشانی وه‌ربگرئێ له‌گه‌ڵ اسلامیه‌تی، که له (محدثان و نقالانی) ئەبێ، زۆر له یه‌ک جودان، فه‌رقیان ئاسمان و رێسمانه‌.

مع الأسف (صبغة الله) یان‌دا به نه‌یره‌نگی، به هه‌زار (لون) تفرقه‌یان هاویشه‌ به‌ینی عناصری ئیسلام.

﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا

هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ ئەو نه‌وعه قسه بێ‌مه‌عنايه له ناو (مليّون) ان ده‌رناچئێ، حتى به‌عضی‌ک پیاوی به هۆش و گۆش له موسلمانان بعضاً مجادله ئەکه‌ن ئەلین: پیغه‌مبه‌ر حنفی بووه، یا شافعی، قادری بووه، یا نقشبندی، حتى رافضی له ته‌فسیری آیه‌تی (وان من شيعته لابراهيم) ئەلین ئەو ضمیره بۆ (علی)‌یه. ابراهیم له شیععی (علی)‌یه، وه حکایه‌تیشی بۆ هه‌ڵ ئەبه‌ستن، ئەگه‌ر خودا که‌ره‌م بکا و بگه‌ینه ته‌فسیری ئەو ئایه‌ته، عه‌رض ئەکرئێ و حتى له که‌یدی ئەهلی (بدعه)، مه‌لای گه‌وره گه‌وره مشهور له ناو موسلمانان ئەیان‌که‌نه هه‌م مه‌ذهبه‌بی خۆیان، تا‌کوو ئەوانی که‌مه‌قله‌کان پێ‌یان هه‌لبخه‌له‌تین، بلین: مادام ئەو هه‌موو مه‌لاگه‌وره له سه‌ر ئەو مه‌ذهبه‌ بن دیاره حه‌قه. ئەمما ئەوی ئاگاداری قورئان بێ، ئەلئ: (تلك امة

قد خلت).

﴿ قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾ ئەو قسه گالتهی، زۆر گه وره ی تی دایه دهر حهق جووله که و دیانان. (کانه) له فضل و علم خصوصی به حقائق تاریخیه، له دهر جهی مخلوقات دهرچوون، که س نی یه معادله یان بکا، مه گهر خودا، ئەوجا که سی عالم بی، به تاریخ ئەفه رموی: « وهی ئافهرین » نه ماوه الا جهه تی تفضیل کامیان شاره زاترن؟!

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ کئ ظالم تره لهو که سه ی شاهدیکی له لابی و له خودای بزر بکا? ..

ئهمه وه رگێرانی (ما هو خلق الله) یه. صهر فی نظر له نبوهت، تاریخ چۆن ئەگۆرری؟ خصوص چشتی و ئاشکرا خودا ئەیزانی، عالهم ئەیزانی، ئەو ذواتی کرامه، گه لیک پیش عیسی و موسی بوون. میله تیان زۆر له پیش میله تی ئەوانه بوو. به لام ئەوانه له غایه تی حه ماقهت و جهالهت، هه موو چشت تحریف ئەکه ن، فضل له تاریخ، فضل له کتیبی ئیلاهی، که تحریف و تبدیلی ئەکه ن به اوهام و خه یالی فاسده ی خویان، تحریفی الوهییهت ئەکه ن، به لکوو تحریفی ذاتی مقدسی کبریائی ئەکه ن، ئەیکه نه (ابن و روح القدس)، ئەیکه ن به حیوانیکی صاحب ولد، ئەیکه ن به دهر ره یکی محقر، که به تطورات ببی به ئینسان، (سبحان الله) ئینسان ده هشهت ئەیگرئ، نازانی بلئ چی؟ عه ذابیان چی یه؟ ئەوه نده ئەلئ:

﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَفِیلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١٤٠) وقتاً که ئەم ئوممه ته جه ساره تی گه یشته ئەو دهر جه، دهر که وت ئەوانه له حیاتی عملی (منسلخن)، به لکوو له بشری، له حیوانی (مسخ) بوونه وه، وهک (به رده مردوو) یان لئ هاتوووه. اشاره بۆ ئەو گرۆه ئەفه رموی: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ﴾ رابوردن، مردن، به طمعی ژینیان مه بن، قابلی اصلاح نین.

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ ئیستا به خاطر تان دا نهیی، که ئەو قه و مه خبیته (واجب الازاله)ن، مانه وهی ئەوان موجبی مسؤلیه تی ئیمه یه .
 ﴿وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۱۴۱) له اعمالی خبیته ی ئەوان، ئیوه مسؤول نین .

بناءً علیه، ئەگه رچی ئەو ئایه ته عبارۀ مکرره، لاکن نظر به موقع له مه عنادا فه رقیان هه یه و، جهه تی اخطار و ایقاضیان جودایه .
 با وجودی ئەو ئایه ته تاتکرار بکری، له نظری ئینسانی هۆشمه ند، قیমে تی زیاد ئەبی . حتی من ئاره زومه، قودره تم بوایه به زوبانی خۆش، به گوفتاری ئاودار، له ئاده م تا به خاته م، له خاته م تا ئەمپۆ، فه صلّ فه صلّ مجملًا احوالی (امم) بیهینمه قه له م، له پاش کلی فه صلّ، وهک (ترجیع بندی) - سعدی - ئەو ئایه تی کریمه بنووسم، هیشتا لام وایه حه قی ئەو ئایه ته ته و او نابی .

* * * *

ته فسیری جزئی اول بحمد الله تعالی خلاص بوو، پچائنه کهم به چاوی انصاف ته ماشای بکه ن . مه فه رموون ئەو ته فسیره مخالفی (تفاسیر) هکانی تره، چونکی من له سه ر نه ظمی قورئان ته فسیرم ده رعه هده کرد، حقاً ئەوه یش زۆر گرانه، امدادی ئیلاهی پیئئوه ی، چونکی ته رتیبی قورئان مخالفی نه ظمی (وضعی) له گه لّ (نظمی طبیعی)، زۆر له یه ک دوورن .
 حتی ئینسان له گه لّیک جی ئەبی بالکلیه دووری بکاته وه له سه به بی نزول، وه الا هۆندنه وهی حاضری بو ه لّ ناستی . له پاش امدادی ئیلاهی، له گه لّیک جی زۆرم مشه قهت خواردوه، تا مناسبه ی ئایه ته کانم بو به ده رکه وتوووه . له سه ر ئەوه یش قصورم زۆره، پچای عفو ئەکه م، چونکی له پیش خۆم چ ته فسیرم نه دیتوووه، که به ته وای له سه ر نه ظمی قورئان تالیف کرابی .

(مجددی مصری) قصوری نهفه رموو، به لام ئه ویش له گه لیک جی کۆلی داوه، فقط هه زار رحمه تی لی بیی ده رگه ییکی چاکی کرده وه. به تهفسیره کوردی به که ی من مه لین (کوردی به و خو کردی به) - والاجر من الله الکریم -

(ئه صلی) مسوده رۆژی دووشه مو، نیژیک عصر (۳) ی ذی الحجة مطابقی شهشی مانگی مارتی رومی، ۱۳۵۲ هجری قمری. (ته مین) ی ۳ محرم پوژی سی شه مو بعد الظهر موافقی چواری نیسانی رومی ۱۳۵۳ هجری قمری ته واو بوو.

وهقتاکی له ئایاتی سابقه به یان کرا، که کعبة البيت الحرام بناکرده ی حه زره تی خلیل و اسماعيله، قبيله ی (انام) بووه بالخاصة (حنفا) که ئه و موسلمانانه ئیدیعاً ئه که ن، ئیمه له سه ر میلله تی ئیبراهیمین، به په رنگی حنفی فیطری، خو یان په نگ کردوو.

واردی خاطر ی نه زانان ئه بی به وهجه ی مناقضه، بلین: «ئه دی بوچی ئه وانه پوو یان له کعبه وه رگی راره، له اووه ل تا ئه مرۆ پوو یان کردۆته بیت المقدس، دیاره دو عایان باطله، له مه قامی ابراهیمی، اتخا ذی مصلا یان نه کردوو؟». «

جه نابی حق بو احضاری جه و اب، پیش وقوعی سؤال ئه فه رموی:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ (ظاهراً) عامه له بنی اسرائیلی و عه ره ب، هه تا ممکنه، که ئه وی ضعیف العقل بی له موسلمانانیش ئه و قسه ی بیته دل بلین: «ئه و میلله تی ابراهیمی به، ئه گه ر پاست ئه که ن له ده عوای سابقیان ئه دی؟»

﴿مَا وَلَّيْنَاهُم مِّن قَبْلِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا عَلَيْهَا﴾ چی ئه وانی وه رگی راره له قبيله ی خو یان؟ که (حنفا) له ده وری ابراهیم، تا ئه مرۆ پوو یان تی کردوو، وه له سه ری بوون وه کو له پیشه وه، که جه نابی (نبوی) اظهاری تظلمی کرد له

حهق ئهوانهئى، كه مهنعى ساجدى ئيلاهيان ئهكرد، كه زيكرى خوداى تىدا بكرئى، آن جمله اعظمى مساجد، كه بيتالحرامه، كرا بووه (بيت الاصنام)، بالكليه له طهارهتى حنفى دور كر ابووه، ﴿قُلْ﴾ ليّرهيش بفرموو: ﴿لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ مشرق و مغرب بو خودايه، ئيمه پرومان له جيههت نيه، پرومان له خاليقى جيههته.

﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿١٤٤﴾ خوداى تعالى، ههركهسى حهزى له ريگاي راست بئى، هيدايهتى ئهدا بو ريگاي راست پئى نيشان ئهدا، وه ذاتاً ئيمه له صدرى قورئانى مجيد پارينه وه له بهر خوا، كه ريگايهكى راستمان نيشان بدات. وه له اوهلى سوپهت، وه عدمان له خودا وه رگرت، كه ريگاي راستمان نيشان ئهدا. وه ليّرهيش ئهفرمووئى ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا﴾ من ئيوهم گييراوه به ئوممه تيكي معتدل، سالكي ريگايهكى راست و مستهوى ﴿لِيَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلٰى النَّاسِ﴾ به عههلى چاكه، به تهسليم بوون بو خودا، به پهنگى بئى نهيرهنگى ببنه شاهد له سهر عالم، كه دينهكه تان ههقه، خو تان ههق په رستن، راست بوون، راست په و يا خود راست بو، بوو له جيههت نين. ﴿وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ﴾ فهردى (اكمل) له گروهى (رسل) ﴿عَلَيْكُمْ شَهِدًا﴾ ناگادار و مطلعى ئهحوالى ئيوهئى ظاهرى و نيهانى.

له پاش ئه و مقدمه يه تصريح به جهواب ئهفرموئى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ تا ئه مرؤ كه بيت المقدسه ﴿اِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ الا بو خاترى ئه وهئى، كه بزائين، تهفريق بكهين ﴿مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ﴾ له ئه و كه سهئى كه ﴿يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقْبَيْهِ﴾ ئه گه ريته وه پاشه وه، ته به عئى يهتى پيغه مبه ر ناكا،

ئێوه بزائن هه ر دینئ، مه زهه ب و حیزبئ، که له او له وه (تشکّل) بکا، لازمه مدیر و په ئیسی ئه و حیزبه ئاگادار بئ، ئینسانی (مُذَبَذَب)، بئ مه بدها و (مسلك)، داخیلی زومره ی ئه و نه بئ، ئه وه یش به امتحان ده رئه که وئ، ته کلیفیکی بکا، که ساغله م و چرووک ئاشکرا ببئ.

له سه دری ئیسلام دوو سه به ب هه بوو، که ره سولی کبریا پووی نه ئه کرده کعبه . یه کئ: ئه وه امتحانه . ئه گه ر له ئه وه له وه پووی له کعبه بگردابوایه، گه لئ له منافقی عه ره ب موافقه یان ئه کرد، چونکی پوو له کعبه کردنیان پئ خووش بوو، پرر بوو له بت و اصنام، ئه و وه قته له ئه وه له وه ئیشه که له موسلمانان تیک ئه چوو، ئه م ما که پووی کرده (بیت المقدس)، ئه و نه وعه لایان گران بوو، پوو یان تئ نه کرد.

دووه م: وه ک ئیشاره مان بو کرد، کعبه له سه ر طهاره تی زه مانئ ابراهیمی نه ما بو، (بیت الله) نه بوو ئه و وه قته به لکوو (بیت اللات)^(۱) بوو، اصلاً قابل نه بوو، که جه نابی رساله ت پووی تئ بکا، ئه گه ر که سه ی بلئ: جه نابی رساله ت ئه و وه قتی له (مکه) بوو، کعبه ی ئه هاویشته به ینی خوی و بیت المقدس . قه ت .. قه ت برروا مه که (وَلَوْ) ئه و که سه (حَبْر الْأُمّة) و ترجمانی قورئانیش بئ، چشتئ، که مه عنای نه بئ، صحه تی سه نه دی بئ قیمه ته، ئه و فه رق و ته مییزه ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾ با زوریش گران بئ ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ ذاتاً ئه گه ر امتحان به چشتیکی زور گران نه بئ، ته زویری (حیالان) به ده رناکه وئ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَانِكُمْ﴾ خودا ئیمانئ ئیوه به ضایع نابا، ئه مرتان بکاتئ پوو بکه نه (بیت الاصنام) امتحانیکتان بو دانه نئ، که پاک و پیس له یه ک جودا ببیته وه، حاشا خودا ئه و اضاعه یه ناکا .

(۱) - لات: ناوی یه کئ له به ته کانی عه ره ب بوو.

﴿ **إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ** ۱۴۳ ﴾ له کہ مالی (رافت) و پرحمہ تی
 ئوہ، کہ دینی پاک و پاکیزہ یان بؤ دابئی و، نہ ہی لئی غل و غہشی تی کہ ل
 بی، بہ لام شہرت ئوہ یہ خہلق خوی له و پرحمہ تہ بی پایانہ محروم نہ کا،
 رسولی ئہ کرہم بالطبع ئارہ زووی ہہ بوو، کہ پروو بکاتہ کعبہ و ئایاتی
 سابقہ شہوقی رسالہ ت پہناہی زیاد ئہ کرد، بہ لام ئارہ زووی وابوو یہ کہ م:
 کعبہ پاک بکاتہ وہ، بیباتہ وہ سہر پرفعتہ و طہارہ تی اوہ لی، ئہ و جا اتخادی
 بکا بہ قبیلہ، بؤیئی دائماً پرووی نیازی له دہرگاہی بی نیازی بوو، کہ موفقی
 بکا کعبہ له شائبہی (شرک) نہ جات بدات، خودایش ئہ فہرموی:

﴿ **قَدْ زَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ** ۱۴۴ ﴾ ئیمہ ئہ بینین، ئہ یزانین پروو کردنت بؤ
 تہرہ فی ئاسمان، کہ قبیلہی دوعایہ نیازی تو پیک ئہ بینین، دوعات قہ بوول
 ئہ کہین. ﴿ **فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا** ۱۴۵ ﴾ پروت ئہ خہینہ قبیلہ یہ کی، کہ لات
 خوش بی، دلّت له سہری پابوہ ستی، ئہم لاو ئہ و لای بؤ نہ نوپی ﴿ **فَوَلِّ**
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۱۴۶ ﴾ پروویکہ جہت و ناحیہ و تہرہ فی
 مسجد الحرام، ئہ و مزگوتہ، کہ له تہرہ فی (بیت) ہ، ئیستایش نافہرموی
 (بیت)، زیرا «چونکہ» حالاً پاک نہ کراوہ تہ وہ، اما جنابی حق، کہ اعلم و
 احکم الحاکمینہ، قہراری وادا له ئہ وہ لہ وہ له نوپڑ و عبادت پروویکہ نہ ئہ و
 جہت، تا وہ کو ئہ و پروتی کردنہ بیٹہ پروتی کردنیکی نہ جات دان بؤ
 (بیت)، کہ له و خصوصہ وہ زیاتر اہتمام ئہ کہن بؤ فہ تی (مکہ)،
 ئہ گہرچی ئوممہت بالطبع تابعی حہزہ تی رسالہ تن، پروو له ہر جی یہ ک
 بکا، پرووی تی ئہ کہن، بہ لام لہ سہر کہ مالی عنایہت و توجہی استقلالی
 ئوممہت راساً، ئہ مریان^(۱) پی ئہ کا بہ ﴿ **وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوْهُكُمْ** ۱۴۷ ﴾ وہ
 ئیوہ ئہی موسلمانینہ! له ہر جی یہ ک بین پروویکہ نہ ﴿ **شَطْرَةَ** ۱۴۸ ﴾ ناحیہی

(۱) - له اولہ وہ خطاب لہ گہ ل پیغمبر بو، لیرہ لہ گہ ل ہموو مسلمانانہ (و حیثما کنتم ..)

مسجد الحرام ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ له جوله که و دیان، ئەگەر خۆیان نهگۆین ﴿لَيَعْلَمُونَ﴾ به پراستی ئەزانن، که ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ئەو تحویل و تهوجیهه، حهقیکی مقرر و ثابتە له طهرف خودای ئەوان، ئەگەر ئەوانیش به پراستی ئیمانیان به خودای خۆیان بهینابوایه، معارضه و مجادلهیان نه ئەکرد، به لککو متابعهیان ئەکرد ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ خودای تهبارهک وه تعالی غافل نیه له ئەوهی، که ئەیکه ن ادنی ملبسهییکی له گهڵ غهفلەت نییه، با وجودی ئەم حهقه صریحه، که به تهواوی ئەیزانن ﴿وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ له ههردوو طائفه جوو و دیان ﴿بِكُلِّ آيَةٍ﴾ به هه موو آیه تو حوجهتی قطعی بی شکو مریه ﴿مَا تَعْبُوهَا قِبَلَتَكَ﴾ تابعی قبیلهی تۆنابن پرووی تێناکهن، (لاشک) ئەوانه ن، که پروو چوون له بغضو عداوتهی پیغه مبهه، سهعی ئەکه ن بۆ ابطالی ئەو دینه پا که . وه ئەمرویش ئەم نهوعه گرۆهه له فهعاليهت دان، تنفیری عاله م ئەکه ن که متابعهی حضرتهی رهسول ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ﴾ ئەوه معلومه، محاله، که تۆ پروو بکه یته قبیلهی ئەوان، خاصه مشرق و مغرب، که قبیلهی مشرک و پوژ په رستانه .

ئەو سالا^(١) که له بهغدا بووم شهخصیکی هیندۆسی (طاوس) ناو لهو ئوتیله بوو، که منی تێدا بووم، ئەویش له حوجرهیهکی دابوو زۆر ترددی لای منی ئەکرد، له دینی خۆی پیاوی باش بوو، رقیق القلب بوو، ئەمدی ئیواره و سبهینه پروو له مشرق و مغرب، خهریکی عبادت بوو، کتیبییکی ئەخوینده وه، که له لایان کتیبییکی (سماوی) بوو، پوژئی پئییم گوت: «تۆ بۆ پروو ئەکه یته مشرق و مغرب له وهقتی عبادت؟ گوتی ئیمه پوژ ناپه رهستین، به لام له وهقتی هه لاتن و ئاوابوون پرووی تێئه کهین، تا وه کوو شاهدیمان بۆ بدا له خزمهت خودا. گوتم: عجا ئیوه به چی ئەزانن؟ پوژ

(١) - ١٩٢٤ م

عیلمی ھیہ؟ ناگاداری حالی ئیوہیہ؟ سہنہدتان لیوہرگرتووہ، کہ ئہدای شہادہت لہ خزمہت خودا بکا، و ئہگہر ئہدای شہادہتی نہکرد، عجبا خودا نازانی، کہ ئیوہ عیبادہتی ئہو ئہکەن؟ کہ وامپیگوت تہماشای کردم ئاوی لہ چا و ہات، گوتی: چی بکەن وایان پیگوتووین...

روایہتیش ئہکەن یہکیک لہ رھبانان، پاش (رہفعی) عیسی، گوتی: من بہ خزمہت عیسی گہیشتم فہرمووی: من پوژم زور خوش ئہوی، ہہموو پوژ بہ شعاعی خوئی سہلامی من تبلیغی سکانی ئہرز ئہکا، بوہہ دیانان مشرقیان کردہ قبیلہ. سہیری دەسیسہی ئہو نہوعہ مہلایانہ و، حہماقہتی ئہو نہوعہ ئوممہتہ!

﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ نہ جولہکە تابعی قبیلہی دیانان ئہبن، نہ دیان تابعی قبیلہی جولہکان ئہبن. ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ بالغرض و التقدير، ئہگہر تو تابعی ہہوا و ہہوہسی ئہوان بیی ﴿مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ پاش ئہوہی، کہ ئہم عیلمہت بو ہات، حہق بوٹ ناشکرا بوو ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ^(۱۶۵) بہ حہققہت تووش ئہو وہقت، داخلی زومرہی ئہو ظالمانہ ئہبی، کہ ظلمیان لہ حہد بہدہرہ، دیارہ بو حہزرتی رسول نییہ، محالہ، فقط مقصود (تنبیہ و ایقازی) ئوممہتہ کہ بہ دەسیسہی ئہوان ہہ لئہخہ لہتین. وقتاکی معلووم بوو تحویلی قبیلہ ئہمری حہقہ، ئہوانیش ئہیانزانی حہقہ (مع انہ) کردیانہ شوبہہی (قادح) لہ رسالہتی محمد ^(صلی اللہ علیہ وسلم)، دہفہیی پروو لہ بیت المقدس ئہکا و، دہفہیہک پروو لہ مسجد الحرام ئہکا. بو اظہاری خباثہتیان دہربارہی ذاتی نبوی ئہفہرموئی: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ پاک و پیسیان ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾ پیغہمبہریان ئہناسی ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ ہہر وہکوو کوررانی خویمان ئہناسی، لہ سہر ئہو حالہش ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ﴾ فرقہییکی گہورہ لہ ئہہلی

کتاب ﴿لَيَكْفُرَنَّ الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (۱۶۶) حەق بزر ئەكەن، با وجودی ئەزانن، كە حەقە، حسادەت و عناد، بغض و عداوەت، كە لە دڵدا قووەتی ساند پووی ئینسان لە حەق وەرئەگێرێ، ئەو نەوعە (عنود و حسود)ە لە هەموو زەمانی زۆرن، لە ناو هەموو قەوم و صنفی بەشەر بلاون، كەسێ ئەحوالاتی روحیە ی اقوام بزانی، تجاریبی بەشەری كەربێ، هیچ گەرفتی لەو قەسەدا نیە، شەخصیك لە خزمانی خۆم مەبەتی لە حەقەم هەبوو، كە ناوی ئەهینام بە (علامە) ی یاد ئەكردم، تصادفاً ساردی یەك كەوتە بەینێ، بیستمەو، كە ناوی ئەهینام ئەی گوت: (فەقی محمد) منیش (تبسم) كرد، گوتم: بۆ دوینێ (علامە) بووم، و ئەمپۆ بووم بە فەقی محمد؟!

دیارە معظمی بەشەر هەواو هەوەسی خۆی ئەپەستی. ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ ئەو حەقە، كە بۆ تۆ (تجالی) كەردووە، (خاصە) اطلاعی لەسەر ئەحوالی پوویە ی امم لە طرفە خوداوە بۆ تۆ هاتوو، و تەقرری كەردووە بە (هذیان) و تۆررەهاتی ئەو نەوعە گرۆهە (دەغدەغە) بە خاطر مەگەیینە ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (۱۶۷) لە زومەری گوماندار و صاحب شك و شوبهە مەبە.

﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ﴾ هەر كەسێ و جەهە یەك و ناحیە یەكی هەیه ﴿هُوَ مَوْلِيهَا﴾ ئەو پووی تێ ئەكا (موجە یا غیری موجە) بە مەیل و هەوا ی نەفس، یا بە دەلیل و بورهان. ﴿فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ هەرچی خێر بێ لێی پێش بکەون، پێ بررکە ی لێ بکەن، مەهیلن بپوا و لە دەستان بچن، لە هەموو چشت چاکتر، لە هەموو مقصودان بە فائەدەتر، پوو لە خودا كەردنە، كە هەر ئیش و کاری بیکە ی (لوجە اللە) بێ، مەبەدا ئەو، مرجعیش هەر ئەو، ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ لە هەر جێ یەك بن، خودای تعالی هەمووتان گرد ئەكاتەو، كە وابێ لە هەر جێ یەك بن پووبکەنە ئەو، بە جەهاتی مختلفە

تہفرہ قہ مہ کهن، دل بہ جیہت مہ دهن، جیہت نامینئی ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿۱۴۸﴾ زور ناسانہ بو خدا ہمووتان گرد بکاتہ وہ و جزاتان بدات، چاکہ، بہ چاکہ وہ خراپہ بہ خراپہ عہر زمان کردن، پوو لہ بیت الحرام کردن مجرد ظاہری نیہ، بہ لکوو مقصود پووتی کردنیہ تی بہ عہزم و ہیممہت و غیرہت، بہ اتفاق کہ نہ جاتی بدہن، پاکی بکہ نہ وہ، بوئی دہربارہی رسول و ئوممہت، تکرار ئہ فہرموی: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ﴿۱۴۹﴾ لہ ہر جئیہک چوویہ دہری، لہ ہرچی جئیہک بیت، وہ بو ہر جئیہک بچی، پوو بکہ ناحیہی مسجد الحرام ﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ ﴿۱۵۰﴾ ئہم پووتی کردنہ حہ قیکہ لہ تہرف خودای تووہ بو احقاقی ئہو حہ قہ سعی و کوشش بکہ، مشہورہ (توفیقی خودا تابعی سعی عہدہ) حہ ق ئہوہ ہر وہ کو مہ شہورہ مشہودہ ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿۱۵۱﴾ سعی و کوششی ئیوہ بہ خوررای ناپوا، جہزاتان، ئہدا. لیہر زیادہ اعتنا بہ پہئیسسی تکرار ئہ فہرموی: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ﴿۱۵۲﴾ چاک تیبگہ مقصودم لہو ئہ مرہ چیہ، دیارہ پووتی کردنی (صوری)، ئہوہ ندہ ئہ ہمیہ تی نیہ. وہ بو ئوممہ تیش ئہ فہرموی: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ ﴿۱۵۳﴾ پوو بکہ نہ تہرفی مسجد الحرام، بو جہ نابی نہ بہوی لہ ہمووی (خرجت) ئہ فہرموی، ئیشارہت بو ئہوہ، کہ جہ نابی رسالہت ئاوارہ و دارہ دیارہ لہ ہر جئیہک بی بو ئہوہر خروجہ، تا ئہ گاتہ مہ فتن ﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ ﴿۱۵۴﴾ مہ بادا خہلق بہ دہلیل لہ سہر ئیوہ غالب بی، بلین ئہوانہ ئہ گہر پاستیان ئہ کرد، (حنفی) بوون، ئہ بوایہ (تہپیری بیت) بکہن لہ اصنام، وہ کوو

ابراهیم و اسماعیل، اعادهی مجد و شهرهفی بؤ بکه نه وه، پاکی بکه نه وه بؤ
 ئه وانهی، که دهورهی (بیت) ئه دهن، له مسجد اعتکاف ئه کهن (راکع و
 ساجد) ن ئه گهر به و نه وعه پرووی تی بکهن، کهس محبه تی له سهر ئیوه
 نامینی ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ ئه و که سانه نه بی، که پیشه یان دائماً
 ظلمه، وه تجاوز له حه دده، وا ئه نویزن، که ئه بی پیغه مبه ر وه ک
 صوفی یه کان پش پان و به رمال به شان بی، به سواری که ری له وی و
 له وی بخولیته وه! نازانن حه زره تی (خاتم) شه خصیکه، که شهره ف ئه دا به
 رساله ت. به ده ستیک بورهان، به ده ستیک شیری برران ده عوه تی عالم
 ئه کا. ئیوه به (هذیان) ئه و نه وعه که سانه فتور مه کهن، سستی به عزم و
 جه زمی خۆتان مه دهن.

﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ له وان مه ترسن له من بترسن، ئه وهی له خودا
 بترسی، خوی ئه پاریزی، به لام له کهس ناترسی، وه هم بوی ئه م
 ئه مره تان ئه که می ﴿وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾ نيعمه تی خۆم به سهر ئیوه ته واو
 بکه م ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ئیوه ته ماشا بکهن ابتدای نيعمه تم ئه وه یه
 ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ﴾ له ناو ئیوه ﴿رَسُولًا مِنْكُمْ﴾ پیغه مبه ری له خۆتان،
 که به ته واوی مستقل بن، هه تا بؤ احکام و قوانینیش احتیاجتان به کهس
 نه بی، کهس خۆتان له سهر هه لئه کیشن، هه تا ئه وه نيعمه تیکی زۆر گه وره یه
 ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا﴾ (قرآنی و اکوانی) ئه ممما خوارق، شواذ، نه کهن
 به لایه وه بچن ﴿وَيُرِيكُمْ﴾ پاکتان بکاته وه ﴿وَيَعْلَمُكُمْ الْكِتَابَ﴾
 قورئان، یان نووسین ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ علیم به ئه سرار و حقائقی اشیا و
 قه واعد و (سننی) ئیلاهی ﴿وَيَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ له حوسنی
 ئاداب، له احکامیکی، که عقل پیگای پی نابا، وه (کذا) احوالاتی پوژی

جەزا و اهمی هەموو چشت ئەوێه، که تێتان ئەگهئینی، که (شوان) و (خوارق) بێکه لکه . که سێ ئەو نيعمهتهی له حەق ئیوه کردبێ چۆن ئەبێ اتمامی نهکا؟ چۆن ئەبێ له پاش ئەو هیدایهتهی ئیوه ئەو دینه بلاو نهبیتهوه؟ وه سائری ناس استفادهی لی نهکن؟ وه ئەو دهعهوتهی ابراهیمی، که دووباره حەزرتی (محمد) قبوولی کردوه، که به (هبا) بپوا.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ یادى من بکهن له هەموو وهقت، (خاصة) له وهقتی سيعهت و شينهیی ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ خودا ئەفهرمووی: منیش یادتان ئەکەم له هەموو وهقت، (خاصة) له وهقتی شیددهت، ﴿وَأَشْكُرُوا لِي﴾ اعتراف به نيعمهتی من بکهن، مغرور مه بن به قووتهی بازو ﴿وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ (۱۵۲) له پێگای ئیمان و هیدایهت خۆتان بزر مهکن، ئەوانهی به دین کافر ئەبن چارهیان ناکرێ، قابلیهتی صلاحیان نامینێ.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ ئەهێ ئەوانهی ئیمانیان هیناوه! استعانه بکهن به خۆراگرتن، (ثبات)، ثابت قدم بن، هه راس به دل مهدهن، وه هه م به نوێژ بیکه نه رابیتههی اتحادی خۆتان، پووکردنه قیبله له نوێژدا بکهنه وه سیله بۆ فهتھی (مکه)، نهجاتدانی بیتالله ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (۱۵۳) صابر له هەموو کهس نزیکترین له خودا، ئەوهی دلی (متین) بێ، مشوهش نابێ، تیکناچێ، رشتەهێ تدبیر بهرله لاکا .. گه لێ وابوو ئینسانیک به صبری یهک چارهک سعات دهولتهی خۆی نهجات داوه، وه دوژمنی پهزێل کردوه . ئینسانی عجولی به جووله جول له هەموو کهس له خودا دوورتره، شوبهه نییه له و پێگایه دا، تووشی شهرر ئەبن، ئەکوژن و لیشتان ئەکوژرێ .. مه لێن ئەوهی له ئیمه ئەکوژرێ به فیرۆ ئەپوا، بهو خه یالاته سستی مهدهنه دلی خۆتان .

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ءَمَاتٌ﴾ مه لێن له حەق ئەوانهی له

پښتای خودا نه کوژرین، مردوون ﴿بَلْ أَحْيَاءُ﴾ به راستی نه وان زیندوون، مردن له پښتای خودا و دین و وهتن و میللهت، عهینی ژيانه. ﴿وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ۱۵۴ ﴿تئوه شعورتان نیه، نازانن حیاتی میللهت به سهره برزی، گه لیک له حیاتی شه خصی خوشتره، هر قه ومیک استحقاری ژيانی خوئی نهکا، نائی نه و حیاته نابی، الانیش ژيانی کوردان له سایه ی صلاح الدینی کوردی یه.

روایه ته که ابوبکری صدیق بو خالدی ابنی ولیدی نووسی: «استحقاری مردن بکه، تا بگه ی به حیاتی»، چند حه کیمی قیمة تدار حیاتی خوئیان به خت کرد تا (ته یاره) یان گه یانده نه و دهره جه یه، که نه مړو نه بیینن و بزنانن دوژمنتان به قووه ته تووشی خه سارهت و برسایه تی نه بن، سستی مه که ن، نوشستی مه هیئن، امتحانی خودایه نه بی له امتحان دهر بچن.

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾ (شیء) احتمالی تحقیر و تعظیمی هه یه له و جیهه ته، که خودا امتحانتان پی نه کا، دیاره گه وره یه به لام نابی نه ورنده به گه وره ی بزنانن، که واهمه غه له به تان لی بکا، بکه ونه ترس و له رزه وه نه توانن بیکه ن، بناء علیه نه بی لاتان که م بی و چشتی زور گه وره نه بی، وه هه م امتحانتان نه کا به ﴿وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ که می له مال و نه فس و بهر و ثمرات، زور یا که م اهمیه ت مه دن، صبر و ثبات بکه ن ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ۱۵۵ ﴿موژده یان بده یی به نه یلی مقصود ﴿الَّذِينَ﴾ نه و صابرانه ی ﴿إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ﴾ که مصیبه تیکیان پی گه یی، به لایکیان هاته سهر، چ له مال، چ له سهر، (جزع و فزع) ناکه ن، ترس و هه راس غه له به یان لی ناکا، مشوهش و مایوس نابن. ﴿قَالُوا﴾ به که مالی خاطر جمعی ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ۱۵۶ ﴿تئمه خو مان عه بد و مملوکی خوداین، مال

چ ئەهمیه تی ههیه؟ ئیمه پجوعمان بۆ خزمهت ئەوه، پهضای کبریائی بۆ ئیمه له نیعمه تی دنیا و قیامهت چاکتره، که سیکی به راستی و به دروستی، ئیمانی به حه یاتی ابدی هه بی بۆ تحصیلی سعاده تی اخروی، روح دانی زۆر پی خۆش ئەبی، ئەگه ر به درۆ بی، وهکو جوله کان هه ز ئەکا له م دنیا یه هه ر بزئی قهت لی نه چیته ده ره وه، که وایی ئیوه وهکو جوله کان مه بن.

﴿أُولَئِكَ﴾ ئەو صابرا نه ﴿عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ سه راپه رده و خه یمه ی تعظیماتیان له ته ره ف خودا وه له سه ر هه ل ئەدری، مقابل به و په شماله ی ذیلله ت و مسکنه ت و په زاله ت، که له سه ر بنی اسرائیلی یان هه ل درابوو، ئیوه یش ئەی موسلمانینه هه زتان له کامیانه؟ ئەویان بۆ خۆتان اختیار بکه ن، دیاره ئەهلی ئیمان، اصلاً به (ذل و هوان) و حقاره ت پازی نابی، دائماً بۆ نه یلی شه ره ف، بۆ مقاماتی عالیه سعی و کۆشش ئەکه ن. مردنی به عیززه ت له سه ر ژیا نی ذیلله ت ته رجیح ئەده ن، ذاتاً بنی اسماعیلی وهکو بنی اسرائیلی، تووشی ذیلله ت و حقاره ت نه بوون و البته له پاش شه ره فی ئیسلام فیکری تعالی یان زیاتر ئەبی. ﴿وَرَحْمَةً﴾ هه م په حمه تی خویان له سه ره، یه عنی تعظیماتی بی مسخره ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ به راستی هه ر ئەوانه ریگیان به مه قصه د بر دووه، عدول له قه واعدی طبیعی ناکه ن، به معجزات و خوارق له سوننه تی ئیلاهی لانه ن، به مصیبه ت فتور ناهینن، نایکه نه عه لامه تی بی لطفی خودا له حه ق خویان، به لکو وه که مالی (حریت)ی خویان ئەو مصائبانه ئەکه ن، مه صقه لی نه فسی خویان نایکه نه ژهنگ، وهکو شاعیر ئەلی:

لله درّ النّائبات فأهّما صدأ اللّثام و صیقل الاحرار

ئەصحابی په سول ئەحوالاتی عاله میان زۆر چاک ئەزانی، پیاوی مه یدان بوون و له ئایاتی قورئانیش زۆر چاک تی ئەگه یشتن، بۆی هه یچ کهس له ئەصحابی گوزین عه رضی صاحبی رساله تیان نئه کرد « مادام کو خودا

وہعدہی بہ ئیمہ داوہ، کہ اتمامی نیعمہتمان بؤبکا. وہ ئو دینہ بہ ضایع ناد، ا با خوی بہ سووک و ئاسانی دوژمنمان بفعوتینئ، (مکہ)مان بؤ فہتح بکا، نہجاتی کہعبہمان بؤبدا.. بؤچی ئیمہ بہ کوشتن ئہدا؟ تووشی ترس و برسایہتی و نہقصی مال و سہرمایہ مان ئہکا؟».

بہلکو بہ قووہتی ئیمان فکریان ئہبوو بہ یہک، قووہتیاں زیاد ئہبوو، بہ زوری بازوو فہتح و فتوحاتیاں ئہکرد و ذہررہیہک خہلہلیان لہ ئیمان بہ وہعدہی ئیلاہی، بہ قودرہتی ئیلاہی نہدہبوو.. بہلکوو خویان ئہکردہ (مظہری) قودرہتی ئیلاہی، بہ کہمالی قودرہت و مہتانہت، پرویان ئہکردہ کیوان لہ رہگ و پیشہیان ہلئہکہند.

ئہمما ئہوانی لہ دوائ ئہوان ہاتن، قودرہت و ئیرادہی خودایان کردہ حائل، لہ بہینی خویان و سہعی و تیکوشین، سہلبی قودرہتیاں لہ خویان کرد. خویان کردہ عاجز و بیہستہلآت و بیئیرادہ – ئہوہشیان بہ عہینی ئیمان ئہزانی! – بؤیئ وہکوو بنی اسرائیلی خیمہی ذلہتیاں لہسہر ہلڈرا و رہزالہت و دہنائہتی نہفسیان لا خوش بوو! کہسئ عاقل بی ئہزانی ئیمانی (خہلہف) لہگہل ئیمانی (سہلہف) فہرقیان زورہ، وہکو (حکماء) ئہلئین: (اختلافی اثر دہلیلہ لہسہر اختلافی مؤثر).

ئہی یارانہی مصطفیٰ و! ئہی اخوانی صہفا و! ئہی ئہربابی مرووہت و وہفا، وہقتئ کہ پروتان کردہ مسجدالحرام، تہماشایہکی صہفا و مہروہ بکہن. ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ لہ معالم و عہلامہتی دینی خودایہ ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ﴾ کہسیکی بؤ حہجی بہیت بچی ﴿أَوْ اعْتَمَرَ﴾ یا خود بؤ زیارہتی بچی ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ چگونہ و گرانی لہسہر نییہ ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ کہمیگ لئیان نزیک ببیتہوہ. بزائن ئہہلی شرک ئہو دوو موقعہیان چؤن گورریوہ، چ علامہتیکیان لئ داناوہ؟ (صفا) لہ لغتدا بہ بہردیک ئہلئین خاویئن، خالص، خؤل و مؤلی تیکہلاو نہبوویئ، صاف و لووس بیئ،

گرنی گرنی نه بی. (مروة) به بهردیک ئەلین سپی، نه رم. اساساً له بهر ئەو دوو مهعنایه، سهعی له بهینی صهفا و مروه ئەکرا، یهعنی پاک و خالص بن، سپی و نه رم و به تواضع بن، دلّ رهش و دلّ به قهساوهت مه بن. لاکن له زهمانی جاهیلیهت هه ریه که ههیکه لیکیان له سهه دانابوو، (الیاف) له سهه صهفا، (نائله) له سهه مهروه، وه اصلاً ئەیان گوت الیاف له گه ل نائله له ژوووهوی کعبه زناى کرد، خودا کردنی به بهرد بۆ عیبرهت، الیاف له سهه صهفا و، نائله له سهه مهروه داندرا. پاش بهینیک ئەوهیان له فکر کرد، بۆ تقدیس و تعظیم زیارهتیاں ئەکردن.

به لام ظاهر وایه، که له دوایی فکری ته مسیلی ئالهه، ئیلاهی حهرب به پیاو، ئیلاهی سهلام به ژن که وته دهماغیان، وه کوو پۆما و یۆنان و مصری یان، ئیلاه و ئیلاهیان ته مسیل کرد، وه به و مناسبه یهش ههیکه لی پیاویان له صفا، که بهردیکی موادی اجنبیهی تیدا نه بی و لووس بی و رهق دانا، وه ههیکه لی ژن له جیه که سپی و نه رم بوو دایان نا، ئەگه ر ئەم فکره له زوووه بکه وتابوایه دهماغی عه ره ب، پرسوخی ببه ستابوایه قهت چاره یان نه ئەکرا. ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ ئەوی قودره تی خوئی صهرف بکا بۆ اکتسابی خیر ئەو ههیکه لانه لایدا، ئەوه نه دهی احسان ئەگاتی، که خودا شوکرانه ی بکا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ئەوی لائقی تعظیم و احترام بی دهرباره ی ئەوانه به جی ئەهین و هیه چشت له خودا بزر ناب، به گویره ی ئەو سهعی یه جزایان ئەدا له اعظمی نیعه می ئیلاهی له حق موسلمانان، ئەوه بوو ره سولی ئەکره م، که ئایاتی بۆ ئەهات به ئاشکرای به سهه ری دا ئەخویندنه وه، دۆست و دوژمن، مؤمن و کافر تی ئەگه بیشتن و له به ریشیان ئەبوو. بناء علیه که س پی نه ئەکرا (کلمه یه ک) له وه حی یه که (کتم) بکا. ئەمما ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا﴾ وه کو یهود و نصاری، که ئایاتی (بینات) یان بزر ئەکرد ﴿مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ له ئایاتی بیناتی (بنفسه)

﴿وَأَهْدِي﴾ ده لائلی عه قلی ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّكَ﴾ پاش ئه وهی، که ته قریر و ایضاحمان کرد، ئه وه ده لیلی عه قلی یه ﴿لِلنَّاسِ﴾ بۆ خهلق به نهوعی که ئه وهی پیی بلین خهلق فههمی بکا. ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ له و کتیبه ی، که بۆ پیغه مبه ره کانمان ناردووه، هر پیغه مبه ری به بی بزر کردنه که یش، فری دان یا تی زیاد کردن، یا مه عنا گۆررین له ته رجمه، له تهفسیر، له تاویلاتی دور، احتمالاتی پروکهش، القای شکوک و شوبهت له (دلایلی عقلی) یه ﴿أَوْلِيَّتِكَ﴾ ئه وهی ئه م کتمان بکا به هر جوړی بیی ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ خودای تبارک و تعالی، له پهحمه تی خوئی دوریان ئه خاته وه، پهحمه تیکی، که «وسعت کل شیء» ه لئی بی بهش ئه بن ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾ دوعای طرد و تبعید له پهحمه تی خودایان لئی ئه کهن، ئه وانهی، که ئاگادارن وه له سه ره حق ماون، ئه مینی دینی پاکن له گه ل خودا و پیغه مبه ر و کتب و ئوممهت. ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ له و گونا هه گه وره یه ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ دلی خوئیان چاک بکهن، نه فسی خوئیان پاک بکهن، که جار یکی تر ئه و (غل) و غشه و خیانه ته نه کهن ﴿وَبَيَّنُوا﴾ ئه و حقه ی بزریان کردووه ئاشکرای بکهن، به یانی سیئاتی خوئیان له ته حریف و تاویل و القای شوبهات بۆ عالم اظهار بکهن. ﴿فَأَوْلِيَّتِكَ أَنْتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ لو گونا هه عظیمه یان خوش ئه بم، توبه یان لئی قبول ئه که م. ﴿وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ خودا ئه فه رموی من گه لئی جار پووی پهحمه ت ئه گیرمه وه بۆ ئه و که سانه ی، که پووی انابه و توبه له ده رگاهی ئیمه بکهن، ئیمه ش پووی پهحمه تیان تی ئه که ینه وه، ئه وه یش له که مالی مه رحه مه تی یه تی له حه ق عیبادی خوئی. حقا ئه گه ر جه نابی کبریائی له غایه تی ته جاو ز و که ره م کاری نه بوایه، اصلا پووی پهحمه تی تی نه ئه کردن، ئه م ما محقق بزنان له ملیون، یه کیک له و نه وعه مفسدانه ی

تحریفی کلامی خودا بکا، تاوه کوو (حق) تابعی فیکری خۆی بکا، صهرفی ئایاتی قورئانی و عقلی له وجههتی خۆی بکا، مهگهر تۆبه بکا به و نهوعه تۆبهیه .

من فکری مه لایان چاک ئه زانم، تا مه لاتر بن (عنود) تر ئه بن و، لایان وایه حق ئه وهیه، که ئه وان بیلین: «کالشمس فی رابعة النهار» غه له طی خۆیان لئ معلوم ببی، دهستی لئ هه ل ناگرن، به قونکه بیور له ته ختهی ناو چه وانیان بدهی ناگه ررینه وه، خصوص بۆ حفظی مه قام و نفوذی خۆیان له سه ر ئوممهت، اصلا پی له حق نانین، خۆیان ناشکینن.. هه تا به عضیک وایان لئ دیت، له فه رش تا عه رش حوکم ئه کا به فه نا و نه بوون، و ئاگای له خۆی نییه، که ئه و زهره ریه کی (احقره) له و کائنا ته عظیمه .. ئه گه رچی لازمه بلیم (الحدرا! الحدرا!) له و نه وعه که سانه، ئه م ما چ فائده ئیشی خۆیان کرد، خرافاتیان له ده ماغی موسلمانان ناوه و چه سپاند، روحي حه یاتیان برد، «انا لله و انا اليه راجعون» .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ئه وان هی، که مانه وه له سه ر کفر و ضلال، که تمی حق و تحریفی کتاب، تشویشی ئایاتیان کرد ﴿ وَمَا تَوْأَمَّهُمْ كُفَّارٌ ﴾ له سه ر ئه م حاله مردن، تۆبه یان نه کرد .

﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ ﴾ له عنه تی خودا له سه ر ئه وان ثابت و مقرره، له سه ر یان لا ناچی (مع انه) (ارحم الراحمين) ه ﴿ وَالْمَلٰٓئِكَةُ ﴾ باوجودی ملائکهت ئه رواحی لطیفن، شه فه قهت و مه رحه مه تن ﴿ وَالنَّاسِ ﴾ هه موو که س، خصوص ئه وان هی، که دوایان که وتوون، ئه وان هی به ئومیدی شه فاعه تیان بوون ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ تَیْکَرَا ﴾ ﴿ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ﴾ له و له عنه ته عظیمیه ﴿ لَا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ﴾ کئ عه ذابیان له سه ر که م ئه کا؟ . ئه وهی ئه مه لیکی په حمه تی پی بکری له عنه تیان لئ ئه کا . ﴿ وَلَا هُمْ یُنظَرُونَ ﴾ ﴿ ۱۱۳ ﴾

موہلت نادرین، یا تہ ماشا ناکرین بہ چاوی مہرحمہت کہس نہ ماوہ تہ وہ مہرحمہ تیان پی بکا، مہ گہر شہیتان وہ ئو کہسی پوجی ئایات ئہ با، کہ پوجی حہیاتی ئوممہ تہ وہ کوو ئایہ تی «واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا» وہ کو ئایہ تی «تلك امة قد خلت» بؤ افسادی ئوممہت ئہ وانہ کہ متر نی یہ . اہمی مہمات لہ نظری خودا و پیغہ مہبران ئیمان بہ واحدانیہ تی خودایہ، ئیمانیکہ کہ لہ ریگی تفکر و تامل لہ ئایاتی بیناتی ئیلاہی، بؤی بہ خطابی عام ئہ فہرموی ﴿وَاللّٰهُمَّ اِنَّهُ وَاحِدٌ﴾ یہ کہ خودای ہمووتان، بی شریکہ لہ ذات و لہ صفات وہ لہ افعال . ئو تہ فرہ قہیہ بؤ؟ ئو کتہی حہ قہ سہ بہ بہ چی؟ اثباتی شریک وہ (ولد) بہ چی دہلیل؟ چ نہ قصیک لہ قووت و قودرہ تی ئو دا ہہیہ اکمالی بکہن؟ چ تغیر و تحویلیک لہ ذاتی کبریائی دا ہہیہ، جینشینی بؤ پہیدا بکہن؟ خالق و مخلوق چ نسبتیکیان لہ گہل یہ کہ ہہیہ؟ خالق بہ مخلوق وہ مخلوق بہ خالق بگورن؟ تہ مسیلی خودا بکہن بہ اشکالی مختلفہ؟ .. ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ﴾ (۱۱۳) بہ غیری ئو و، ہیچ خودا نی یہ، ہہر ئو پرحمانہ و پرحیمہ، پو لہ خودا و ہرئہ گورن؟ پو ئہ کہ نہ کئ؟ ئومیدی مہرحمہت لہ کئ ئہ کہن؟

لہ صہدری کتابہ وہ زانانتان، گہ ورہی ہہر بؤ خودایہ، پرحمہت صفہ تیکی (لا یتغیر) یہ تی، صاحب و پادشاہی پوڑی جہزا، ہہر ئو وہ، بہ و خیانہ تہ عظیمہ، کہ سی ہوشی بی خوی بؤ لہ پرحمہ تی خودا دوور ئہ کاتہ وہ؟ بؤچی خوی ئہ کاتہ مستحق لہ عنہ تی ئہ بہ دی؟ خودا یہ کہ، نیسبہ تی لہ گہل ہہ موو عالم یہ کہ، پہنگاوپہنگی لہ واحدی حقیقی دوورہ .. محالہ، پرحمہ تی شاملہ، نیعمہ تی کاملہ، ئایاتی بیناتی بؤ ہہ موو کہس ظاہرہ، منافی خہلق و ئیجادی بؤ کافہی بہ شہر، بہ لکوو بؤ حیوانات مساوی یہ، بہ ہیچ (وہجہ) خصوصیتی لہ گہل کہس نی یہ، ئہ گہر امتیازیکی فیطری دابیتہ کہ سیک، بؤئی داوہ تی، کہ لہ منافی عمومی

صهرف بکا، جاهلان تی بگهیینی، نقصانان پی بگهیینی، حجاب لادا له بهینی عهبد و خودادا، ئایاتی ئه گهر (خفا) ئیکی تیدا هه بی جلوهی پی بیدا، ئاشکرای بکا. از جمله ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ علوی و سفلی، بلند و نوی ﴿وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ بهو نهوعه اختلافه، که له بهعضیک جیگا نیزیکه له (تساوی) دوایی، له م لاو له و لای اقلیم به اقلیم، موقع به موقع کورت و دریزی شه و ئه گورری، تا ئه گاته جی یه ک، سالیکی ئیمه شه و پوژیکی ئه وانه، ئه ویش له نیسبهتی ئه رض له گه ل پوژ، علوی له گه ل سفلی پهیدا ئه بی.

﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ ئه و سفینه و واپوررهی که له به حرادا دی و ئه چی، چ محیط چ غهیری محیط بو مه نفعه تی مخلوقات، یا خود گهر رانه که ی به چشتیکه، که ئه ویش زور به مه نفعه ته بو ئینسان، وه ک با و بخار. (وساطی بحری) اساسی خوئی بو مه نفعه تی داندراوه، ئه ماما (کمی حق) چونکی له شیوهی به شهری یه، ئه وهیشیان گورری. ده و له ته کانی حاضری، که له به حرادا به قووه تن ئه و وساطه نافعه بو ضرری عباد صهرف ئه کهن، دار و دیاری بی دهسته لاتانی پی ویران ئه کهن. ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ﴾ وه له چشتیک، که خودای تبارک و تعالی له بلندی، له ئاسمان ناردوو یه تی، که ئه ویش چی یه؟ ئاوی بارانه، ئه و ئاوهیش مه بدهئی هه یاته. ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ ئه و ئه رضانه ی که وای دیمه کارن پی یان زندوو ئه کاته وه، وه کو له مقدمه ی بهیتی (دمدم) له مه دخی خودا ئه لی:

ئاو دیری دیمه کاران که سی بی که سو هه ژاران

﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ هه ر حیواناتی، که بژیی له سه ر ارضی؛ به واسطه ی ئاو و محصولات ی ئاو بلاوی کردوو ه ته وه له ارضی؛ هه ر ئه رضه به

نیسبت خوی؛ حوشر له پہمستان به (حوشرالوک) ئەژیینئ، بزئہ کیوی له شاخ و داخان، به گیا و بەرگ و بەری داران به خویان ئەکا.. سمیکی ئەدانئ که پیی بهسەر بەردی ماییلوس، سەرہو ژێردا ئەپوا.

﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ﴾ وەرگیڕانی با بۆ شەرق و غەرب و جنوب و شمال ئەویش له غایەتی نەفەدایە بۆ تلقیحی دارو گیا که به ئەمەرهی ئەو زەواجە، ئینسان و حیواناتی پیئ ئەژیینئ ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ئەو هەورە، که پراگیراوه له بەینی ئەرض و ئاسمان، نە ئەوەندە دوورە له ئەرضی که ئەو بارانە لئ دیتە خواری، بیئ به (هبا) و نە یگاتی، نە ئەوەندەیش نیزیکه، که به دارژاندنی باران علی الدوام مزروعاتی پیئ به فساد بچئ. له هەموو له ئەوانە لئ که ذکر کرا ﴿لَا يَتِّتِ﴾

نە یەک، نە دە، بە لکو هەزارەها ئایات و دلالتی تیدا هەیه، بۆ کئ؟ ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٦٤﴾ بۆ قەومیکی، که عەقلیان هەبئ.. تئ بفکرن که سیکی عەقلی هەبئ، چۆن که تمی ئەو حقایقە ئەکا و ئەلئ: خالقئ ئەرض و ئاسمان (عیسی) یه؟ که سیکی که ممئ شعور و ئیمانی هەبئ، چۆن ئەلئ تدبیری کائنات به (قوتب) سپاردرایه، بیئ ئەمر و ئیرادە لئ ئەو، نەرراتی کائنات حەرەکه ناکا؟ ئەو نەبی ئەرض و ئاسمان وەرئەگەرئ؟ که سیکی له غایەتی (جهل) نەبئ، چۆن ئەلئ (علی) (مکوری لیل و نهاره)؟ باری له نبووت صەرفی نەزەر! بۆچی به عەقل، خەیا لئ صحیح تەماشای ئەرض و ئاسمان ناکەن، بزائن ئەو عالەمه چیی یه؟! بزائن ئەو عالەمه عظیمه به چ قوووت و ئیرادە و عیلمیک خەلق کراوه؟ به چ حکمەتیک به و انتظامه غریبه داندراوه، بەلام که عەقل نەما، قسە له گەل کئ بکەین؟ بالخاصة، که کرامات هاتە گۆرئ به جارئ عەقل و عیلم و حکمەت ئەفرئ، نظامی کائنات ژێر بەرەژوور ئەبئ.. حەق و حەقیقەت گوم ئەبئ.

خودایه تو شاهیدی هه ر دینیك، هه ر مهذهبیك، هه ر مهشرهبیك له گه لّ
عهقل مخالف بی، من لی بهریم؛ دینیكم ئهوی. به مهذهبیك پازیم، كه
به امتزاجی عهقل و نبوهت پوچیكى خالصی تیا پهیدا بوو بی و، منیش
نائلی ئه و حیاته معتدله بيم و، ئه و دینهیش (حقیقه) دینی ئیسلامه. ئه م
امتزاجهیش خالقی (اكوان)، منزلی قورئان بو ئیمه ی كردوه، ئیمهیش (لله
الحمد) پیی ممتزج بووین و، زوریش سهعی ئه كه م، كه عهوامیش به راستی
له حهق و حهقیقهت بگا با له لایشیان (منفور) و بی حورمهت بيم. خودا
ئه زانی له (عبدالرحمنی جهلی)^(۱) هه تا من، كه له (كوئی) ژیاوین،
خیانه تمان له گه لّ دین و میللهت نه بووه.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ ئه م ما چ (ناس)؟ هه زار جار به قوربانی نه سناس بن.
﴿ مَن يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا ﴾ ئه مثالی خودا اتخاذه كه ن، اعراض له خودا
ئه نین، ئه م ما چ ئه مثال؟ ئه مثالیك، كه هیهچ نیسه تیان له گه لّ مه قامی
الوهیهت نییه (جماداتن). حیواناتن، ئه خوون، ئه خوونه وه، ئه پوون، ئه ررین،
نه وه كو (ندی) ته نهانه وه كو دو (لا یعد ولا یحصی)^(۱) هه رچی هه وه سیان
هینای ئه یگیرن به خودا، داخلی زومره ی ئاله هیان ئه كه ن (كانه) الوهیهت،
پوتبه بیكه وه كو پوتبه ی حكومهت، فیکری حهق بزر كردن له عالهمی
(بشریت) دا چ (مليون) چ حكما كه م و زور، یا به عضیك له مخلوقات
ئه به نه مه قامی الوهیهت، یان خودا له مه قامی الوهیهت ئه هیننه خواره وه و،
الحاقی ئه كه ن به ممکنات، هه تا (حكما ی الهیون) به وه مو عیلم و
فه ضلو و حیکمه ته ی، كه هه یان بوو قولیان ئه كرد به (عقولی مجرده) ، كه
وه كو جه نابی کبریائی (مقدس) و (منزه) بن له زه مان و له مه كان و له
جیههت، مزخرفاتی (مليون) انیش نایته حد و حساب.

(۱) باپیره گه وریه دانه ری تهفسیره و زانایه کی گه وره و مه لایه کی مایه دار بووه.

(۲) نهك هه ر یهك یادو هاوتا (ندیان داناوه بو خودا بهلكو به كومه لّ هاوتا و شریکیان بو پهیدا كردوه.
مليون و حكما هه ردویان له پهیدا كردنی ئه و شریكانه به شداره به لام هه ر لایه به شكلیکی تایبه تی خوی.

﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ ذاتهن لایان له گه لّ خودا مساوین، خودایان چهند خوش ئه وئ، (انداد) هکانیشیان ئه وهنده خوش ئه وئ.. به زری محبت که له دلدا شین بوو، په گی داکوتا به و دهمارانه، که به دل وه متصله ئه پرواته خواری، تا وه کو له گه لّ خوین و گوشت و ئیسک، می شک تیکه لاو ئه بی، (جبرا) ئینسان سه وق ئه کا بو (اطاعه)، بی توقف و تامل و محاکمه، چی یان پی ئه مر بکا به جی ئه هینن. ئه و (مکار) آنه ی، که ده عوه ت بو بدعه تی خو یان ئه که ن ئه زانن محبت له هه موو چشتی به تاثیرتره، له و پړگایه دینه پیشی، ئاله هی خو یان به انواعی درو و ده له سه، خوشه ویست ئه که ن.. ئه وی مائل به سه فاله ت بی به دانه ی تزویریان هه لّ ئه خه له تی محبت ظالمیکی وایه، اصلاً عقل و ئیراده ناهیلی! ته ماشا بکه ن له حیکایه تی، (اسکندر) و (پوسته م) و (عه نته ر) پاله وانیک، که مه دحی زور بکری و له اغلب شهران به سه ربکه وئ.. (خاصة) شیریکی له ته وقی سه ری دوژمنیکی (قویال) بدا، مه ردو و (مرکب) به تیغی ئابداری وه ک خه یاری ته رر بکاته دوو که رتک، سامعین چهن دیان خوش ئه وئ، هه زار جار خو یانی به قوربان ئه که ن...

«وهک ده ستت نه پزی! چاوی سه رم بی، له منت که وئ! غولامی گوفکی ت

بم!»

با وجودی نه ئه صلی هه یه نه فه صل، کی هه یه حیکایه تی ئه سه که نده ری گوی لی بی و، بابا نه سیم و ئه رستو و محمد شیرزادی خوش نه وئ؟ کی هه یه رقی له جالینوس و شیرزاد خانی شیردره و هه یکه لانی پیر نه بیته وه، ته ماشا بکه ن به به ندوباوی ده رویش و صوفی یان، به حیکایه ت و چیرۆکه ی مه لایان، عالم چ محبه تیکی له گه لّ شیخان په یدا کردووه، به خودایان ئه زانن به لکو خودایان هه ر بوی ئه وئ، وه کو نه فه ری (ئه مر بهر) ئه مرو ئیداره ی شیخ پیک بهینی و، ئه و اعتقاداته ییش به حق و

حقیقهتی دینی ئیسلام تیئهگهن ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ﴾ محبهتی خودایان لههه موو چشت له لا زیاتره، محبهتی خودا به نهوعیک جئگیر ئه بی له دلی ئیماندارانی به حهق، که محبهتی غهیر جئی تیدا نابیتهوه، ئهوی خوشیشیان بوئ، بؤ خودایان خوشئوئ، حهقیقهتی ئیمان وا له (قضا) ئهخوای، بهلام ئهمرؤ باوهر ناکهم له دوو ملیار نفوسی بهشهری صهه کهس هه بی، (بحق) خودای خوش بوئ، وه ئهگهر نهیکه نه (سوء الظن) ئهتوانم بلیم لهسهر ئهرض محبی خودا نیه .. نیه . حبی پؤسای دین به نهوعیک جئ گیر بووه، که صاحبی دینیان (بالکیه) فهرامؤش کردووه . محبهت پهیدا ئه بی .. پهیدا ئه کرئ ، جهلبی خاطر بؤ زانایان زؤر سههله، لاکن محبهت چی یه؟ حهقیقهتی نازانئ ، بهس ئهوهی محبهتی هه بی به وجدان، ئهزانئ چ شتیک ههیه سهلبی صبر و ثبات و قرار و پراحتی لی ئهکا .. ئیرادهی پی ناهیلئ .. وهکو (مصطفی بهگی کوردی) ئه لی:

صبر و ثبات و تاقهت و پراحت نه ما له لام هه رماوه
پوح و پیئ ی بلئ (کوردی) ئه توش برؤ

محبهت ئاگرئ له دلدا هه لئه کا، بالؤن به هه وای ئه خا، صاحبیشی نازانئ: ئه وه چی یه، دائما له یادی محبوی خویهتی، اصلا لئ غافل نابئ .. وه نازانئ له بهرچی یه . تا محبهتی خودا له دلاندا هه بوو، عالمی ئیسلامیهت چؤن بوو! که محبهتی خودا له دلاندا نه ما .. چی لی هات؟ موسلمان چؤن بلو بوونه وه؟ سهر بهره و ژیر بوون . ئه مرؤ لازمه محبهتی خودا له دلاندا پهیدا بکه ن، نه ک وهکو (مرجه) ^(۱) عالم بکهینه صهگه به ره للا . هه رچی خودا پیئ ناخوشه بیکهین، وه بلئین ئیمانمان کافیه به لکو به نهوعیک، که پرویکه نه چاکه، نه فرهت بکه ن له خراپه، بزنان خودا چاکه چاکه ی ئه وئ، چاکه خوش ئه وئ (ملاذ) و ملجای خاصه له پؤژی جهزا

(۱) مرجه و معتزله دوو فیرقه ی ئیسلامن .

هر ئه و له (حدیث) ئه فه رموی:

«قهومیك پوژی قیامت له سه ر (منابری نور) داده نشن پیغه مبه ر نین، (نبی) یش نین، ئه م ما پسل و انبیا، تایبه تی به ئه حوالی ئه وان ئه خوازن، عه رضیان کرد یا رسول الله ئه وانه کین؟ فه رموی: «ئه وانه، ئه وانه خودا لای عباد، و عباد لای خوا خوشه ویست ئه کهن».

محقق بزائن تا محبه تی (ئهم وئهو) له دلاندا بی، محبه تی خودای ناچیتتی. تاویلی محبه ت، که مه لایانی ئیمه وه (معتزله) ^(۲) ئه یکه ن، باش نی یه، وه حی پوحی محبه ت ئه با.. ساردی ئه کاته وه به و نه وعه ی، که قورئان ئه فه رموی: محبه تی خوداتان هه بی، به محبه تی اغیار که تمی محبه تی خوا مه کهن.

﴿وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ئه و ظلمه عظیمه، که ئه و (محقرات) ه ئه په رستن
 ﴿إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ﴾ وه قتی، که عه ذابی خودا ئه بینن، ئه وسا لی یان معلوم
 ئه بی به (رای العین) ئه یبینن ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ ئه زانن قووه ت بو
 خودایه، که سی تر له و وه قته دا هیه چ (حول) و قووه تی نی یه، که ئه وانه له
 عه ذابی خودا نه جات بدا، ئه گه ر ئه م شرکایه چشتیک بو یونایه ئه بوایه
 له سه ر عیبادی خو یان به جواب بین، نه هیلن عه ذابیان بدا ئه و پوژه ئه یزانن
 ئه مه بی فائده یه، ئه مپو بیزانن باشه و، ئه شزانن ﴿وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعَذَابِ﴾ ﴿۱۶۵﴾ خودای تعالی عه ذابی شدید زور به ئیشه، ئیشه دوو پوژ و
 سی پوژ نی یه. جه هه ننه مه، هه مام نی یه، جیگای خه وتن و استراحت
 نی یه، آن زیاده ئه و ظالمانه شده تی عه زاب له و وه قته دا ئه چیژن، که ﴿إِذْ
 تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ تبرا ئه کهن و حاشا ئه کهن، ئه وانى
 متبوعن له وانه ی، که تابعیان بوون ئه لین: حاشا ئیمه ئیوه مان اغوا
 نه کردوه، ئیوه ئه تبعاعی ئیمه نین!

وای لهو حهسرهت و ئەندوهه، لهو یهئس و انفعاله، لهو تاثر و ئییش و درده، چۆن متبوعهکان حاشایان لئ ناکهن، زی خۆیان لئ ههڵ ناتهکین؟! ﴿وَرَأُوا الْعَذَابَ﴾ ئەوانیش عهذابی خۆیان دیت، قورریان به سهر خۆیان، خهلاص ئەبن، تا خهلق خهلاص بکهن؟ ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ ﴿۱۳۱﴾ بررا به سهبهب کفری ئەوان، ئەو پهتکو گوریسهی ئەوان، که دهستیان پئوه گرتبوو، بررا ئەو داوی (تزویری) ئەوان دایان نابوهوه، پارچه پارچه بوو، ئەو داوه پسپسۆکه خۆی له بهر ئاگر ناگرئ، زۆرتزینتان دیتان ئەو پۆژه، که (کوئی) بۆمباردومان کرا، سهگ و شیخ و مهلا و صۆفی و فهقی ههموو ههرايان ئەکرد خۆیان ئەشاردهوه، ئەچوونه ناو ئەشکهوتان، کونهسهگان. ئەوجا قورپتان بهسهر به طمعی ئەوهن، که ئەوانه له (هول)ی قیامهت نجاتتان بدهن؟ پهناو ملجا و ملاذتان ئەوانه ئەبن؟ نمونهی قیامهت له دونیا زۆره، بهلام چ بلیم ئوممهت کهرره، کویره ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ که دیتیان معبودهکانیان که لکیان نهگرتن، حاشاو ابایان لئ کردن به تهمنای ههسرهته و مهندانه، به ههناسه ساردی ئەلین: ﴿لَوْ أَن لَنَا كَرَّةٌ﴾ خۆزیا ئەگهر ببوایه بۆ ئیمه چوونهوهی دونیا ﴿فَنَتَّبِرَآ مِنْهُمْ﴾ تۆلهی خۆمان ئەکردهوه، حاشامان لهوان ئەکرد ﴿كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا﴾ چۆن ئەوان حاشایان له ئیمه کرد. ئەمما ئەو تهمهنايه بۆ ئەوان ههچ که لکی نییه، زیاده ئەندوه و ههسرهتیان ئەداتئ ﴿كَذَلِكَ﴾ وایه ﴿يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ﴾ خودای تعالی ئەعمالی ئەوان بهوان نیشان ئەدا، به گهلیک ههسرهت و دردمهندی ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ ﴿۱۳۷﴾ ئەوان له ئاگر ناچنه دهري، گهرانهوه بۆ دونیا نییه. چۆن ئەچنه دهري؟ کئ بیان باته دهري؟ خۆیان له خوا محروم کرد، شریکهکانیش که لکیان نهگرت،

ئەمجا کەسیک صادق بی له گەل قەومی خۆی، احوالاتی قیامەتیان ئیمرۆ
 بۆ تەمثیل ئەکا، تا تەماشای بکەن، بەموو پشتی خۆیان نەبەستن، بزانی
 بەغیری ئیمانی دروست و عملی چاکە، هیچی تر بۆ ئەوان کەلک ناگرێ.
 (سیر) و تەئریخی عالەم ئایاتی قورئانی حکیم دوو شاهی عەدەلن، کە
 ادیان و کتبی سماوی. سەبەب بە تەمەعی رۆسای دین بە فساد چوون،
 ئەگەر چی (اساسا) نەشئەتی له فقرو ضرورت کردبێ، (بعده) تەمەع
 بوویتە طبیعت بۆ ئەوان، وە زانیویشیانە علی الاطلاق، ئوممەت کەیفیان
 بەراست گۆیان نایەت، خزمەتی خائەنەکان ئەکەن، لەبەر ئەوە تا ئەمڕۆ
 دەرگای افسادی دین کراوەتەو، ئەمجا له ضمنی خطابی عام، اشاره بۆ
 ئەو منشای فەساده ئەفەرموئ وە له ئاخیری ئەو چەند ئایەتە تصریحی پێ
 ئەکا.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ ئەی ئینسانینە! - تابع و
 متبوع - بخۆن لەو هی، کە له زهوی دا هیه حەلال و زەلال.. پاک و خاوین،
 کە خودا بۆ ئیو هی خەلق کردووه، بەکەسابەت و معاملە بە دەستی
 خۆتانی بخەن و عافیتی بکەن. بە حیلە و دەسیسە، بە حوکمی خوا گۆررین،
 بە کتیبی خوا تیکدان پوو له (ما فی الارض) مەکەن.

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ دواى شوینی شەیتان مەکەن، خۆتان
 هەلمەخەلەتین گوايا ئیمە - رۆسای دین - مالی خەلقى بۆ ئیمە حەلالە،
 بە هەر نەوعیک چنگمان کەوئ حسابمان لەسەرنیە!

﴿إِنَّهُ﴾ شەیتان ﴿لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ بۆ ئیو دوزمنیکی ئاشکرایە، ئەوی
 بە دوزمن هەلخەلەتی، بە هیلاک ئەچی. نەتان بیست بە چ حیلەیهک
 ئادەمی له بەهەشت هینایە دەرەو، له سەر ئەو هەموو نیعمەتە فراوانە،
 ئەو دارە لێی حەرام کرابوو چۆنی بۆ ئارایش و زینەتدا.. نەکەن ئیو هەش
 بەو نەوعە (تسوولاتە) هەلخەلەتین.

﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ ﴾ ئەمرتان ئەکاتئ بەھەرچی خراپ بی
بالباصە (بخیلی) .. ئەوی بخیل بی، تەماعی زۆر ئەبی، حەز لە چاکە ناکا،
کە تەماعیشی بوو، بەھەر حیلەیکە بی، سەعی بو کۆ کردنەوہی دونیا
ئەکا .

﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (۱۳۹) و ئەمرتان پئی ئەکا بلین بە درۆ و
(افتراء علی اللہ) ئەوی کەوا نایزانن. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ ئەگەر بگوترئ بە
ئەوانە، کە اتباعی شەیتانن و مفتیری علی (اللہ)ن ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
تابعی ئەو کتیبەبن، کە خوا ناردووہتی ، چۆنی فەرمووہ وا بکەن، فیل لە
خەلقى مەکەن ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ لە جوابیان دا ئەلین ئیمە
دەخلمان نیە بەسەر، لە سەرچی بوون تبعیەتی ئەوہ ئەکەین، ئەلبەتە بە
خۆرایی ئەو احکامیان بە ئیمە نەگەیاندووہ، ئەوان چاکترین زانیوہ،
نزیکتر بوون لە صاحب کتیبەکە، ئەلبەتە لەویان وەرگرتووہ ﴿أُولَئِكَ
ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (۱۷۰) ئایا ئەوان دواى ئابائی
خۆیان ئەکەون، ئەگەرچی لە هیچ نەگەن .. پئی بە هیچ نەبەن، ئەگەر بابی
ئێوہ سەجدەى بو بت بردبئ، ئیوہیش ئەیبەن؟ ئایا ئەگەر اتباعی (آباء) بو
ئێوہ، ببیتە عذر بو گا پەرست و قالونچە پەرست و پشیلە پەرستیش، ئەبیتە
عذر؟ ئایا چۆن الزامیان ئەکەن بیانکەن بە جوو، یا بە دیان، یا بە
موسلمان؟ ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حال و حیکایەتی ئەو کەسانەى کە
کافر ئەبن بە تقلیدی ئابای خۆیان، لە جواب دانەوہ ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ﴾ وەک
مثلی ئەو کەسە یە، بقیرینئ وەک قەل ﴿بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ بە
غەیری دەنگ و بانگ، چی تر نابئ، قسەکانیان بی مەعنا یە، هەتا
بەعضئ حیوانات لە دەنگ و بانگ تئ ئەگەن، فەرقی خیر و شەر ئەکەن،

بهعضیك ههیه وهك عهلیشیش، حبارای^(۱) گێژو ویژ ده پروا، وه جووره جووریک ئەکا، گێلهکه .. گێلهکه، خۆیشی نازانی ئەلێت چی . ئەو قهومه ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهَمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(۱۷۱) کهررن، لالن، کوپرن له هیچ ناگهن . پاش ئەو خطابه عامه، پروو ئەکاته مسلمانان، چونکه الان ئەوان جئى ئەمهلی مهقصد لهو تهمثیلاته بو ئەوانه، که ههلهنهخهلهتین . ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ بخۆن لهو پرزه پاکه، که ئیمه به ئیوهمان کهرهم کردوه به خهلق و ئیجاد، به قاعده و شرع ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ شوکری خودا بکهن، نیعمهت له خودا بزانی، ئەگهر به فهتحو ظهفه ریش مالیکتان به چهنگ کهوت، ههر له خودای بزانی ﴿إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾^(۱۷۲) ئەگهر ئیوه به راستی عبادهتی خودا ئەکهن، ههر ئەو ئەپه رستن، شوکرانهی نیعمهت بکهن، مهستی سههبای دهوله مهندی مهبن، (تامل) بکهن له لطفی خودا چ وسعهتیکی داوه ته ئیوه، ههتا به شه رعیش چه ند شتیکی کهمی له ئیوه حه رام کردوه، که ئەوانیش بو ئیوه (مضره ماده) (معنی)، ئەمهیش دیسان عهینی کهرهمه ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ حه رامی کردوه له سه ر ئیوه مردار ﴿وَالدَّمَّ﴾ خوین ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ گوشتی به راز، مردار و خوین، هه م مضرن وه هه م طه بیعهت نه فره تیان لی ئەکا، گوشتی به رازیش به عضی دهردی بی دهرمان ئەدات، که ئەطبای به راز خۆره کان هاوار ئەکه ن: ئەی قهومه مه یخۆن . الا به به عضه شرائط نه بی، که ئەویش بو هه موو که س رپک ناکه وئى ﴿وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾^ط والا ئەوی به ناوی غه یری خودا بو غه یری خودا بکوژریته وه، ته عظیمی غه یری خودای پی بکرئ، ئەویش شتیکه دینی نه بیحه یکی ته عظیمی خودای پی بکرئ نه ظر به نه وقی دینی

(۲) حباری: جوژه بالنده بیکه .

له مردار مہنفورتر و له بہراز پیسترہ، وہ له گہل ئہوش ﴿فَمِنْ أَضْطَرَّ﴾
 ئہوی مہجبورکرا، (کانہ) ضہرورہتی حفظی حہیات مہجبوری ئہکا، ئہویش
 ناچار ئہبئ قاعدہی مقررہیہ لہدوو شہرر ئہہون ئیختیار ئہکری ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾
 حالی ئہویش وابئ، طبعاً مہیلی نہکات ﴿وَلَا عَادٍ﴾ تہجاوزیشی پیئہکری،
 یہعنی نہبہ طہبیعت مہیلی بکا، وہ نہ لہبہر حفظی حہیات پیئہکری
 لیئ لادا، ئہو کہسہ ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ گوناہی لہسہر نییہ، وہ پوخصہتہ
 بوی بخوات لہہر کامیکیان بیئ، لہو محرماہتہ، لہ نفی (اثم) نفی حورمہت
 ئہفامریتہوہ، لہحالی ئیضطیرار خواردنی حہرامی بہقہدہر دہفعی
 ضہرورہت واجبہ، (لکن) مہقامی ئیستیعظامی لہ قہضا ئہخواریئ، ئیقتصار
 بکری لہسہر نفی گوناہ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۱۷۳) خودای تعالی عہیب
 پوئشہ، پہحیمہ، حوکمی زہمانی وسعت وہضہرورہت، چوئن وہک یہک
 ئہن؟ ہہتا ئہوی بو غہیری خوداش بکوژریتہوہ (لدی الاضطرار) بو
 بیچارہکانی ئیباحہ ئہکا، (لکن) بہہیچ وہجہ پوخصہت نادا، مقابلی حہق
 بزر کردن، تہحریفی کتاب، شہرع گورین شتیک وہربگرن بویہ ئہفہرمویئ:
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِءً مِّنْ قَلِيلًا﴾
 ئہگہر ہہموو دونیاش بیئ، بہ مقابلی کہتمی حہق کہمہ، (اصلاً - ابداً)
 خودای تبارک وہ تعالی ئہمہ پوخصہت نادا ﴿أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
 النَّارَ﴾ ئہوانہ ناخونہوہ لہ زگی خوئیان، الا ئاگر خواردنی بہراستی لہ ناو
 مہعدہ دایہ، لہوی ہہضم ئہبی ہی ناو زار (دہم) قیمہ کردنہ، مع انہ ئاگر
 بکہویتہ ناو چشتی ئاگرہکہ ئہو ئہخوا ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
 کہسیکی خوشہویستت پیئ بلئ ئہگہر: ئہو ئیشہ بکہی، قسہت لہگہل
 ناکہم، ئہگہر بہ راستی خوشت بویت؟ نایکہیت (ولو) بزانی پوحت

دهرئه چي ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ پاكيان ناكاته وه، هه تا به ئاگریش پاک نابنه وه، تا لئيان ئينقطاع بييت ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۱۷۴) ئه مجا ئه وي مه لاي مسلمانان بي، ته ماشا بکات بچيت قورر کاري بکات چاکتره، با هه زار جار بمرئ له برسان، بوي دروست نييه حه رفيک له قرآن، يا حوکميک له شه رعي خودا بگورئ، وه به خلافي حه ق وه حه قيقهت فتوا بدات.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ﴾ ئه وانه ي ئاياتي خودا به قيمه تي که م ئه فروشن ئه وانه ن ﴿أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ له دونيا ﴿وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ له ئاخره ت. ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (۱۷۵) عه جايب سه بريكيان هه يه له سه ر ئاگر، له دنيا تي يان دايه، له قيامه ت تي يدان ﴿ذَلِكَ﴾ ئه وي زکرا له به رچي يه؟ ﴿بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ خوداي تعالي کتبيي، هه رکتبيي بيي، به حق ناردوه، چ نقصاني نيه، ئيکمال بکري، چي خه راپي تيا نييه، فرئ بدرئ هه موي حوکم و حکميات و عبره، باعثي سه عاده تمه ندي ئينسانه، بوي ئه يگورن؟ ئه وان له خودا عالمترن؟ حسن و قبح چاکتر له يه ک ئه که نه وه؟ ده رحه ق به عبادي خودا به مه رحه مه ت ترن تسهيلاتيان بوبکه ن؟ حه قيان لئ بگورن؟ ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ﴾ ئه واني ئيختلافيان هه يه له کتبيي خودا، خودا ئه و کتبيي چون ناردوه، که لام؛ صفه تي خودايه، چون نه قل و نزول ئه کا؟ خوداي تعالي چون قسه ئه کا، مه خارجي حروفی هه يه يان نا؟ ئه و جا هه ر که س به گویره ي خه يال و فکري خوي قسه ييک ئه لي، ته صويري ئه کا، حقا ئه وه اختلافه، ئه و تاويلاته، ئه و تصويراته، ره ونه قی کتبيي خودا ئه با، ئه و گرؤهه ﴿لِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (۱۷۶) له ناو خلاف و خصام و جه ده ليکي ده وردان به ئه وهام، وه خه يالي خويان ناگه ن به هيچ. براي باوکم، عه زيزي خوم! تو چيته له گه ل ئه م فاک و فيکه، چ معطه ل بوي له سه ر زاناندني

کیفیه تی تکلمی خودا؟ ته ماشای که لامه که چی تیا به قبولی بکه، ته ربیه ی وه ربگره حکمه ت فیربیه، نه تیجه ی ئو جداله ته فره قه یه عه داوه ته هه ر که سه روو ئه کاته طه ره فی، اتحادیان نامینئ، یه کی بو مشرق ئه پروا، یه کی ب بو مغرب ئه چئ، روو له ریگای (وسط) ناکه ن، حاصلی به یه ک مشغول ئه بن، ناگایان له سه لاهی حال نامینئ، وا تی مه گن ئه و خصام و ته فره قه یه باشه، زور خراپه، زور شه ره ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ چاک نی به رووی خو تان بکه نه لای مه شرق و مه غرب (اساساً) مه شرق و مه غرب قبله ی پوژ په رستانه، ئه و که سیکی، که روو بکاته جهاتی مختلف چاک نی به ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ﴾ چاک ئه و که سه یه، که ئیمانی به خودا هه بی به ئیمانی خاوین پی ی له دائره ی عقل نه چیته دهره وه ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ به پوژی قیامه ت به و نه وعه ی، که به یان کرا، (محقق) ئه زانن دئ، ئه مپو یا سبه ی لازم نی به، ئه و علمه عائی خودایه ﴿وَالْمَلَأْتِيكَ﴾ له طه وری ممکناتیان ناکه نه دهره وه (ذاتاً) له پیشه وه دهره جه یان معلوم بوو، چون له کتیبی خودای باسیان ئه کا به و نه وعه ئیمانیان پی هه یه، نالین (بنات الله) ن، مدبرن، رب النوعن ﴿وَالْكِتَابِ﴾ کردویانه به ئیمانی خو یان، اقتدای پی ئه که ن، تبدیل و تحریف و تاویلی ناشیرین ناکه ن، ئه زانن که لامی خودایه، په کی خو یان ناخن، بزنان خودا چونی گفتار کردوه، ﴿وَالنَّبِيِّنَ﴾ ئیمانیان هه یه به پیغه مبه ران له طه ره ف خودا ناردراون انسانن، محتاجی لقمه نانن، شه ریکو کوری خودا نین، فکری رئاسه ت و تسلطیان نی به، وه کو ده جاله (مکاره) ه کان ﴿وَعَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ ته نها ئیمان اکتفا ناکا، له چاکه تی ئه کوشی. مالی چاک له وه ختی حیات و عافیه ت ئه به خشی، ئه یداته ﴿ذَوِي الْقُرْبَىٰ﴾ خزمانی خو ی. ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾ چ له

خزمانی خوی بی، چ بیگانه بی ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ ئەوی له سهر پریان فری دراوه، هه لگراوه که پئی ئە لین: (لقیطة)، یا خود ئەوانه ی له بهر ضه عیفی و شهلای و سهقهتی ناتوانن بگه پین، له سهره پریان ئەکه ون، یا خود ئەوانه ی بو نفعی ئوممهت سیاحت ئەکه ن، خریطه ئەگرن تا (لدى الحاجة) بو ئوممهت به کاربی، ئەمما ئەوانه ی سهرسه ری به میزه ری سپی و سهوز ئەخولینه وه، حرامه مال پی دانیان، ده رگای سفالهت بو ئوممهت ئەکاته وه، عیلم و سیادهت په زیل ئەکا، ئەوانه مجبور بن بو خویان که سابهت بکه ن، داکاسین ﴿وَالسَّائِلِينَ﴾ ئەوانن، که عوزریان هه بی بو سؤال و دهست پان کردنه وه، له دین مبین، تاممکن بی پئی (تسئل) نادا ئەبی. یا حکومت یا ئوممهت علاجی ئەو بی نه وایانه بکه ن ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ مال صه رف ئەکا بو ئازادی ئەسیران، مل له ناو طه وقی عبودیهت، چ مادی، چ مه عنوی، ئەسیری مه عنوی گه لی خراپتره له ئەسیری حسی، ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ به زه ریفی نوپژ به جی ئەگه یینی، پابیهتی اجتماع تیک نادا، (ولو) زوریش گه وره بی له ریزی عه وام پائه وه ستی، نالی ئەوه عیبادهتی عه وامه بوخوا نیه ﴿وَعَائِي الزَّكَاةَ﴾ به خواهشی خوی زه کات ئەدا، به مستحقانی ئەگه یینی، حیله ناکا. ﴿وَالْمُؤْفُوتَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ که عه هدو په یمانیکیان دا به جی ئەگه یینی، (خاصة) له گه ل خودا وه فا به عه هد گرانه .. ئەوی موسلمان بی زور احتیاط ئەکا، یا عه هد ناکا، یا که بیکا به جی ئەگه یینی، ئەگه ر سه ریشی تیدا بچی، به لام مع الاسف سیاسهت (وه فا به عهد) ی نه هیشت به بای دا ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ ئەمه به پاستی خویهتی له مه قامی شیددهت و ناخوشی و زه ره ر، مه تانه تی ئیمان به ده رئه که وی. ﴿وَجِينَ الْبَأْسِ﴾ (خاصة) له وه قتی تووش بوونی شیددهت و ناخوشی ﴿أُولَئِكَ

الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾ ئەوانه ئەوانه (بحق) پاستگۆن له دهعوی ئیمان، ئەوانه هەر ئەوان خۆپاریزن به تهواوی، دوورن له (شرک) و پیا و خیانت و پهزالت و خسهتی نهفس، قورئان بو ئەو نهوعه ئیماندارانه هیدایهته، (حقیقه) خوا و پیغهمبەر و دین ئەو ئیماندارانهیان ئەوی، دینی ئیسلام بهو نهوعه کهسانه پایهدار ئەبی.. ئوممهت به ئەوانه به قوووت ئەبی، باقی یا زهرری (محضن)، یا زهرریان زیاترهله قازانج.

ئهی امنای دین و ئەهی پۆسای دنیا!.. وهی علمای ظاهر و، وهی اولیای باطن!.. ئیوه و خودا تهماشای لهوحهی خاطرێ خۆتان بکهن، لهگهڵ ملاحظهی ئەو ئایهته، ئەوجا بزائن لهو حکمهته باهرانه لهو (تهزکیه) طاهرانه، هیچی تیدا ههیه؟ بهسی یه انصاف چاکه مهلین (هکذا وجدنا آبائنا) بلین (تلك امة قدخلت) له پاش ئەو ئایاتی بینات، که انزاری ئەوانهی، که کهتمی حهق ئەکهن، وه له بیانی ئیمان و کردهوهی پاستگۆیان چهند احکامیکی، که امتحانی ئەهلی ئیمانی پێ بکری ذکر ئەکا، له هه مووی (اهم) حفظی عدالهته له انتقام و تۆله کردنهوه **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبْ**

عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ ئەهی ئەوانهی ئیمانتان هیناوه، بهو ئیمانه پاسته لهسهر ئیوه نووسراوه (قصاص) له کوژراوان یهعنی لهو ههنگامهی ناخۆشییه، که کهسیکتان لێ بکوژری خۆتان بگرن، له عدالهت مهچنه دهه، وهکو کوردی ئەلی: «به قاعیدهی تقاص و تقوص پیکه ل پیک تۆلهی خۆتان بکه نهوه» اولاً یهک به یهک به اعتباری نهفس و به اعتباری وهصف **﴿الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ﴾** (ولو) قاتل پادشاه بی **﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾** (ولو) له اخصی بهندهکانی هه مایون بی **﴿وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ﴾** (ولو) مهلیکه بی و قهصاصیشی لازمه، کهس حهقی عهفووی نییه، بهس حهقی عهفوو بو خواهندهی خوینه. ذاتهن مهقصه له قصاص دهفعی فیتنهیه، که خواهندهی خوین واز له

حہ قی خوئی بھینئی، ترسی فیتنہ نامینئی ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ﴾ کہ سییک عہ فوو کرا (محض) بؤ خاتری خوئی، یہ عنی قہ تلہ کہ لہ عہ داوت و قہ ساوتی دل نہ بوو بی حہ قی کی ہہ بی، کہ چاوپوشی لی بکری اہتمام بہ کوڑانہ وہی نہ کری، بؤیئی ئە فہ رموی: ﴿مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ (کانہ) قہ تلہ کہ (اخوتی) ئیسلامیہی تییک نہ داوہ، ئەو کہ سہ (قصاصی) لہ سہر نامینئی، ئەمما بؤ (جبری)، نقصانی اخووت (دیہت) لازمہ، مہ گہر لہ ئەویشی عہ فوو بکہن ﴿فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ مفسرہ کان ئە فہ رمون: ئەوی عہ فوو ئەکا پاش عہ فوو، عہ فوہ کہ اتباع بکا بہ (معروف)، یہ عنی بہ (دیہ) یہ کی^(۱) کہ لہ لای خہ لوق باش بی، پی دانہ گری بلی زورم ئەوی، مائی زیادہی چاکم ئەوی ﴿وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ ئەوی عہ فویش ئە کری (دیہ) کہ بہ چاکی بگہ یینئی تہ خاوندی خوین، تاخیری نہ کا.. بہ پچر پچر نہ یداتی، ئەمما ئەو مہ عنایہ لہو عیبارہ تہ نافامریتہ وہ و، ادای مہ عنای ئەم ئایہ تہ بہو تفریقہ، لام احسانی تی دا نییہ، ظاہر وایہ ہر دووکی عائی عہ فو کراو بی، یہ عنی مقابلی ئەو عہ فوہ، کہ حہ یاتیکی تازہ ئەدا بہ قاتل، حہ ق وایہ ئەویش مقابلی ئەو احسانہ، دؤستی بکا لہ گہ ل خاوندی خوین، تواضعی بؤ بنوینئی، بیلاوینئی تہ وہ بہ نہوعی، کہ ہیچ کدورہت لہ خاتری دا نہ مینئی، بی ئەوہی، کہ ئەو داوا بکا (دیہ) ی کوڑراوہ کہ بہ تہ واوی و بہ زہریفی بہو برایہ، بہو جوانمہ رده بگہ یینئی.

﴿ذَلِكَ﴾ ئەو حوکمہ ﴿تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ تخفیف و مہرحمہ تییکہ لہ تہ رہف خوداوہ، وہ الا ئەبوایہ پری عہ فوو نہدا، چونکہ متانہ تی ئیمان، اخوتی ئیسلامیہ، وا لہ قہزا ئەخوای، کہ ئەہلی ئیمان ہہ تا لہ وہقتی (فورانی غضب)، خوئی مہن بکا لہ کوشتنی برای خوئی، دیارہ ئەو نہوعہ

(۱) دیہ: ئەو پارہ و مالہی لہ جیاتی خوینی کوڑراوان ئەدري.

قاتلہ ئیمانی زور مہ حکم نیہ و، قابلہ امنیہ تی پی نہ کری، بہ لام بہ
 ئہ مہ لی ئہ وہ، کہ ئہ و انفعال و تاثر و خہ جالہ تہ، ئیمانی وا بہ قووت بکا
 غالب بی لہ سہر قووتی غضب، جاری تر نہ ہی لئی (قتل) ی لئ صادر بی،
 پئی عہ فوو درا ﴿فَمِنْ أَعْتَدَى﴾ لہ ہر دوولا ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ پاش ئہ وہی ذکر
 کرا لہ عہ فوو و (دیہ) دان لہ یہ ک بکوژن، دیارہ نہ عہ فووئ ئہ و لہ بہر
 اخوتی ئیسلامیہ . نہ قتلی قاتل، دوستی، ئہ دای لہ معذرہ تیکی مقبول
 نیہ لہ بہر ئہ وہ ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿۱۷۸﴾ بہ عضیک ئہ فہرمون: قاتلی پاش
 عہ فوو الا ئہ بی بکوژریتہ وہ و، پئی عہ فوو نیہ، ئہ ممما (مختاری جمہور)
 ئہ وہیہ، کہ پئی عہ فوو ناگیری. دیسان ئہ گہر خاوندی خوین عہ فوو
 بکا، شہر قبوولی ئہ کا. ئیمامی شافعی و ئیمامی مالک ہر دووکیان لہ سہر
 ئہ وہ نہ، مقصود لہ (عذاب الیم) عذابی قیامہ تہ.

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِی الْاَلْبٰبِ﴾ حہ یاتی دنیا و ہ کوو ہ موومان

ئہ ی بینین زور ناخوشہ .

(ابو علای معری) ئہ لئ: ئہ وی لہ سہر مہرگ ئاوزنگان ئہ دا، ئہ وہ تالاتی
 حہ یات (قہی) ئہ کاتہ وہ . وہ گہ لئ کہ س مردن بہ دہرمان ئہ زانن بؤ دہردی
 حہ یات، شہریعہ تی طبیعت، تا ئہ مپؤ تنظیمی حہ یاتی نہ کردوہ، لہ سہر
 ئہ و ناخوشی یہ، بہ شہر بہ (شہر) زیاتر ناخوشی بکا شایانی عہ قل و
 ئینصاف نیہ . حوادثیک، کہ خہ لہ ل بہ امن و نظامی عام بگہ بینئ متوالیاً
 ئہ بی بؤ مہ نعئ انتشاری فساد چارہ سازی یہ ک بکری، بؤ بی عقلای ئینسان
 پئیان بہ تہ شکلی حکومت بردوہ (آہیون، طبیعیون) ئہ و تہ شکلیہ یان لہ
 ضروریاتی حہ یاتی اجتماعی دیوہ و، ئہ فرادی حکومت طبعاً مقدس نین،
 ئہ وانیش بہ شہر ن میولی فاسدہ یان ہ یہ، بؤ بی احتیاجیان دیوہ بہ
 قانونیک، کہ اکمالی ئہ و تہ شکلیہ بکا. بناءً علیہ ئیجاب ئہ کا واضعی قانون
 بی مہیل و محابا، صاحبی وجدانی پاکبی بہ احوالی پوحیہ ی ئینسان

خه بهردار بی، ئەو جوړه به شه ره له هه موو زمان زور که من، (خاصةً) له عهصری حضارته و مدنیته، محقق بزانه ئەمپو له شەرق و غەرب، له شمال و جنوب، له قطعاتی خمسه ی ئەرض یه که ئینسانی تیدا نی یه به وجدانی (نزیه)، به قلبی پاک له مهیلی دین، طائفی، مذهبی، حزبی هه بی، هه ر قانونیکی دایبنین خالی نی یه له مهیلی فه ساد. به لافو گه زافی (سیاسیون) هه لمه خه له تین ئەوان له هه موو که س غه شیان زیاتره، ئیمه بوئی ئیمه ئەلین (لا بد) شارعی قانون ئەبی خودا بی، که رب العالمینه، ئەسراری عباد، مهیلی صلاح و فه ساد به ئیمه بگا، ئەو ذاته به چاوی بی فه رقی ته ماشای خزمو بیگانه بکات و، په وشتی عالم شاهده که به شه ره له هه زاری، تۆسه دو نه وه د و تۆی به ترس نه بی اصلاح نابی، که وایی ئەگه ر که سیک به زولم و (تعدی)، به تصور و تصمیم که سیک بکوژی، بو پر بوونه وه ی ئەو برینه له هه یکه لی اجتماعی چی چاکه بکری، (حقوقیون) تا ئەمپو دوو فیرقه ن:

فیرقه یه که: ته ره فداری (قصاص) نین، ئەلین: قاتل اصلاح بکری به هه بس، خه لقیش له شه رری ئەمین ئەبن، ئەویش پاشماوه ی هه یاتی امرار ئەکا له هه پسخانه به ساکتی و سالمی، (کانه) که چووه هه پسخانه ئەبیته پیایو مقدس، چاک و پاک. فیرقه ییکی تر، ته ره فداری اعدامن، ئەفه رموون: ئەو جوړه قاتله ازاله ی وجودی نه کری، ئەو برینه پرر نابیته وه، جه نابی هه ق، که خوئی (اعلم العالمین) و (احکم الحاکمین) ه، ئەو فکره ته رجیح ئەکا و به یانی سببیشی ئەفه رموئ به نه وعیک، که ئەوی صاحبی وجدان بی، تصدیقی ئەکا و، ئەفه رموئ: له و نه وعه قصاصه عادلانه بو ئیوه هه یاتیک هه یه، ئەمما چ هه یات؟ هه یاتیک، که وه صف ناکری بو ئیوه، ئەی خاوه ندی عه قلی خالص و پاک!

(حقیقةً) ئەوی صاحبی (لب) بی، تصدیقی ئەو حوکمه ئەکا، ئەزانئ برینه وه ی نزاع، کوژانه وه ی فیتنه، ئارامی دلئ خزمانی مقتول به لکو

استراحتی ظاهری قاتل له اعدامی دایه، ئەو نهوعه قاتله ئەمەلی اصلاحی لئ ناکرئ، تا وهکو فطره تی بشریه ی (بالکلیه) ملوٚ نه بووبئ، اقدام له سەر نهوعه قهتله ناکا. ئەو نهوعه کهسه دهسته لاتی به سەر هه رکه سیک دا ببئ، لاشک ئە ی کوژئ، بۆی خودا ئە فه رموئ: «ئەوی نه فسئ بکوژئ، کانما هه موو که سی کوشتوو» مانعی فطری، دینی له دلئ دا نی یه ئەو حه یاتیه ی قاتل له حه پسخانە دا رای ئە بویرئ، ئە گەر له گه ل عه ذاب و (اعمالی شاقه) بئ، مردن گه لئ خو ش تره له و عه ذابه دوور و درێژه، ئە گەر خزمهت بگرئ له بالاخانه یی هه وادار، مینابه ند، ناظر له سەر باغ و باغات، ئیواره و سبهینه بئ رهنج و (تعب)، له کیسه ی ئوممهت حتی له مائی ئە یتامی مقتول، سفره و شیلانی بۆ پرا زیندریته وه، به که وچک و چه تال (محله بی) فرربکا، گوشتی سورکراوه نۆشی گیانی بکا. غایه مافی الباب فیری به تانیه دروست کردن و، کیفه سعاتی منقش و کلاوی قولابه چن ببئ و زه مانی حه بسیشی ورده ورده که م بیته وه به عه فووی شاهانه، جلوسی ملوکانه، ولاده تی همایون، انقلابی سه لته نهت. به مه رگی مه لیک و دانیشتنی مه لیک، به موژده ی (فتح) و پیروزی، به و نهوعه حه پسه چۆن اصلاح ئە بئ؟ اولاد و اقاریی مقتولی مظلوم له و حه پسه، چ فه رامۆشی یه کیان پئ دئ، خه لقی دی چ عیبره تی ئە گرئ، حاصلئ ته جروبه شاهده، که فکری فیرقه ی اووه ل، فکریکی فاسده، ئە گەر مه لیک ئە مر بکا مه صره فی ئەو مجرمانه له سەر ئەو صاحب مه رحه مه تانه بئ، عجباً ئەو فکره یان ئە مینئ؟ ئەو نهوعه کهسه ئە گەر معاش خو ری حکوومهت بئ، نزیک ی سه ری مانگ پاره له صندوق دا نه بئ حکوومهت بۆ تامینی معاشی افندی گوشت و پیست له ره عیه بکاته وه عجا افندی دلئ پئ ی ئە سوتئ؟ (حاشا..ثم حاشا).

که سیک بچئ بۆ که سابهت، به ئەمەلی قازانجیک بیته وه بۆ جه ژن، پلاوی بۆ مندالانی خو ی دروست بکا، چ نه بئ سه رو کراسی چیتی سوریان بۆ بکا، وقتاً ئەو سووره ساقه تانه ئە بینن ناگاه، لاشه ی بابیان به می شکی پرژاو،

بهسنگی شەق کراو، به زگی درراو، به جەرگی پارچه پارچه کراو بۆیان بێتەوه، ئەو تەرەقدارانەى مجرمەکان، ئایا دوو قران ئەدەن بۆ ئەو مایوسانە؟ بۆ ئەو دل سووتوانە بدەن بە جلک، چیشتی جەژنیان بۆ لێنین.. پینچ شەش فلسیان بدەن، بچن بۆ جۆلانە و چەرخ و فەلەک. هیهات! هیهات! پۆلێکی خۆی بە حەياتی هەموو بەشەر نادات، وهکو مەسەلی کوردی «کفن به من بېرړی، مردوو گۆرر به گۆرر چي».

تەجەب ئەوێه بهعضیک موسلمان به سەفسەتەى ئەو محامیانە هەل ئەخەلەتین، (طعن) له دینی خۆیان ئەدەن، نازانن ئەوانە بقیەى ئەو مفسدانەن، که پێیان خۆش نیه هیچ خێریک له تەرەف خوداوه بۆ ئیمه بێ. عجیبترین ئەوێه علمای تەفسیر و بەلاغەت، سەعی ناکەن بۆ تەئیدی ئەو ئایەتە، بۆ اجرای ئەو معدلتە، خەریکن مقابلهی ئەو ئایەتە کریمە ئەکەن له گەل مەتەلۆکیکی عەرەبان (القتل انفی للقتل) بەسەد (چک برده چک برده) مەنع و معارەضه، گۆیا اثباتی ئەکەن ئەو ئایەتە بەلیغ تره لهو عیبارەتە، (مع انه) ئەو کەلامه کەلامیکی زۆر بێ تامه، ئینسانی بالغ شەرم ئەکا بەرابەر عیبارەتی قورئانی ئەو قسە پرۆ پووچە بنوسی، پاش ئەم طول و تفصیله، عەرض ئەکەین مع الأسف موسلمانان لهو امتحانە دەرنهچون، له پاش (فاروقی أعظم) تا ئەمڕۆ پەئیسیک به مرؤسیک، به قوووتیک به ضعیفیک، دەستەلاتداریک به بێ دەسەلاتیک نەکوژراوه تەوه. وجودی مسعودی سەرکاری ئاغای خۆش بێ، با سەد هەزارکەس لهوسه گه گەررانه بکوژئی، چ ئەهمیهتی ههیه، ئەم حوکمی قصابهش ئەنجامی دێ به

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۱۷۹) به ئومیدی ئەوهی خۆتان پپاریزن له قەتلی ناحەق.

دووهم: حوکم له ئەحکامی امتحانی، حوکمیکه تعلقى ههیه به مردن و رهبطی تهواوی ههیه له گەل ئایاتی (واتی المال علی حیه) که له ئایاتی

صادقینه ئەفهرموئ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ نووسراوه،
 تثبیت کراوه له تهرهف جهنابی کبریائی وهقتی، که یهکیک له ئیوه
 عهلامهتی مردنی لهسهر ئاشکرابوو و، کهوته سههرمههرگ ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾
 ئەگهر بهجئ بهیئئ مائیکی، که شایان بی، پیئ بلین خیر، یهعنی زوریئ
 بهگۆیرهی حالی مردوو و وهرهئهی پیئ بلین زوره. چی تان لهسهر
 نووسراوه؟ ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ ۱۸۰. ئەو
 حوکمه ثابتە و حهقه لهسهر خۆپاریزان، که نیهایهتی مهترهبهی صادقانه.
 علمای ئیسلام نظر به مهعناي ئەو ئایاته سی فیرقهن:

۱- بهعضیک ئەفهرموون له صهدری ئیسلام وهصیهت له وارشان دروست
 بوو، پاشان به ئایاتی ارث و قهولی رسول (لا وصیه لوارث) نهسخکرایهوه.
 ۲- بهعضیک ئەو وهصیهته بۆ دایک و باوکو خزمیکی، که بالفعل ارث
 له مردوو ئەگرئ، (ولو) له بهر کفریش بی له وههنگامه دا، صلهی پهحمیان
 لهگه ل بهجئ بهینن، پۆژی دیداری آخرته با (بالمرة) قطعی مناسبه له
 بینیی دا نهبی، ئەو حوکمه ثابتە زۆر جوانه، که باوکو دایک، خزم و اقارب
 له مائی مردووی خۆیان مهحروم نهبن.

۳- بهعضیک ئەفهرموون ئەو وهصیهته، ئەو عهده له تهرهف خودایه،
 یهعنی عهدهی خودا ئەوهیه وای لهسهر ئیوه نووسیوه، که خیری (متروک)
 بۆ والدین و خزمانی نزیک (الأقرب فالأقرب) بی، دواي ئەوه به (ئایاتی
 مواریث) ههر کهس بهیانی حهقی خۆی بۆ ئەکرئ، ئەو دوو فیرقهیه ریک
 کهوتوون لهسهر ئەوه، که ئەو حوکمه نهسخ نهکراوه، وه له کهلامی
 مهلايهکی محقق ئەفامرئتهوه، مقصد لیره تهقسیمی میراڤه لهبهینی وهرهئه،
 بهلام جهنابی حهق تهقسیم کردنهکهی (تفویض) و سپاردهی ئوممهت
 کردوو، ئنجا پاش ئەوه ئەو تفویضهی نهسخ کردوو، خۆی تعیینی
 سهامی وهرهئهی فهرموو، (کانه) ئەوه رینگهیهکی (وسطه)، له بهینی

نه سخ و (تثبیت)ی ئه و حوکمه .

بی گومان مه عنای ئه و ئایه ته و دوو ئایه ته ی دواپی، به اختلافی ئه و په ئیانه ئه گورری، مع الاسف عالمه کانی ته فسیر حوکمیکی وایان له و ئایه ته (تلقی) نه کردوه و، وهرنه گرتووه، که به ته واوی فهم بکری، ئه و جا بزانیان عه مه لی پی ئه که یان یان نا .

ئیسنا چند که لیمه یه ک ده رباره ی (نه سخ) عه رض ئه کری، دواپی پوو ئه که یه مه عنای ئایه ته کریمه که . (نسخ) له زمانی عه ره بی دا، به مه عنای لابردين، ته غییر، ابطالی چشتیکه له گه ل دانانی چشتیکه تر له جی ئه و، وه کوو صاحبی (قاموس) ئه فه رموی، ئه ماما له (صباح) و کتیبی ته فسیرو اصول، ئه و زیاده مان نه دیوه بلئ: (نه سخ) حوکم بی به ده ل دروسته، یا دروست نی یه، اصولی اختلافیان تی دا هه یه، به لام ئه مه عائی (لغت) نی یه، نه سخی ئایه ت ازاله ی حوکمی ئایه تیکه به ئایه تیکه تر، که ئه و دوو ئایه ته حوکمیان به نه وعیک مخالف بی، اصلاً چاره نه کری، وه کوو تناقض حوکمیک بی، نابئ و نه وی تر ببئ، حوکمی دواپی پیشی ناهیلئ و مه حوی ئه کاته وه، سوادی اعظم له علمای ئیسلام ئه فه رموون: نه سخ له قورئان دا هه یه به عضیکیان به زوری، به عضیکیان به که می، هه تا ممکن بی بو نه سخ ناچئ له جومله ی ئه وان هه (ئیمامی شافعی) چند ئایه تیکه مه لایانی پیشوو فه رمویانه (منسوخته) ئه و (تثبیتی) کردووه و مه عنایه کی باشی لی داوه ته وه، مفسری مه شهوور (ابن جریری طبری) یش له سه ر ئه و فکره یه، (مجددی مصری) یش به و ری یه دا پویشتووه .

ئه ماما (ابومسلمی اصفهانی) ئه فه رموی: اصلاً (نه سخ) له قورئان دانایه، به عضی عالمانی اصول ته ئویلی فه رمایشی (ابومسلم) یان کردووه، ئه ماما له گه ل مه شره پ و مه زهه بی ابو مسلم موافقه ناکا و، بنا به فیکری (ابومسلم) یش اصلاً خه له ل به نبوو ته ی رساله ت په ناه ناگا، به لکوو مه قصدی ابو مسلم محافظه ی شه ئن و شه ره فی قورئانه، عیلمی (من انزل

القران) فہضلی (من انزل علیہ القرآن) لہ ہر ئایہتی، کہ فہرموویتیان منسوخہ، مہعنائیکی پاکو بہ (دقتی) لی داوہتہوہ، کہ اصلاً قابیلی تغیر و ازالہ نہبی، مع الاسف تہفسیری تہو مفسری عظیمہ لہ بہینی موسلمانان ضایع بوہ .

(فخری پازی) لہ بہعضہ جی، نہقلی لی فہرموہ (بعضاً) - حسب المذہب - پروی کردوہتہوہ علمای (سیر) - سیرہتی نبوی - تہفہرموون بہ اجماعی أصحابی رسول قورئان کؤکرایہوہ، بناءً علیہ ناییتہ ذہن ئایہتیکی بیحوکم بہاوینہ ناو قورئان. حوکمیکی ثابت، عبارہتی لہ قورئان دا نہہیلن. لای من وایہ تہوی لہ مابینی دوو بہرگی مصحف نووسراوہتہوہ، ہیچ منسوخ نییہ! بہلی بہعضی احکام بہ طبیعہتی حال رائہوہستی، بہلام (الی الأبد) بی حوکم نامینی، بوئی حہضرہتی پہسول، یارانگی گزین، تہو ئایہتانہیان ہیشتوہتہوہ، تاوہکو پؤژی خوی بو ئوممہت بہکاربی.

تہمپؤ گروہی بی دستہلات لہ موسلمانان ساکنی (لوندہرہ)، متوطنی پاریس، نشیمہنی بہرلین، دہرحق بہ دوژمنانی قوی چی تہلین؟ دہلین «لکم دینکم ولی دین، ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلہا، واعفوا واصفحوا» عجباً تہمریان تہکریتی بہ؟ «واقتلوہم حیث ثقفتموہم، واضربوا منہم کل بنان» حاشا، ثم حاشا حوکمی لہ وہقتی عز و شکوہ و سہلتہنہت، لہ گہل حوکمی لہ زہمانی فقر و ذیللہت و مہسکہنہت، چؤن وہکوو یہک تہبی؟ زؤر لہ یہک دوورن. حوکمیکی جہنابی کبریائی بو حہضرہتی رسالہت پہناہی بنیری، چؤن نہسخی تہداتہ دہست جہنابی نبوی، حوکمیکی ئیلاہی ثابت و مقرر، چؤن عیبارہتی لہ قورئان دا ناہیشتریتہوہ؟ حاصلی ہیچ نہبی وہکوو (ئیمامی شافعی) بہ زؤری پئی نہسخ نہدری باشہ، مع الأسف تہمپؤ سہبہب بہ تعصبی علمایانی مہذہب و، بی تہفریقی زہمانی (صعود و ہبوط)، شریعہتی اسلامیہ بالکلیہ سقوطی کردوہ، ہہتا دہولہتہ ئیسلامہکان بو (محاکم) قوانینی اجنبی

وهه گرن و حوكمی پی ئه كه ن، و له گه ل ئه وه یش ئیمه خه ریکین، ئایا نه سخ له قورئان دا هه یه یان نا؟ عجباً ئه وانه ی، كه ئه فه رموون ئه و حوكمه منسوخته ئایه تی کریمه ی ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ مه عنای چۆن لی ئه ده نه وه؟ دیاره ئه مه حوكمی کی ثابت و مقرره، كه وابی كه سیك تبدیلی ئه و حوكمه بكا له پاش ئه وه ی، كه بیستی گوناھی نی یه الا له سه ر ئه و كه سانه یه، كه تبدیلی ئه كه ن. گۆررینی ئان زیاده له ته ره ف پۆسای دینه، خه لقی ئه گۆررن نه هیلن له به ینی موسلمانان (جریان) بكا به ره به ستیان لی ئه كه ن؛ «عزیزم: مالی خۆت بو دوژمنان به جی مه هیله .. نه ذری فلان كه سی بكه، بیده به خودا، اقرار بكه ئه وه مالی فلان زاده، اقرار بو غه یری وه ره شه به اتفاقی مذاهب قبووله ..».

خلاصه به ئه نوعی ته سوویلات، ئه و قورر به سه ره هه ل ئه خه له تینن، اولاً سلبی عه قل، دواپی سلبی مالی لی ئه كه ن، عائله ی په ریشان یا ئه كه ونه بن ده رگیان، یا ئه مرن له برسان، په حمیکیان پی ئه ناكه ن، له محصولاتی مالی خویان حقه نانیکیان بده نی. ئه و نه وعه حیالانه ته ئریخی عالم شاهده، تا ئه مپۆ فه ردیکیان فلسیکیان نه کردووه ته وه صیه ت و نایکه ن، عجباً ئه و نه وعه كه سانه نازانن؟

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (حقیقه) كه سیکی ئیمانی هه بی، كه خودای تعالی سرته ی قسه ئه بیی و ئه گاداری ما فی الضمیره، ئه و نه وعه تزویره ناكا، پی له موسلمان ناگۆرری.

﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ كه سیکی ئه هلی (تقوی) بی، له گه ل خوداو عبادی خودا ئه مین بی، بترسی له و كه سه، كه (وصیه ت) ئه كا، چ له سه ره مه رگ، چ له حاللی صحت و عافیته ت، كه مه یل بكا له حه ق، یان گونا ه وصیه ت له ئه ندازه به ده ربكا، له مالی خوی بچیتته ده ر، به تسویل و وه سو سه ی ئه و نه وعه ئینسانانه یا له به ر پقی. بی مه یلی یه ك له گه ل

مندالی خوی - فرضه خزمهکانی دلایان په نجان دووه، بی مهیلیان له گه ل کردووه .

﴿ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ﴾ ئه و جا ئه و موسلمانان، بچی به وه عظ و نصیحت، به ینیان چاک بکا «عفی الله عما سلف» وه قتی انتقام نی یه، هه تا ئه گه ر ئه و خزمانه کافریش بن، محرومیان مه که .. پوو ئه که یه خودا دلت غه ل و غه شی تیدا نه بی، خودا ئه مری کردووه به صله ی پرهم، ئه و وهره ثانه دوژمنت نین، تو قطعی «ما امر الله ان یوصل به» مه که .

﴿ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ ﴾ ئه و که سه هیچ گوناھی له سه ر نی یه، بو که س نه هاتووه اعتراضی لی بگری، چیت به سه ره وه یه، بو خوی تی هه ل ده قوتینی؟! ئه وی موسلمان بی، ئه هلی صلاح بی، ئه وی خیر بی بو موسلمان، ئه بی خه ریکی بی با مه نفعه تی خصوصی خویشی تیدا نه بی هر ئه وه نده گونا نه بی کافی یه بو تعقیبی . ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ خودای تعالی گونا نه دانه پویشی، صاحبی لطف و مه رحه مه ته، ئه وی موسلمان بی، اقتدا به خودای خوی ئه بی، سه عی بکا له عه یب پویشینی موسلمانان، له اظهاری مهیلی فاسد، پرهمی به بی دهسته لاتان ئه که ن، ئه وی خودا حقی دابیتی، سه عی ئه که ن بو پی گه یشتنی، مع الأسف موسلمانان له و امتحانه ش ده رنه چوون . (الآن کان کما کان) داخلی کتبی شه رعی کرا، مه لای گه وره گه وره فتویان پی دا . ئه م ئایه ته به مناسبه ی ماقبل و مابعدی، ئه بوایه وایی (کتب علی الذین یحضرهم الموت منکم الوصیة) ، به لام ئه گه رچی مه سئه له نوعاماً خصوصیه تیکی هه یه، به لام بو مه نع ی ئه و نه وعه فه سادانه، که به یان کرا ئه بی هه یئه تی عمومی، بو ارشاد و دلالت مداخله یکیان هه بی، ئه و جا بو یی ئه فه رموی (کتب علیکم) ، به لام مع الأسف حوکمه که رعایه ت نه کرا، هه تا حیکمه ته که ی رعایه ت بکری .

سی یه م: ئه مریکه عاندى صبر، تحملی مشاق، زورانی له گه ل نه فس گرتن،

خوگرتن بہ خوشونہتی عیش، گوئی نہدان بہ برسیاہتی، کہ امتحانی
موسلمانانی پیئہکا و قابلہ شکستی پیئہ بیئہ تہقہ .

﴿ **يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** ﴾ پوژوو لہسہر ئیوہ
نووسراوہ ﴿ **كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ** ﴾ وہکو لہسہر ئوممہتہکانی
پیش ئیوہ نووسراوہ، یہعنی حوکی صیام قدیمہ لہشراعی پیشوودا ہہیہ،
تہکلیفیک نییہ تازہ . زانیمان ئہوان چییان کرد، بزانیئہ ئیوہیش
چیئہکن؟ بویئہ نووسرا لہسہرتان ﴿ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ﴾ ﴿ ۱۸۳ ﴾ بہلکہ خوٹان
بپاریزن لہ لڈانڈ، لہ نہوسنی، چلیسی پیتان بکریئہ نہفسی خوٹان تربیہ
بکہن، پام بیی لہ ہہواو ہہوہس، بیگیئررنہوہ ﴿ **أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ** ﴾ پوژوی
چہند پوژویکی ہہلبژاردراو، چہند پوژویکہ، چ ہہمیہتی ہہیہ بوئیوہ؟! ئہو
چہند پوژوہ بہ پوژووہ بین، بالخاصہ پوژوی ئہو (ایامہ معدوداتہ) لہسہر بیئہ
معذرہتانہ . ﴿ **فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا** ﴾ ئہوی لہ ئیوہ ناساغ بیئہ ﴿ **أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ** ﴾
یا لہ سہفہردابی، یا لہسہر سہفہربیئہ ﴿ **فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ** ﴾ چہند پوژویکی
تر لہ پوژوانی صحتہو (حضر) بہ پوژووہ بیئہ ﴿ **وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ** ﴾ بنا
بہ فہرمایشتی مہلایہکانی پیشووہ ئہلین: لہسہر ئہوانہی، کہ تاقہتی پوژووہ
گرتنیان ہہبی، ئہگہر بہ پوژوی نہبن، (فدیہ)یان لہ سہرہ، لہ پہنای خوئی
بہ ئایہتی (فمن تطوع خیرا) نہسخکرا . مہلایانی شافعی مہذہب بہ ئہمہ
پازی نین (الایہکی ئہہاوینہ سہر، بہلام (مجددی مصری) ئہفہرمویئہ:
(اطاقہ)ادنی دہرہجاتی مہکنہت و قودرہتہ، عہرہب نالین (اطاق الشیء)
الابو کہسیک، کہ بہ عنایہتی جہد و سہعی و تیگوشین ئیشہکہ بکا، بناءً
علیہ، مہعنای ئہو ئایہتہ وایہ «لہسہر ئہوان کہسانہی، کہ ناتوانن بہ پوژوی
بین، الا بہ مشقتی تہواو، کہ نہایہتی قووی لئہ صہرف بکہن» .

﴿ **وَذِيَّةٌ طَعَامٌ مِّسْكِينٍ** ﴾ فدیہیان لہسہرہ طعامی مسکین، ئہگہر ممکنیان

ببی، ئەمەیش وهکوو پیری افتاده، ژنی شیردهر، سهپان، عهسکه لهزهمانی
حهربدا.

﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ ئەوی زیاتر لهطعامی مسکینبدات ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾
حهسه نهئیکه بۆ خۆی ئەکا، شرعا لهسهری نییه. یاخود ئەوی به طبع و
مهیلی خۆی زیاد له (ایامی معدودات) به پۆژی ببی خیره بۆ ئەو، زۆر
باشه، چاکه، نهفس زیاتر خۆی تعلیم ئەدات، له وهقتی لئقهومان صبری
زیاتر ئەبی لهسهر برسایهتی.

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ئەگەر ئیوه به پۆژی ببن ئەی ئەهلی ئیمان،
له دنیا و قیامهت خیر و نهفعی بۆ خۆتانه، ئەگەر (تبسط) بکهن لهخواردن
له ههردوو سهرا، زهرهه ئەکهن وا ئەبی به قهرزاری ئەمرن.

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (۱۸۴) شیوهی قورئان له تکالیف دانان زۆر غهریبه،
محیره به نهوعیکی تهسهیلی ئەکا، شهوقیکی ئەوها له سامعین پهیدا ئەکا،
که به کمالی نهوق و نشاط بۆ بهجی هینانی ئەمرهکه، حازر و ئاماده بی،
ههتا ئەوی نهشتوانی بلی ئەیکه م بهسهرچاو.. قبولمه ههه ئەوهندهیه تعین
طلب ئەکا لهخودا، ئەوجا جهنابی کبریائی، حوکمهکهی بۆ (معین) ئەکا به
گویرهی خۆی، ئەوجا بزائن ئەو (ایامه معدوداته) عبارته له مانگی
په رمضان.

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ مانگی پهههزان ئەو مانگهیه، که
قورئان دهبارهی ئەو، یا له ئەودا نازل بووه ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ ئەو قورئانهیش هیدایهته بۆ (انام)، بیناتی واضح و
ئاشکرایه، نهفس خۆی هۆدایه له هیدایهتدا به نهوعیک، که ئینسان بهتی
گهیشتنی خهریک نابی له عمل پئی کردنی. بیناتی واضحه له جودا
کردنهوهی حهق و باطل قورئانیکی ئەوها که ئەمرتان بکاتئ به چشتیک

ئىجاب ئهكا درحال امتثالی بکهن، ياخود مانگيک که ئه و قورئانه عظيم الشانه، تئيدا نزولی کردبی حقی ئه و به احتفالی بؤ بکهن، احترامی بگرن، کلی سال له مثلی ئه و شهره به تزکیه ی نه فس، به قیرائت و ترتیلی ئه و قورئانه خه ریکبین، بؤیئ له زه مانی اول، شهوی په مه زان (خاصه) له ته راویح قورئانیان زؤر ئه خویند، سوپه تی گه وره گه وره یان (جهراً) له پکعت پکعتی نوئژ تلاوت ئه کرد، معظمی صه حابه قورئانیان له نوئژدا وهرئه گرت و له به ریان بوو.. ئه مپویش، که ئیمام (علی التوالی) مکرراً (انا أعطینا ولایلاف) ئه خوینی، هر که سیکی شه ویکی ته راویح بکا، به لکو ئه و مندالانه ی، که له گه ل بابیان ئه چنه مزگه وت (انا أعطینا ولایلاف) یان له بهر ئه بی.. مه بادا توهمی ئه وه ی بکری، پاش تعینی په مه زان پؤژی بوونی له سه ر معذور، غیره معذور قطعیه .

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ئه وی حضری بی له مانگی په مه زان به رؤوو بی ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا﴾ با (حضر) یش بی ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ با ساغیش بی ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَكْمَرٍ أُخْرٍ﴾ به عضیک علما ئه فه رمون: پؤوو بوونی ئه و چه ند پؤره (ادایه) ، ئه گه ر پئی بلیین (قضا) مجازه به مناسبه ی ئه وه، که به قه دهر ئه و پؤژانه یه، که له په مه زان دا نه یگرتوو و هم ئه و شه وقو نه وقی، که له ئایاتی سابق بؤ موسلمان په یدا بوو به نه وعیک حه ره که ی پئدان بؤ (پؤژی بوونی) په مه زان، که ئاگیان له پوخصه تی سابق نه مینی، ئه گه رچی پیری ئیفتاده بی و له سه فه ردا بی، هه تا سه فه ری حه رب به قه تعی به پؤژی بی، بؤیئ دووباره ئه وانه ی (استثناء) کردوو، (فی الحقیقه) مه قصه د به (ریاضتی) پؤژی ئه وانه ن، که حضری و به تاقت بن، ئه وانه بن که شه ئنی مصارعه و مصاده مه یان بیئ له گه ل نه فس، تاکو اعتیاد بکهن به تحملی مشاق، ئه مه یش بؤ ایامی حه رب زؤر لازمه ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ بؤیئ ئه گه ر چشتیکی گرانتان

لهسه ر دابنێ، له ئهوهوه لهوه ورده ورده فییری تحملی باری گرانتان ئهكا، تا لاتان ئاسان و سووك بێ.

﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ مهقصه دی ئیلاهی له وه صفی ئهحکام، عهذاب و مشقهت و تضییق نییه ئوممهتهکانی تریش هه ر وا بوون، بهلام خۆیان باری خۆیان گران کردووه، ئیوه پهیرهوی ئهمری خودا بکهن به تهتبعی ئاشاری ئوممهتان خۆتان هه ل مهخه له تینن و، هه م ئهمر به صومی مانگی رهمهزان له بهینی سائری مانگهکانی تر، مزیه تیکی تریشی هه یه .

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ بۆ خاتری تهواو کردنی (عهدی ایام) به اتصالی مانگی پۆژوو به مانگهکانی حه جی (بیت الحرام)، حه جیش بێ مشقهت نییه، یه که م سهولهت نواندنیکێ پی ئه وئ، به تایبه تی لیڤه ههروه کوو نوپژ کرا به مقدمه بۆ فه تی (مکه)، پۆژووش داندره بۆ (تحملی مشاق) له پئی فه تی به یتی خودا.

سبحان الله لهو نهظمه غه ربیه، زه مان و عبادات و سه هل و گران، عه زیمهت و پخصهت پیکه وه ئه هونیتته وه، به س ماوه نهظمی ئیوه ئه ی موسلمانینه له مو لکی اطاعهت .. هه تا بۆ په بطی دوو زه مان، ئه وه لی پۆژی (شوال) به جه ژن داندره وه .. به لام ئه سراری نهظمی قورئان، کئ تی ئه گا؟ خصوصه علمای (مه ذاهب، نحو، و بلاغه) له بهر چکبرده، چک برده ی خۆیان ئاگایان له نهظمی قورئان نه ماوه، به لکوو له به عضیک جئ ی ئه وه ی زۆر منتظمیشه، پچرر پچرری ئه کهن، بویئ تهفسیری منظومیان پی نه کراوه .

﴿وَلِتُكْمِلُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰنٰكُمْ﴾ تی بفکرن خودا زۆر اعتنا به ئیوه ئه كا، چی مه صلّه ههت و چاک بێ بۆ ئیوه، واتان ئه مر پی ئه كا. که وابی ئیوه یش خوداتان زۆر له لا گه وره بێ، به و اعتنایه نه کهن - معاذالله - وه کو ئوممه تهکانی تر خویان لا سووك بېئ و، بیکه نه ئه مر به ری خۆتان . ته ماشا بکهن ئیوه ی به نه وعیک هیدایهت داوه، که حه یواناتی چه ند

(اممی) وهکو ئیوه به خودای ئەزانن کردویهتییه مهلیکی ئیوه، بناءً علیه تعظیمی خودا بکهن له سهر ئه و هیدایهته، که ئالههی قهومهکانی تری کردوته مهلیکو مسخری ئیوه، ئیوهیش بیان که نه قوربانی له پئی خودای خۆتان، ئه و تکبیرهیش زیاده رهبطیک ئه دا، له بهینی صیام و حه ج.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (۱۸۵) بۆ خاتری ئیوه شوکرانهی خودای خۆتان بکهن، بالمقابله اعتنای به اجرای اوامری اجتناب له نهواهی بکهن، نه وهک به زویان، به عه مه ل.

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ مه لایانی پيشوو ئه فه رمون: موسلمانان سوألایان له پيغه مبه ر کرد، ئایا خودا نيزیکه له ئيمه، خلوه تی له گه ل بکهین؟ یا دووره، تا بانگی بکهین و هاواری بکهینه بهر؟. ئه م سوآله له موسلمانان دووره، به لام قبوولمان کرد، با وایی، ئه م ما ئیرادی ئه و له و مه قامه له بهینی شه و و پۆژی ره مه زان، چ فائده ییکی هه یه، چ مناسبه ییکی هه یه له گه ل نه ظم و هوندنه وهی قورئان؟ که ئه لئین قورئان به نه ظمی (معجزه) وهختی، که موسلمانان ئه مریان کرایئ له نوێژدا پوو له قبيله بکهن و، ئیستایش له (صدد)ی پوو تی کردنی بیتن به حه ج، معلومیش بوو هه ر عبادته قبيله یه کی هه یه، قبيله ی زه کات و سه ده قه ی هه ژاران و مسکینه کانن، که به یان کرا قبيله ی قتال سه فی دوژمنه، قبيله ی دوعا ئاسمانه، بناءً علیه موسلمانان دپته خاطریمان، ئيمه له وهختی پۆژوو پوو له کئ بکهین؟ ئه بئ جه نابی کبریائی، چ قبيله یه کمان بۆ دابنئ؟ جه نابی حه ق ئه فه رموی: ئه گه ر عبادی من، به تاییه تی، عبادی پۆژووگر، که به رۆژوون سوأل له من بکهن، چ قبيله ییکیان بۆ دابنیم؟ له وهختی پۆژوو جه واییان بده له ته ره ف منه وه، که قبيله ی پۆژووی ئه وان منم ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ ئه من نزیکم له ئه وان، جه هت دووره له هه ر جئیه ک ببین، نیسه به تی من له گه ل عبادی خۆم یه که، چ له (سیبریا) و چ له ناو (بیت الله) له نه ظه ری من

فهرقی نییه ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ كهسیکی به شهوق و ذهوق عیبادهتی من بکا، ذیللهت و انکساری خوی بۆ من بنۆینی به زوبانی پاک، به دلّیکی خاوین عهرضی نیازمهندی بکا، بۆ ده‌رگاهی کبریائی ئیمه دهعهوتی قبولّ ئەکهین، سهعی به خۆرایی نابەین ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ با ئەوان دهعهوتی من بهجی بگهیینن، قبولّی اوامری من بکهن، به اخلاص بۆ من به پۆژوو ببن، نهفسی خویان (تربیه) بدن.

﴿وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ ئیمان به راستی به من بهینن، نه له اعتقادیان نه له عملیان شه‌ریک بۆ من په‌یدا نه‌که‌ن، پۆژووش وه‌کو ئیمان، خودا قیبله‌یه‌تی، نه ئاسمان.. نه‌که‌عه‌به.. نه شه‌رق.. نه غه‌رب، خولاصه‌ی هیچ جیهه‌ت بۆ پۆژوو ئیمان نابیتته قیبله، موسلمان له‌وه‌قتی پۆژوودا ئەبئ هه‌رپووی له من بئ (أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)، له‌به‌ر ئەم توجهه‌ خاصه، که له به‌ینی عبادات دا بۆ پۆژوو هه‌یه، له (حدیثی قدسی) ئەفه‌رموئ: (الصوم لي وأنا الذي اجزي به) - پۆژوو بۆ منه، هه‌ر من جه‌زای پۆژی داران به پۆژی ئەده‌مه‌وه‌ پۆژووئیکی، که عه‌بد له وه‌ختی پووزه رداری پوو له هه‌موو چشت وه‌ر ئەگیررئ، هه‌تا له مه‌داری ژیان، که خواردن و خواردنه‌وه‌یه، له پ‌فیکه‌ی حه‌یات، که جلیسی خلوه‌تیه‌تی و، جووتی حه‌یاتی دونیا و قیامه‌تیه‌تی.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (۱۸۶) به ئومئیدی ئەوه ئەو عباده‌ پ‌ئی صلاح بگرن، که له دونیا و قیامه‌ت هه‌ر خودا قیبله‌یه، هه‌تا له عباداتی به قیبله‌یش، به دلّ پوویان هه‌ر له خودابی، دلّ به جهه‌ت نه‌به‌ستن، والا تووشی (ضلال) ئەبن، مه‌بادا ئەو (انقطاعه) سه‌ر بکیشیتته انقطاعی کلی، به جاریک عبادی خودا، غه‌یری خودا پوو له هیچی تر نه‌که‌ن، ئەفه‌رموئ:

﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ حالّی به‌شه‌ر زۆر سه‌یره، له‌لاین ئەی‌گیرریه‌وه، له لایه‌کی تر ده‌رئه‌چئ، نه‌فسی ئینسانی زوو منفعل

ئەبى، پوو له خودا ئەكەى ئەيهوئ دەست له هه موو چشت هه لگري، ئەى گيريه وه نه ختى پوو له دونيا ئەكەى، ئەيهوئ مستغرق بى له لئاندى دونيا، بويى له وى (هادى) بى، ئەبى دائماً ئاگادار بى، وه كوو ئەو سوارانهى (جانوو) ته عليم ئەدهن، دار به دهسته وه ئەگرن، له م لاو له ولاى مى جوانوو كه ئەدهن، تا راست بپروا و لارى نه بى، بويه (ئەفەندى به كانى) ئيمه ئەلين ئەوى شىخ بى، ئەبى دائماً دائماً ئاگادارى حالى مرید بى به قووہى (قدسيه) له خراپهى بگيريه وه، به لى ئەگەر ببى، ئەبى وابى، به لام ئەو (تسلطه معنوى) به نه دراوه ته پيغه مبه ر، نازانم چۆن ئەدریته خه لقى تر ؟ به عنى ئەم (توجه الى الله) تان له حاله تى پۆژوو وابى، ئەمما شه و له گه ل انيس و جلیسى خۆتان پفيقهى حياتتان، هه مده مى خلوه تتان معاشره، بکه ن ئەمما له مه یلى فيطرى زياتر نه بى به قه در ده فعى ده غده غه ی شه هوت بى، وه كوو ئيشاره ت ئەفه رموئ: ﴿ هُنَّ لِيَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ لَهُنَّ ﴾ ئەوه نده، كه سه ترى به كترى پى بکه ن، كه بيكه نه (لباس) ی ته قواى جه نابى حه ق، ئەو اخطاران ه تان ئەكا، چونكه ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ خودا ئەيزانى ئيوه خيانه ت له گه ل نه فسى خۆتان ئەكهن، له وه قتى شه نگ و تاچه ت مغرور ئەبن، بارى خۆتان گران ئەكهن، دوايش نايه تان، ئەمه خيانه ته ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ بويى جه نابى بارى به گویره ی تاچه ت و تحمل، به عاقبه ت بينى تخويفتان له سه ر ئەكا، بو پيگاييكي عدل له به ينى افراط و تفريط، ئەفه رموئ: ﴿ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ مه حوى ئاشارى ميولى فاسده تان لى ئەكا، مادام به و ئەمره ته نبيه كران و ته نبه تان بوو ﴿ فَأَلْقَنَ بِشِرْوَاهُنَّ ﴾ ئيستا زهره ر و زيانى نيه ﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ئەوى خودا بو ئيوه ی قه رار داوه له هه ر دوو كتيب، به ئەمرى تكوينى و به ئەمرى تكليفى، ئەوه ی طلب بکه ن خالقى اكوان و منزلى قورئان به كه،

ئەمری تکوینی له گەڵ ئەمری تکلیفی موافقه، ئەگەر میولی فاسده نه بوايه، حاجت نه بوو جه نابی کبریائی ئەو ئەمرانه مان پێ بکا .

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ له شهوی صیام بخۆن و بخۆنهوه، ئەویشتان بۆ چه لال کراوه، که وایی به دەرئەکهوئ (صیام) ، مەنە بوونە له مابشره و خواردن و خواردنهوه، ئەو (مباحاته) له هه موو اجزای شهو بوۆتان هه یه ﴿حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ پاش نووستن، پێش نووستن، به لām له یه ک کردنه وهی خه تی ره شو سپی له فجر له بۆ هه موو که س ئاسان نی، بۆیی (احتیاطاً) وا باشه که میکی له شهو بمیئنی امساک بکهی ﴿ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ﴾ له فجره وه ﴿إِلَى الْآيِلِّ﴾ هه تا شهوئ، به م گویره تا په مه زان خه لاس ئەبی، خواردن و خواردنه وه له شهوی په مه زان (من حیث الزمان و المكان) مباحه، ئەمما (مابشره!) وانی یه ﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ئەگەر له مزگه وته کان دا (معاشره) بشیئ، زهره ر به پۆژوو ناگه بیئنی، ئەمما مخالفه له گەڵ حالئ اعتکاف له گەڵ حورمه تی مزگه وت، معاشره وه کو خواردن و خواردنه وه ضروری نی، هه ردوو ته ره ف ئەتوان چه ند شه ویکی خۆیان بگرن، به تایبه تی ژن له هه موو مانگان، (حیض) ئەبیئنی (عادةً) ته رکی معاشره له به عضئ پۆژی مانگ بوو یته طبیعی، چه تکلیفی تێدانئیه، له بهر ئەوه خۆ مەنە کردن له زه مانئ اعتکاف، چه گرانی تێدا نی یه و، مساجدیش عاممه، اعتکاف له هه ر مزگه وتیک بیئ دروسته و، سوادی اعظم له عالمان له سه ر ئەم قسه ن ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ ئەو احکامی باسکراو، حدودی خودایه، وه کو حدودی زه وی و خانوو و دوکان ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ نزیکئ مه که ون، نه ک لئئ تئ بپه ررن، تئکی بده ن وه کوو له حدیث ئەفه رموئ (ئەوی نزیک بیئ له حدودی پاوان، نزیکه بجیتئ) حاصلئ،

احتیاط لازمه ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (۱۸۷) بهو
 نهوعه خودای تعالی بهیان ئەکا بۆ ئیوه ئایاتی خوئی، به ئومییدی ئهوهی
 خۆتان بیاریژن، ئەوهنده ئاشکرایه به غهیری خۆپاراستن چیتر لهسهه ئیوه
 نییه .

ئەلین دوو کهس، یهکیک زۆر خۆر و قهلهو، یهکیک کهم خۆر و لاواز
 چوونه شاریک، به جاسوسی اتهام کران، له (اوطه) ژووریک چهپس کران،
 سد البایان لیکرا، پاش دوو سی پۆژ سهریان لیدان، دیتیان قهلهوهکه
 مردبوو، لاوازهکه مابوو، تعجیبیان کرد! هۆشمه ندیک گوتی: ئەمه عاجباتی
 نییه ئەگەر به عهکسهوه بوايه عهجایب بوو، ئهوهی قهلهو فییری برسایهتی
 نهبوو بوو مرد، ئەوی لاواز فیربوو قهیدی نه کرد .

ئیمهیش له زهمانی قاتی و گرانی سالی ۱۳۳۶هـ دیتمان گهلی کهس، که
 به لئانذ فیربوو له بهر بی پزقی نه مرد، له بهر بی لئانذی مرد، کهوابی
 اقتیات بۆ دنیاو قیامهت باشه و، حهکیم ئەلی: (بخۆ بۆ ئهوهی بژی،
 نهوهک بژی بۆ ئهوهی بخۆی).

باسی قصاص، قتل و وهصیهت و میراث و صومی پهمهزان، ههموو
 مقدمهه بۆ قتال، که سهبهبه بۆ نهجاتدانی کعبه له اصنام، له بهر ئهوه
 پوخستهتی خواردن و خواردنهوه و وقاعی دا، به شهرتی به قهدهر مهیلی
 فطری زهرهه به قووهت نهگهیینی، بۆ اباحهی خواردن و خواردنهوهیش
 نوعاماً، حدی دانهنی له ضمنی نههییهکی عام ئەههرموی: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا

﴿أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ﴾ مالی خۆتان له بهینی خۆتان بیهووده سههرفو
 هیلاک مهکهن، (خاصه) له افطار (بهربانگ) و پارشیو، اجتناب بکهن له زۆر
 خواردن، سفره به تهعامی گۆناگون ئارایش مهدهن، له وههرفه مقصدتان
 خودا نییه، والا ئهوی بهو تبذیر و اسرافه اهلاکی ئەکهن بۆ خودا به تدریج
 بیدهن به فهقیر و مسکین و ههتیو و بیوهژن، به لکوو مقصودتان ئەمهیه:

﴿وَتَدُلُّوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ﴾ به واسطه‌ی ئەو صهرفیاته باطله، خۆتان بخه‌نه ریزی حاکمان، گه‌وره گه‌وران، یاخود مه‌قصدتان ئەوه‌یه بیکه‌ن به وه‌سیله‌ی نزیک‌ی له حاکمان، خۆتان ره‌پیش بکه‌ن لایان، نه‌تیجه‌ی ئەو صه‌رفو اهلاکه خۆهینانه ریزی حاکمان، قه‌رزداریه، (کانه) غایه‌تان ئەوه‌یه ﴿لِتَأْكُلُوْا فَرِیْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ﴾ هه‌تا گه‌لئ مالمی مخلوقان بخۆن.. بکه‌ویته قورگتان بی‌حه‌ق، بی‌معذره‌ت خۆتان گوناهاکار ئەکه‌ن، وه‌کوو بقال و شه‌کر فرۆش و سائری اصنافی بازاری، یا به‌ئارایشی می‌زی ئەبه‌نۆسی و هه‌ناردنی سینی ته‌عامی لذیذ بۆ حکامان، ئەیکه‌نه وه‌سلیه‌ی خواردنی مالمی خه‌لق، تاکو ئەگه‌ر شکایه‌تیش بکه‌ن حاکم گوئی خۆی نه‌داتئ، که‌وابئ به‌اقتصاد گوزه‌ران بکه‌ن به‌خواردنی، که‌خۆتانی پی‌رابگرن اکتفا بکه‌ن، حفظی مالمی‌یه‌ک، له (ضروریاتی خمه‌سه)یه.. پارازتنی دین، پارازتنی عه‌قل، پارازتنی نه‌سه‌ب، پارازتنی ناموس و شه‌ره‌ف.. نه‌حه‌ج نه‌قتال بی‌مال ناکرئ. ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ که‌ئەو نه‌وعه‌ صه‌رفیاته وه‌بالئ زۆره، عاقبه‌تی خراپه، به‌لام ئینسان بی‌عاره، بی‌اعتباره.. گه‌لیکمان دی له‌گرانی سالی ۱۳۳۶هـ به‌ده‌خیل و ئامان، به‌سؤال و پاران‌ه‌وه، تا لقمه‌نانیکی چنگ ئەکه‌وت، به‌هه‌زار (جرنیا و فرنیا) تا نه‌جاتیان بوو، ئەمپۆ به‌نان و ساوار و نیسک و داندۆک رازی نابئ، ده‌ستی خۆی به‌خواردن پیس ناکا، به‌که‌وچک و چه‌نگال ئەخوا، ئەلئ‌ی نه‌بای پی‌دا هاتوه و نه‌باران.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ﴾ ئەو سؤاله له‌وه‌قامه‌ په‌یدا ئەبئ، له‌ره‌بطی صیام به‌(شه‌ری هلالی) متصل به‌اشه‌ری هلالی و، سؤاله‌بنا به‌و پروایه‌ته‌ی، که‌له (معاذ) کراوه شه‌ی‌نه‌تیکی ئیسرائیلی‌یانی تی‌دا هه‌یه، (انه) به‌موسلمانانیه‌گوت؛ تا ئیستا ئیوه (امی) بوون و قه‌ید و کتبه‌تتان نه‌بوو، حساب و کتبه‌تان له‌سه‌ر سه‌یری هلال ضروری بوو، به‌لام

ئیسٹا ئیوہ بوون بہ ئہہلی کتاب و بہ ئہہلی کتابت و قرائت، وائجاب
 ئہکا ئیوہیش وکوو میللہتہ متمدنہکان، رہبطی احکام بہ مانگہکانی
 شمسی بدن، شمس نہییری اعظمہ، مانگ چ شہرہفیکی ہہیہ، کہ بکریتہ
 معالم لہ سہر اوقاتی ئہو نہوعہ عباداتہ . ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَچُّ﴾ .
 یہکہم: (قمر) لہ اشکالاتی مختلفہ گییرانی وی، بہ علامت لہسہر ازمنہی
 متغیرہی متحولہ، زور مناسبہ .

دوہم: بہ سہولت بو امی و غیرہ امی حسابی پیئئہکری، خاصہ
 لادیی و عوربان، پییان ناکری حساباتی وردہ وردہ لہسہر سہیری شمس
 بگرن .

سییہم: حسابی شمسی بو ہموو اقطاری أرض نابئ، اطرافی دوو قطبی
 جنوبی و شمالی، کہ سالیکی شہمسی ئیمہ، شہو و پوژئیکی ئہوانہ، اوقاتی
 خاصہ بہ سہیری شمس چون تعیین بکن؟ بہ لام بہ (قمر) زور باش
 ئہبئ، بہ بیست و ہشت پوژ دەوریک ئہدا، لہ (احد النصفین) لای (احد
 القطبین) بہ دہرئہکوئی بہ زہریفی، ئہتوانن تقویمی سال تحریر بکن،
 دینی عام ئہبئ شامل بی بو اقطاری عالم، لہبہر ئہو سررہ وکوو
 (مجددی مصری) ئہفہرموی: پیش تعیینی رہمہزان ئہفہرموی (ایاماً
 معدودات) ئہوہ (انہ) بو ئہو جئیانہیہ ، کہ نہظمی شمس ہلئئہگیری بہ
 سایہی قمر ، ئہتوانن تنظیمی ئہو ایامہ بکن، تطبیقی بکن لہگہل
 رہمہزان و لازمہ شامل بی بو (ازمنہ) ، ئہگہر تعیینی ازمنہ بہ شمس
 بکراہویہ، سائری فصول محروم ئہبوون لہ بہرہکەت و فیضی ئہو
 عبادہتانہ، بہ لام بہ واسطہی قمر لہ ظرفی ۳۶ سال، چ ماہی صیام ، چ
 اوقاتی حہج لہسہر حسابی ہموو فہصل ئہگہرری، (انہ) قمر پہیکی
 لوظفی ئیلاہیہ، ئہوی حسابی لہسہر سہیری پوژ بکری، بہ ئاسانی و بہ
 عمومی وکوو اوقاتی نوئز رہبط بہ شمس ئہدرئ، اعتبار بہ قمر ناکری،

هر کهس له ئەهلی شار و لادی، ئەتوانی به بلندی و نویی ئاوابوونی شمس، ئەوقاتی نوژی خۆی بزانی، ههتا له اطرافى قطبیش تطبیقی زۆر سههله، پوو بکه جنوب له تهپهفی معموره راست و چهپ، پاشو پیش تعیین بکه له وهقتی، که پۆژ به دهرهوهیه به اعتباری ئەو نقاتهیه، مکملی اوقاتی نوژی تعیین ئەکری.

وهختی که مهنشئی ئەو سؤاله ئەو منافقانه بوون، که دائماً لاپری ئەپۆیشتن، وهکوو شهیطان له پشتهوه ئەهاتن بۆ وهسوهسهدان، بۆ تعریضی ئەوان و خۆپاراستنی موسلمانان ئەفهرموئ: ﴿وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ له لای قونهبان چون بۆ خانوو خیر نییه، نیشانهی دزی و خیانهته، شیوهی منافقییه ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آتَقَى﴾ چاک ئەو کهسهیه، که تهقوا بکا خۆپاریزی، به کهچی نهیته پیش، کهچی له گهل پاستی ریک ناکهوی، کهوابی ئەی سالکانی ری هیدایهت، پهیرهوی ئەو منافقانه مهکهن.

﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ به پاستی وهرنه پیش، له دهرگای خویانهوه برۆن بۆ خانوان، له سؤال کردن مقصدتان که شفی حه قایق بی، استفاده بی، (تشکیکو تشویه) نه بی ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ خۆتان پیاریزن له خودا، خۆتان تووشی غهضه بی خودا مهکهن، چه ند جار به یان کرا، مقصد خودا په رستنه به اخلاص، زه مان و مکان و جههت ئەهمیه تی نییه ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ (۱۸۹) مداری (فوز و فلاح)، نه جات و قازانج، تهقوای خودایه. وقتاً که هیلالی صیام له نظری موسلمانان موقعی نمایان بوو، ئاگری شهوقی له دلایان هه لایسا، کهوتنه هه ره که به (سیری هیلالی، وهکوو (بدری تمام) له مطالعی مسجد الحرام سه ره بینه دهرهوه ئەو ئافاقه مظلمه به نوری ئیمان، که له شه مسی سپهری رساله تیان وه رگرتووه،

درهخشان بکهن (هه‌رچی باداباد) ظاهر و باطن پرویان کرده ئه و طه‌ره‌فه،
 بی‌شک (نیلی) ئه و مقصوده بی‌قتال نابی:
 (عروس دهر کسی تنگ در بغلیگرد
 که بوسه بر دم شمشیر آبدار زند)

به‌لام بو ئه و سه‌فه‌ره دوو چشتیان لازم بوو. اولاً: قواعدی عادلانه‌ی
 قتال، دووه‌م: مناسکی چهج ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ شهرر بکهن له‌پری
 خودا، غه‌ره‌ض له قتال خوین پزاندن نی‌یه، به‌لکو نه‌جاتی به‌شه‌ره له
 (خبائتی)، که به‌شه‌ری له (بشریه‌ت) بردوه‌ته دهر، محضاً بو خودا
 ئه‌وانه‌ی پری خودا تیک ئه‌دهن، فیطره‌تی به‌شه‌ری مه‌حوو ئه‌که‌ن، ازاله‌یان
 بکهن وه‌کوو له حدیث ئه‌فه‌رمووی: (آخر الدواء الكی) شهرر له‌گه‌ل کی
 بکهن؟ ﴿الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ﴾ ئه‌وانه که شهرر له‌گه‌ل ئیوه ئه‌که‌ن، ریگاتان
 لی‌ئه‌گرن ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ ته‌جاوز له حد مه‌که‌ن. ذاتاً سابقاً اخطاری
 فه‌رموو: (ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الألباب) له (مقاتله و غیر مقاتله)
 له مقابله‌ی بالمثل دهرمه‌چن ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ئه‌وی
 ته‌جاوز له حد بکا، خودا خو‌شی ناوی، ئه‌گه‌رچی موسلمانیش
 بی.. (حقیقه) حه‌قی خوداوه‌ندی عادل رب العالمین ئه‌وه‌یه و، ئه‌و نه‌وعه
 عداله‌ته شایانی ئیسلامه، له پاش ئه‌وه‌ی، که ئه‌وان اعلانی حه‌رب بکه‌ن،
 قصدی کوشتننتان بکه‌ن ئیوه‌یش اعلانی حه‌رب بکه‌ن ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
 تَفْتَنُوهُمْ﴾ بیان‌کوژن له هه‌رجی‌یه‌کی تووشیان بوون، ئه‌مما به (حذاقته)
 یه‌عنی ئاگاتان له خو بی، بی هووده خو‌تان مه‌دوررینن، پق و قین، جله‌وی
 هوش و ئیدراکتان له ده‌ست نه‌باته دهره‌وه. ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ﴾
 دهریان بکه‌ن له هه‌ر شوینن، یا له و جی‌یه‌ی، که لی‌یان دهرکردوون، که

(مکه)یه، ذاتاً مقصد ئه وه یه .. باقی وه سیله یه . بی گومان ئه وانى اعلانی
 حه رب ئه که ن زۆرن، له کوشتنیان یا له ئه مر به کوشتنیان لازم ناکا، که
 هه موو بکوژرین و، فه ردی ئافه ریده یان لى نه مینى، تا که س بۆ اخراج
 نه مینیتته وه، لازمیش نی یه ئه وى مانه وه، هه موو ده ریکرین .. قۆلیان بگرن و
 فرپیان دهن؛ به عضیک ئه گیرین، به عضیک ئه کوژرین .. به عضیک
 موسلمان ئه بن، به عضیک له ترسان فرار ئه که ن . که وایى ئه مر به کوشتن و
 به اخراج زۆر موافقن . سیدی ئالوسی له جواب دا ئه فه رموی: (مقصود
 کردنی ما تیسر من احد الأمرین یا ئه م یا ئه و هه ر کامیکی بیی)، به لام
 ئه وه له گه ل (او) مناسبت بوو، نه ک له گه ل (و) حاصلی ضمیر (هم)
 راجعه بۆ قه ومی زۆر، وا ئه وى نی یه ئه کوژرین، ئه مر به اخراجی ئه و بکری،
 ئه م ما ئینسان له حه ق بی ضمیران بللی چی؟ ئه گه رچی انصار له جمله ی
 ئه وانه نه بوو، که ده رکرابوون له (مکه)، به لام له بهر که مالی اتحاد و تاثر،
 ئه وانیش خویان به ده رکراو ئه زانی .

﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ مقصودتان له و قتاله فیتنه ئه نگیزی نه بی، ئاگری
 شه رر هه لایسینن و خۆتان بکیشنه وه، چونکی فتنه خراب تره له کوشتن،
 که سیکی مه رد بی، کوشتنی خۆی ته رجیح ئه کا له سه ر فیتنه ئه نگیزی:
 یا خود ئه و فیتنه ی، که ئه وان ئه یکه ن، که به تزویر و درۆ پووی عه ره ب له
 حه ق وه رئه گیرن، دلایان پررئه که ن له (بغض) و قین، گه لی (اشد) تره بۆ
 ئیوه، یا له (نفس الأمر) دا له کوشتن حه ق وایه، ئیوه بۆ ده فعی ئه و
 فه ساده عظیمه تی بکۆشن، تا (مکه) نه ییتته به رده ستی ئیوه، له م فیتنه یه
 ئه مین نابن . له سه ر ئه و حاله یش خوداوه ندی حه کیم، نه هیان ئه کا له پیش
 ده ستی له لای مسجد الحرام .

﴿وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ﴾ هه تا ئه وان شه ررتان له گه ل
 نه که ن له کن مسجد الحرام ئیوه، شه رریان له گه ل مه که ن، حاصلی ئیوه

دافعی فه ساد و مدافع بن، متعرض مه بن.

﴿فَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ ته گهر ئه وان له کن مسجد الحرام شه رریان له گه لئ ئیوه کرد، ئیوه یش بیان کوژن، ئیوه یش وه کو پیشو و ضمناً وعده یشکی نه صرته تی تیذا هه یه .

له قرائته تی (حمزه و کسائی) «فان قتلوکم» ه (اعمش) به اعتراض له (حمزه) ئه لئ: چۆن ئه بی که سی بکوژری بکوژی؟ (حمزه) له جواب دا فه رموی: عه رب ئه گهر یه کیکیان لئ بکوژی، ئه لئین کوژراین.. ئه گهر له یه کیکیان درا، ئه لئین لئ دراین، خلاصه ی قهومی متحد هه م فکر وه م قووته، کوژرانی یه کیک له خویان به کوژرانی هه موویان حساب ئه کا. بی گومان اصحابی نبوی چ (قاتلوکم) بی، چ (قتلوکم) بی زور چاک له فه رمایستی خودا گه یشتون، خه یالئ، که به دلئ ئه و مه لایانه ی کت و کوپیر داهاتوو به خاطرئ ئه وان دا عبوری نه کردوو.

﴿كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ ۱۹۱ ﴿ به و جوړه یه جزای کافران، ئه وان یا غه یری ئه وان له طه رف ئیوه، ئه بی جزاء بالمثل بی تعدی له ئیوه و له دینی ئیوه ناوه شیته وه ﴿فَإِنْ أَنْهَوْا﴾ له قتال ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ۱۹۲ ﴿ ئیوه یش اقتداءً بالله، چا و پوشیان لئ بکه ن له جیهه ت په حمه وه، ده ست له قتالیان هه ل بگرن .

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ ته وه نده یان شه رر له گه ل بکه ن، تا نه توان له حق موسلمان فه ساد بکه ن ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ دینی حه ق بو خودایی به (علنی) به ئاشکرا، بی خه وف و خشیه ت اقامه بکری، پیان نه کری پیتان لئ بگرن، بی گومان ته وه یش ممکن نابی مادامه بتی به که عبه وه بمینی و، سائری مشاعری دینی پاک نه کریته وه ﴿فَإِنْ أَنْهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ۱۹۳ ﴿ ته گهر وازیان هیئا له قتال مه نعی اظهاری شعائری دینیان نه کرد باشه،

چونکه ته جاوز نییه الا له سهر ظالمان نه بی. ئەگەر ئەو ظالمانه قبوولیان نه کرد وازیان لئ نه هیئن، تا ده فعیان ئەکەن.

جمهور ئەو ئایه ته وا ته فسیر ئەکەن، ئەلین: (فان انتهوا) له کفر (حتى لا تكون فتنة) کفر نه مینئ (ویکون الدین لله) دینی خالص بی به قای کفر (فلا عدوان الا على الظالمین) ئەوانه ی، که له سهر کفر ئەمینئ، ئەلین مقصد ئەوه یه نابئ عه ره ب له سهر کفر بمینئ له گه ل ئایه تی (تقاتلونهم او یسلمون)، که له مه ودوا دئ ته فسیریان یه که، به لام ته فسیری ئیمه له گه ل مه قام و عیبارت مناسب تره، هیشتا ئەو پوژه نه هاتوو، ئەوه پاش ظفیری قطع یه، قانونی عداله تی حه رب (نظر) به اشخاص و مکان و زمانه، که وابئ ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ ئیوه عاداتی حسنه ی قه وم مراعات بکه ن، مادام ئەوان حورمه تی مکان و زه مان بگرن، ئیوه مه شکینئ، ئەگەر ئەوان شکان دیان (بالمجبوریه) ئیوه مدافعه ئەکەن، لۆمه تان له سهر نییه .

ئەلین له زه مانیک میصری تقدیسی پشیله یان ئەکرد، ئیرانی که چوونه سهر میصر، ئەوه یان زانی له پوژی شهر، بعضه پشیله یان له پیشی له شکری خویان راگرت، میصری یه کان تیریان نه ده هاویشتنئ، مه بادا به سهر پشیله کان دا برروا و حورمه تی پشیله کان بشکئ، ئیرانی به که یفی خویان تیره بارانیان ئەکردن.. ورده ورده لئ یان ئەچوونه پیشئ، تا به سهر یان دا غالب بوون، حورمه تی خویان شکاند بو حفظی حورمه تی پشیله . ئیستایش ئەو نه وعه که سه زوره، ناموسی خوی ئەبا بو شه ره فی خه لق.

﴿وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ﴾ هه رچی لازم الحفظه، ئیوه حفظی بکه ن، سه ره به خو حورمه تی مه شکینئ، ئەوی له حه ق ئیوه حفظی ئەوانه ی محترمن ناکه ن، ئیوه یش به قانونی (تقاص و تقوص)، که کوردی ئەلئ یه عنی (پکیه ل پیکئ) معمه له بکه ن، ته جاوز مه که ن. بناءً علیه ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ ئەوی ته جاوز له سهر ئیوه بکا ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ له مقابله ی

بالمثل ته جاوز مه کهن .

الله! له و معامه له عادلانه، ئه ی ئه هلی انصاف! ته ماشای ئه و ئه حکامانه بکهن، هیچ میللهت کتابی و غیره کتابی ئه و قانونه یان نیه، قانونی (عیسی) وه کو صوفیه کانی ئیمه، که به تبعیه تی مه سیحی وه ریان گرتووه، حتی (شیخی عربی) ئه فه رموئ: جزای خراپه خراپه، که سی خراپهت له گه ل ئه کا گوئی مه ده ری، مقابه له مه که، وه الا تویش وه کو ئه و تووشی خراپه ئه بی.. ئه و نه و عه قانونه به مطلقى غه له ته، خصوص ئیره هه رجی نیه، ئه ویش موقعیکی تره هیه، وه قانونی (عیسی) لای عیسوه یان به قه ده ر نره ره بیک رعایهت ناکری، ئه وروپایی گوا یا عیسوه یان، له هه موو عالم دوورترن له قانونی (عیسی)، به به هانه بیکی هیچ و پووچ شاریک بومباردومان ئه کهن، ژن و مندال و خهسته خانه و حیوانات ناپاریزن، ئیمه خو مان دیمان به زه ریفی، له سیاسه تی ئوممه تی ره سولی سه لام گه یشتین!

ئای له و بی شه رمی یه! الانیش (طعن) له حه ضره تی (محمد) ئه دهن، که حه ربی کردووه، قه واعدی حه ربیش ئه وه یه، که ئه بیینن و خو ی و خلفای له سه ر ئه و پری یه پویشتن، هه تا له حه ضره تی (ئیمامی علی) نه قل کراوه له گه ل پیاویکی پاله وان و نه به رد زور تی کوشی، تا له ئه رزی دا، له و وه خته تفیکی له (ئیمامی علی) کرد. حه ضره تی (علی) ده ستی لی هه لگرت، کابرا له رووی تعجبه وه گو تی: ئه مه بو؟

فه رمووی: تا ئیستا بو خودا شه ررم له گه ل ئه کردی، چونکه تفت لی کردم، قینم هه لستا.. ئه گه ر بت کوژم هه وای نه فسی تیدایه .

کابرا له رووی ئینصاف موسلمان بوو، ئه وروپایی له سه ر ئه و هه موو (ظلم و تعدا) ی بی ئه ندازه، ئیستایش به شارهت ئه دهن به ره سولی سه لام، ره سولی سه لام لای عالم خو شه ویست ئه کهن، تا وه کو ئه وی بکه ویته داویان، وه کوو خو یان بیکه نه مایه ی فه ساد .

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ له هه موو کارتان ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿۱۹۴﴾ دائماً له ژیر عنایه تی چه ضره تی کبریائین، ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ نه فس و نه فیسی خۆتان له ری خۆدا صه رف بکه ن ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ خۆتان به دهستی خۆتان مه خه نه هلاکهت، کورد ئه گه ر ئیشیکی خراپ بکا له مه قامی تاثر و ندامهت ئه لئ: (به دهستی خۆم چیم کرد له خۆم) خۆتان بی هوده به کوشتن مه دهن، مال به خۆرایی صه رف مه که ن، له ئوغری میلهت و وهته ن و دین، دهستی خۆتان مه گرن، ئیمدای پیویستان بده ن ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ له هه مووکاران جهه تی چاکه ی بگرن ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿۱۹۵﴾ ئه گه ر چه زئه که ن خۆدا خوشی بوین، چاکه بکه ن، جه نابی حه ق (حب و بغضی) له حه ق اشخاص نییه، له حه ق اعمال و اخلاقه .
 دوا ی قانونی قتال به یانی (مناسکه)، موسلمانان منتظرن ئه حکامی حه ج وه ربگرن (متوکلا علی الله) توجه بکه ن بۆ بیت الحرام ناگایان له شه ر و شوپری علمای فقه نییه .

﴿وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ئه گه ر موفق بوون (حرباً یا سلماً) چوونه مکه حه ج و عه مره به جئ بهینن به ته واوی بۆ خۆدا مقصودتان (غرض و عوض) نه بئ، غه یری اقامه ی شعائری دینی خۆدا ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ ئه گه ر مه نع کران له طه ره ف ئه و فیتنه ئه نگیزانه که ئیوه یان ده رکردبوو له دهستی ئه وان فریادی (تظلماتان) بلند ئه کرد، به لام ئه هلی مروه تییک نه بوو به فریادتان بگات، ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ قاعده یه «الضرورات تبیح المحظورات» هه زار ئافه رین له و که سه بئ، که به گویره ی احوالات احکام داده نی ﴿وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ﴾ سه ری خۆتان مه تاشن ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ کامین (محل) محلی ضرورهت ئه ماما، تا (میسر) بی نزیک بخریته وه له محلی حقیقی، ئه گه ر

بمویرایہ عہرضم ئہکردن مقصد ئہوہیہ، زینہت و لہذذت لہ خۆتان
 حہرامبکہن، تا وہکو ئہو پیشکہشانہی تقدیم ئہکہن بۆ بہیتی خودا،
 ئہگاتہ جئى خۆى ئہتوانى سہربہخۆ بچئى، کہس نہتوانى بیگیپرہتہوہ،
 لازمہ غیرہت بنوینن، تا بہ مقصد ئہگہن. لہ کتبی (سیر) ئہلئى:

(ابو سفیان و یارانى لہ پاش شکستی شہررى (بدر) لڈانڈیان لہ خۆیان
 حہرام کرد، نزیکى ژنى خۆیان نائہکہوتن، مووى مرداریان نہئہتاشى، تا
 ئینتقامیان لہ ذاتى وہکوو پیغہمبہر ساندهوہ) البتہ موسلمانان لہ
 غیرہتکہشى، نابئى لہ ئہوانہ کہمترین.

﴿فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ کہسى ناساغ بئى لہ رچالى حہرب نہبئى ﴿أَوْ بِهِ أذى

مِّن رَّأْسِهِ﴾ وہکوو رشک و ئہسپئى و پند، یا چشتیک کہ تاشینى بۆ باش بئى

قہیدئى ناکا، با سہرى خۆى بتاشئى، ئہمما دیسان بہخۆررایى نابئى ﴿فَفِدْيَةٌ﴾

فدیہییکی لہ سہرہ ﴿مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ فہرقى نییہ پۆژوو یا اطعام یا

شاتیک ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ کہ ترستان نہما کہس نہیتوانى مہنعتان بکا، ئہوجا بہ

خواہشى خۆتان شروع بکہن لہ حہج، چ بہ تمتع چ قران، چ بہ افراد ﴿فَن

تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ ئہوى لہ میقات احرام بہ عمرہ بہ مجرد زیارہتى (بیت)

بہستئى، پاش طہواف وسہعى لہ احرام بیئہ دہر، دوايى لہ (مکہ) بچیتہوہ

ناو احرام نہگہرریتہوہ میقات دروستہ، بہلام ئہبئى قوربانىیہک بکا،

خوینیک بریژئى ﴿فَمَا اسْتَسْرَرَ مِنَ الْهُدَى﴾ ئہوى بوئى (میسر) و سہل بئى، بہ

گویرہى مقدرہتى خۆى سہرئى ببرئى، ئہو خوینہ (دمالجبرى) پئىئہلئین

﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ﴾ (هدى) دہست نہکہوت، نہبوو، یا نہىبوو ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي

الْحَجِّ﴾ لہ ایامى احرامى بہ حہج، تا پۆژئى (نحر) ﴿وَسَبْعًا إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ حہوت

پۆژئش، کہ گہررانہوہ مالى خۆتان و گہیشتنہ جئى خۆتان، وہکوو لہ

(حدیث) به دهرئه که وئی، ئەگەرچی ئەوه تفرقه یه و به هه مه حال جمع له تفرقه چاکتره، به لام بۆ ارتباطی قلب له گه ل (قبله)، ئەو تفریقه چاکتره، بویئ ئەفه رموئ ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ که وایی ئەوی طعن له قورئان بدا و بلیئ، کلمه ی (کامله) زیاده، (حقیقه) له نقصانی خوئیته، کمال به زیاد ئەزانی، به لئی، قوتابیش ئەزانی سئ و حهوت ئەکا ده، ئەمما لیتره مقصود کماله له جههتی قبول نهک کماله له جههت هه ل ژماردن ﴿ذَلِكَ﴾ ئەوی ذکر کرا له (تمتع و هدی) ئەگەر نه بوو صیامی علی التفریق^(۱) ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ بۆ ئەو که سانه یه (حضری) نه بن، له اطرافه وه بۆ (مکه) بچن، ذاتاً خطابی سابق له گه ل ئەوانه بوو، که له لای (مدینه) وه ئەچوون بۆ (مکه) خارجی میقات بی مه عنايه ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ چۆنتان احکام بو دانه نی، وابکه ن لامو جیم مه لئین ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ بۆ ئەو که سه ی ته قوا نه کا بناءً علیه خۆتان هه ل مه فریوینن، گویا ئیمه له سه ر ئەو هه موو مشقهت و محصوریه هاتین بۆ حه ج، ئەگەر نابه جئیه کیش بکه یین، البته خودا مسامحه مان له گه ل ئەکا ئیوه بزائن جزای خودا زۆر به شیددهت و به قوووته، به خه یالی خاوناگه ررئته وه، سابقا فه رمووی «الشهر الحرام بالشهر الحرام» تا ئیستا اوقاتی حه جی بۆ سامعین ته عین نه فه رمووه، (عجبا) ئەبئ چۆن ته عین بکرئ؟ تغیراتی دئته سه ر، نایئته سه ر؟ بۆیه ئەفه رموئ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ﴾ (تغیراتی ته وقیتی حه ج بکا به وه قتیك، له ئەیامی یه کیک له و مانگانه، که (شوال) و (ذی القعدة) وه ئەوائلی (ذی الحجة) یه، صاحب قاموس ئەفه رمه وئ: (الفرض كالضرب التوقيت ومنه) ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِتِ الْحَجَّ﴾ یا وه کوو مفسره کان ئەلئین: یه کیک

(۱) ۳ پوژو له کاتی حه ج و ۷ پوژو دوی گه رانه وه، که ده که ن ۱۰ پوژو.

لهسه ر خوی فرض و لازم بکا، لاکن نه وه کوو به و نهوعی، که فهرموویانه به (شروع) له حج اتمامی لهسه ر واجب بی، وه کوو له پیشه وه فهرمووی (واتموا الحج) وبالاتفاق، اتمامی حج و عمره واجب، به لکوو به و نهوعی، که ئیمه عرض ئه کهین له ئه وه لی، تا ئیره جنابی حه ق اشعاری به وجوبی حج نه فهرموه، چونکه مهوقعی نییه (بل دون ذلک احوال) نابینن. له هه ره ئه وه له وه فهرمووی: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت.. الآية).. (کانه) به ئاره زوو و به اختیار، نه وه ک به ئه مر.. وه فهرمووی: (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) به نفی (جناح) اکتفای کرد، نه یه فهرموو ته وافیان بکه ن، به لام که شروعیان پی کرد، یا لهسه ر خویان لازم وه فرض کرد، ئه و جا خودای تعالی حوکمیکی مناسبیان لهسه ر ئه کا سبحان الله له و اسرار و وه قایعه به لام مناعاتی مه ذهب بزری کردوه، نابینی لی ره به (تفریع) ئه فهرمووی: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ ديسان ئه مری پی ناکا، له پیشه وه ویش ئه مر ئه کا به اتمامی لله، له ایامی حج معاشره ت له گه ل ژن، منافره له گه ل یه ک، حتی به قیل و قال منازعه و مکابره نییه، ئه مرؤ تعزیه یه .. زه مانی یه کی یه، وهختی تیکوشین و ته رکی لذائذه، هیشتا به قوه ی بازوو، ئیستیلای (مکه) نه کراوه، نه ایه ت (بعد التی واللثیا) ئه مین بوون بو چوونه (مکه)، ئه وه ویش قیمه تیکی نییه، که مذله تی پیشوو له فیکر بیاته وه، به لکوو ئه و حوکمه بو تذکارو احتراسی ئوممه ت هه ر ئه مینن، له زه مانی عیزز و استقلالیه تیش ئه بی بکری.. حاصلی چی خراب و ناشیرین بی له پوژانی حج مه یکه ن ئه وی چاک بی ئه وه بکه ن.

﴿وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ ئه وی بیکه ن له چاکه، خودا ئه یزانن، به چاکه جه زاتان ئه داته وه، نه ته نها چاکه بکه ن به زه خیره و تیشوو ﴿وَتَكَزَّدُوا﴾ به چاکه له چاکه ﴿فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ خو پاراستن له

ہموو زادی چاکترہ نہ لہ پوڑانی ذیللہت مایوس ببن .. وہ .. نہلہ پوڑانی عزیزت مغرور، ﴿وَأَنْفُونَ يَتَأُولَىٰ آلَ لَبِيبٍ﴾ (۱۱۷) خاصہ خو لہ من بیاریزن، ئەزانن من چیم لہ ئیوہ ئەوئی، بہ ئیمانی کلور تیکی مەدەن، ئەمما کارو کسب خراپ نییہ، بەلکو ئەویش لہ ئەسبابی خو پاراستنہ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ چ گناہ و وہبال لہ سەر ئیوہ ﴿أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ کہ طلبی پزقی، قازانجیک بکەن لہ فەضلی خودای خو تان، بہ بی غل و غەش لہ دائیرە ی ئینصاف .

الآن مەعنا یەکم بە دل داہات، لام وایہ زور باشە، وەختی جەنابی پیغەمبەر و یارانی لہ مکە زور تضییق کران، هەتا قرەیشی یەکان قەتعی مەاملەیان لہ گەل کردبوون .. خواہشی موسلمانەکان و ابوو مقابلهی بالمثل بکەن، کہ لہ گەل ئەهلی مکە مەاملە نەکەن، ئەوہی لزومیانە لہ گەل خو یان بی بەن و هیچ مەاملە لہ گەل مەکی یان نەکەن و مەکنە مەاملە کردن لہ گەل ئەهلی مکە چشت لی کرپن بە گوناہ بزائن، بوئی بە خطاب لہ گەل ئەوان ئەفەرموئی (وما تفعّلوا من خیر... الخ) وہ الامە قام مەقامی تجارەت و مەاملە نییہ، تائیسنا نەگەیشتووینە زەمانیکی وەفدی (یمن) بین لہ سەر قەدەمی (توکل) بی زاد و زەخیرە، ئەوجا سوالی بکەن و خودا نەھیان بفرموئی: ئیمە خەریکی قتال و تیکۆشینین، پئی یە کمان چنگ بکەوئی بو چوونە (مکە). بناءً علیہ نەظمی قورئان ئیجاب ئەکا، ئەو نەوعە ئایەتە صەرف بکری لہ نەظمی نزول، محقق تەفسیری قورئان لہ سەر نەظمی نزول منتظم نابی، بوئی من گەلی زەحمەت ئەکیشم، تا نەظمیکی جوان ئەبینمەوہ، کہ ئایاتی قورئانی پی بہۆندریتەوہ، ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾ پاش شروع لہ ئەعمالی حەج، کہ لہ عرفاتەوہ بو مشعر الحرام ﴿فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ عرفات شوینیکی ناسراوہ،

احتیاج به تعریف ناکا، به لام مه لایانی (نحوی) بو توجیه و ئیعراب و ایان تیک داوه، که نه ناسرئ، مشعر الحرام (مزدلفه) یه. ﴿وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ﴾ چی بو داناون به ونه وعه زکری خودا بکه ن.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ ۱۹۸ ئە گەرچی له پيش هیدایه تی خودا، ئیوه له گومراهان بوون، گومراهی ئیوه له قضای ئه خواست، زیاتر پوو بچن له جهل، به لام عنایه تی ئیلاهی به کارتان هات.

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ له پیشوو خهلق له کوئی بو کوئی چوون، ئیوه پش و بکه ن، مه لئین له گه ل مشرکان تیکه ل نابین، به گویره ی اقوالی (مفسران) ئیره زور ئالوزه، به عضیک (من حیث افاض الناس) یان کردووه ته (عرفات)، به عضیک قه لیبی عبارته ئه که ن، حاصلی سه ره ده ری لئ ناکه ن، ئه وی دیته فه هم وه کوو (جبائی) ئه لئ، افاضیه له (مزدلفه) بو (منی) ئه وه پش سه به بی نزوله، وا چاکه ئیمه پش عه رض بکه ی ن (ثم افیضوا من حیث افاض الناس) ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ﴾ ئە گەر هفهویه ک، چشتیکی ناجائزتان لئ صادر بوو، داوای لئ خووش بوون بکه ن له خودا ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ۱۹۹ ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ که عباداتی هه جتان به جئ هینا و ئه داتان کرد ﴿فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ به که مالی فخر و مباحات زکری بکه ن، که ئیوه ی له جهل و (وثنی) هیناوه ته نوری توحید، له و ده نائه ته ی نه جات داون. ﴿كَذَرِكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾ وه کوو له زه مانى جاهلیه ت خوۆتان به ئابائی خوۆتان هه لئ هدا و، افتخارتان پیوه ئه کردن، ﴿أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ که نیعمه تی هه یاتی جسمانی و روحانیتان له ته ره ف ئه وه، نسبه تی عبودیه ت و ربوبیه ت گه لیک به هیزتره له نسبه تی «بنووه ت و ابووه ت» - منالی و باوکایه تی - جه نابی هه ق له و مه قامه آن

زیاده اعتنا ئەفهرموئ بهو آدابەیی، که له میانەیی ئەعمالی حج زکری ئەکا، هەتا له هیچی ئەمر به ئەعمالی حج نییە، چونکه جەنابی پرسالەت و یارانێ، دل‌تەنگ بوون شەوق و شەطارەتیان بو اقامەیی شەاعر نەبوو، یەکه‌م: مەنع کران. دوهم: به تەمینیکی نالایق و محدود و محصور، پێ‌دران بو چوونه ناو مکه به چ شادی و دل‌گوشادی، پوو بکەنه ئەو دیاره به چ جلال و کبریائی، جەنابی حج ئەمریان بکاتێ (کانە) جەنابی حج نوعاًما اشتراکیان ئەکاو، لەو حوزنە به معزوریان ئەزانی، بۆیێ به وهجهیکی سارد ئەعمالی حجیان بو ئەنوینی، هیشتا (مناسک) تەواو نەبووه ئەفهرموئ: که مناسکتان ئەدا کرد، ئەمه بکەن و، له میانە چوار قەسم به‌شەر، نیسبەت به‌املی خصوصی و عمومی، به‌یان ئەفهرموئ: ﴿فَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَقُولُ

رَبَّنَا آئِنَّا فِي الدُّنْيَا﴾ له دنیا ئەوی ئاره‌زوومانە بمان‌دهیێ، چی‌ترمان ناوی، ئەو کەسه ﴿وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِّنْ خَلْقٍ﴾ له ئاخەرت هیچ نەصییان نییە. ئەو‌روپایی و ئەوانی به اخلاقی ئەوان پەوشت‌دار بوون لەو قەسمەن، با وجودی له (الاهیون) هکانن، که قەطعی مناسبهیان له‌گەڵ خودا کردووه، ئەلین: ئیمان و دین، مانعی (ترقی)یە، (حقیقە) بو ئەوان وابوو له وهخته، که صرف ئیمانیان به طبیعت هینا بوون به (مادیون) زۆر له‌به‌رزوی و ترقی دان؛ چونکه ئەو ئیمان و دینی ئەوان هەیان‌بوو، نه تەنها مانعی ترقی یە (ماحي) کوزینه‌ره‌وه‌ی فیطرەتی بشری یە ﴿وَمِنْهُمْ مَّن

يَقُولُ رَبَّنَا آئِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ﴾ چاکە‌ی دنیا و قیامەت له خودا ئەخوازن و، سه‌لامەتی له عەذاب طلب ئەکەن، بناءً علیه تەفسیری (حسنه) به ژن زۆر ناشیرینه، خصوصاً خودا ئەفهرموئ (لا رفث)، به‌لام هەر تەماشای نەفەعی خۆیان ئەکەن، باکیان به میلیت و وه‌ته‌ن نییە، حەقیان به‌سه‌ر خە لقه‌وه نییە

چییان به سهردی، پهکیان به بهر ناکهوی، معظمی صلحای ئوممهت ئه مرؤ له و فیرقه، ههتا ته ماشای صلاح و مستقبلی اولادیشیان ناکه ن ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ ئه وانه به شیکیان ههیه له ئه مهی ئه یکه، طبیعی بی سهعی و عمل، ههچ ناکری، ئه گهر ههر دوعا بی «خسر الدنيا والآخرة» ئه بن، به لام ئه وانه نظر به ئه حوالی مقصرن، مسؤلن، حسابیان له گه ل ئه کری ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ئه بینن ئه وانی له حساب ماهرن، به لیكدانه وه زور خه ریک نابن، به گورجی حساب ئه کهن، نه تیجه یان لی معلوم ئه بی و غه له تی ورد وردیان لی بز نابن، ئه وی (بطیء) بی له حساب، ههتا قه له میک لیك ئه داته وه، تووشی غه له تی گه وره گه وره ئه بی و، حس ناکاو به دیهیه سرعه تی حسابی باری قیاسی له سرعه تی حسابی «حساب کهر» ماهره کان ناکری و، بالطبع ههتا محاسب سه ریع تر بی، زه مانی حساب که متر ئه بی.

(اکثری حجاج له و دوو گرۆه به دهرنین، به عضیک محضاً بو ناو و ناویانگ هه ج ئه کا.. به عضیکیش هه م زیارهت هه م تجارهت، لای خودایش ملاحظه ئه کا و لای دنیايش ته ماشا ئه کا!! ئیمه هیشتا له هه ج دهرنه چوون، بوین ئه فه رموی: ﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ که «ایام التشریفه» لاشک ئه و موسلمانانه له هه سرهت و ئه ندوهی خویمان، له بهر ته ماشا کردنی (عظمت) و شکوهی دوشمن ئه وه نده دل ته نگ بوون، خوا خویمان بووه ئه و دووسئ پوژه زوو برروا و بگه رینه وه، له بهر دل ته نگی ئه و پوژانه یان لا «ایام معدودات» بووه، ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ بقیه ی اعمال به دوو پوژ به جی بگه یینی، تالوکه بکا، ﴿فَلَا إِنَّمِ عَلَيْهِ﴾ گوناھی له سه ر نییه ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنَّمِ عَلَيْهِ﴾ ئه ویش وایه ئه م ما ﴿لِمَنْ أَتَقَى﴾ بو ئه و که سه ی خوئی بیاریزی، ناگای له خوئی بی له شه رری ئه و دوشمنانه ی بی

عهد و پیمان ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ له هہموو ئیش و کاران ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ
 إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (۲۰۳) و حہجیش وینہیہکی قیامہتہ، (خاصةً) بؤ ئہو کہسہی
 محزون و دلّتہنگ بی و، لہگہلّ ئہلی کفر و ضلال، شعائری حہج بہجی
 بہینئی ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قسہو گوفتاری ئہو^(۱)
 دائر بہ احوالاتی عمومی، حربی، سلمی، ارشادی، تعلیمی پہسند ئہکہی،
 وہقعیکی گہورہی ہہیہ لہ دلتا، لہبہر غایہتی استحسان ئہتخانہ حیرہت.
 ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ﴾ خودا بہ شاہد ئہگری لہسہر ئہوہی، کہ لہ
 دلّی دایہ، خودا ئہزانی باطن و ظاہری طیبو طاہرہ، دلّ و زوبانی یہکہ،
 خیر خواہی میللہت و دین و وہتہنہ، و الحال منافق و مفتنہ، غدارہ، مکارہ،
 سحّارہ، زوبانی ئہلی ﴿وَهُوَ اللَّهُ الْخَصَّامُ﴾ (۲۰۴) بہخیلو شہحیحیکی وایہ،
 ہیچ مہیلی حہقی نیہ، بہدخواہہ، یاخود لہ جدال و مناظرہ زور بہ
 قووتہ، ئہتوانی اسکاتی معارض بکات، ہہر کہسیکی مخالفی بی، ئہتوانی
 بہ حہت مغلوبی بکات، خولاصہ پیایوی مرشحہ بؤ پراسہت و امارہت،
 مولکو میللہت خیری لیئہبینی

﴿وَإِذَا تَوَلَّى﴾ کہ غالب بوو، بووہ صاحب ئہمرچ لہ وظائفی دینی، چ لہ
 وظائفی دونیا، ﴿سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ ئہوہندی لہ قووتہتی دابی
 قصور ناکا لہ فسادی بلاد و عباد. ﴿وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ بہ ظلمو
 زہلالہت، یا بہ ئہفسون و سحّاری، ئہمر ئہکاتہ خہلق بہ تہرکی دونیا،
 عہقلیان لی تیگ ئہدا، بویئ لہ مال و دەولت ئہچنہ دہر، فلاحہت و
 زراعہتیاں نامینئی، مال و مندالیان بہہیلاک ئہچی ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ (۲۰۵)
 پیئی پازی نیہ، کہوابی حہذہر بکہن باشہ، وہ ئہو بہعضہ بہدہرہجہیہک

(۱) ئہمہ قسمی سیہمہ.

عنادو متکبرن ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ﴾ رقی هه‌ل ئەستێ، تاثری عظمه‌تی دیته جو‌ش.

﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ لووت بڵندی سه‌رفرازی و افتخار به گونا‌ه ئە‌یگرێ، ده‌وری لی ئە‌دا -‌العیاذ باللله- (خاصةً) ئە‌وانه‌ی، که مرشدی کاملن، حافظی دینن، که‌سیک وایان پێ بلی: «ئە‌ی مال خراب کافر بووی، تو به‌و حه‌ضه‌ته ئە‌لیی -‌اتق‌الله-؟ ئە‌مه ظل‌اللهیه، مظهری تجالیه، وه‌کیلی روح‌اللهیه، په‌شیمان بیه‌وه. استغفار بکه!!»

﴿فَحَسْبُهَا جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ﴾ کافیه (جهنم) بو ئە‌وان، (جهنم) یش فه‌رشیک، یا پال‌پشتیکی زۆر خراپه، ئە‌و نه‌وعه پیاوه گه‌وره‌انه ئە‌بێ رایه‌خی، یا بالیف و پال‌پشتیکی لایقی خویان بو دابندری.

﴿(۱) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي﴾ ئە‌لین ئە‌ی فره‌وشی، من عه‌رض ئە‌که‌م ئە‌کرری ﴿نَفْسَهُ﴾ له‌کئی ئە‌کرری؟ له‌خودا نه‌فسی خوی به‌مالی خوی نازانی فه‌ضال له‌مالی ﴿أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ (کانه) به‌چی ئە‌دا، به‌طلبی په‌مه‌زامه‌ندی خودا، هه‌ر کارێ بێ دینی و دنیه‌وی، خصوصی و عمومی سه‌رف ئە‌کا، چونکه ئە‌زانی به‌یه‌قینی ئیمانی هه‌یه ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ﴾

﴿بِالْعِبَادِ﴾ (۲۰۷) خودای تعالی له‌نیهایه‌تی په‌حمه‌ته، له‌ده‌رحه‌ق عیبادی خوی، ئە‌ویش به‌متابعه‌ی خودا بو منافی عیبادی خودا تی ئە‌کو‌وشی، ئە‌و فیرقه‌یه (حقیقه) زۆر نایاب و ناده‌ره، خاصه‌ ئە‌مرۆ، ئە‌گه‌ر نه‌لین سوء‌ظنی هه‌یه، ئە‌توانم بلیم له‌سه‌ر کوپه‌ی ئە‌رضی که‌سیکی وانیه، ئە‌و ته‌قسیماته له‌اثنای مباحثی هه‌ج زکر ئە‌فه‌رموی تا وه‌کو حاجی پاش

(۱) ئە‌مه قسمی چواره‌مه.

(۲) یشری به‌مه‌عناي کرین و فره‌وشتن هاتوه، خاوه‌ندي ته‌فسیر لی‌ره‌دا به (کرین) معنای لی داوه‌ته‌وه... واته هه‌ندێ که‌س نه‌فسی خویان له‌خوا ئە‌کرن و Xه‌رفی ده‌که‌نه‌وه بو په‌زامه‌ندی خوا.

ئەدای فریضەى حەج نەگۆررئى، حەجەكەى بۆ خودا بئى، حاصلئى وەكو
(شېخ پەزا) ئەفەرموئى وانەبئى:

حاجى كە ز مروە و صفا بر گشتە
گر مار بود او چو ازدها بر گشتە
تنها نه ز خانەى خدا بر گشتە
آن خانە خراب از خدا بر گشتە

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً﴾ بۆنە ناو دائرەى
انقياد و اطاعە، مخالفە و عداوت لەگەڵ يەكتر مەكەن ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ دواى شوينى شەيتان مەكەون، شوينى شەيتانى تەمرد
و عصيان و عداوت و تفرقە يە .

﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (۴۰۸) ئەو بۆ ئيوە دوشمنئىكە عداوتى ظاهرە،
حاصلئى ئەمر ئەكاتە موسلمانان، هەموو ببن بە يەك بۆ منافعى عمومى
سەعى بكەن، وەكوو فرقەى چوارەم طالب پەزاي خوداي بن.

﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ﴾ ئەگەر سقوط بكەن، مەيل بكەن لە وشە پەفە ﴿مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ ئەو ئاياتى ئاشكرا دائر بە فاسقەكانى، خارج لە
دائرەى اطاعە ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (۴۰۹) ناگۆرئى لە گەورەى و
غالبى ناشۆرئى، دەست لە حىكمەتى خۆى هەلناگرئى، مقتضاي حىكمەتى
ئەو (انتظامە)، دانانى هەرچشتە لە موقعى مناسبى خۆى بۆ حالئى ئيوە بە
غەيرى ئاياتى نظريە، انقيادى عاقلانە و حەكىمانە هيجى تر دەست نادا، عجا
پاشى ئاياتى بيئات لە متابە لا ئەدەن و، احكامى حەكىمانە بە جئ ناهينن
چى يان ئەوئى؟ ئايا وەكو جوولەكان ئەبن؟ ئيمانى جەريان ئەوئى؟ ﴿هَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ ئايا انتظارى ئەو

ئهکهن، که خودای تعالیٰ ههضرهتی کبریائی، له ژیر سهراپهرده و (سرادق) و سایه بان هه ورئ بیته لایان، مه لائکتهتی له خزمهت دابن، ئه وجا ئه وانه ته ماشای خودا بکهن، عجا ئه وه یان ئه وئ؟ زه هی خه یالی باطل، ئه و خه یاله له ئیوه ناوشیته وه؟ دهوری ئه و جه هله نه ما، تی په رری.

﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ ئه و شه ئنه بررایه وه، قووهی او هام و خه یالی به قووهی فکر ضعیف بوو، نه ما، ئه وی هه زئه کا خودا ببینی، به چاوی هوش و ئیدراک، ته ماشای ئایاتی بیناتی خهلق و ئیجادی بکا، گوئی له ئایاتی قورئان رابگری، ﴿وَالِلَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورَ﴾ ئه وی عاقل بی تی ئه گا هه موو ئیش و کار له ئه وه وه یه، مرجعی هه موو امور ئه وه، ئه وجا هه ر حوکمیکی خودا بیفه رموی به قووهی ئیمان قبولی ئه کهن، (کانه) ئه وانی تووشی ئه و زه لله بوون و سقوطیان کرد، له شه ره فی به شه ری ئاگیان له ئایاتی سابقه نه مابوو، بویی (خطاب) له گه ل په سوول ئه فه رموی: ﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ تو سوال بکه له بنی اسرائیلی یان، چهند ئایه تی ئاشکرامان دانی، خوارق و معجزاتی ئه و ئایه تانه بو بنی اسرائیلی یان فائده ی چه بوو؟ جه هاله ت و قه ساوه تی دل بوو. نیه ایه ت عه رضی هه ضره تی (موسی) یان کرد «لن تؤمن لک حتی نری الله جهرة».

﴿وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ ئه وی نیعمه تی خودا بگورری، حکیمه ت به جه هل، په شاد به ضلال، ئایاتی مستمره به شوان ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ﴾ له پاش ئه وه ی نیعمه ته که ی بو هاتوو، نیعمه ت بو ئه و هاتوو، ئه و بو ی ماندوو نه بووه. (حقیقه) ئایاتی حکیمه ت و په شاد، دائماً پیش چاوه، توژی به خه به ری ئه وئ.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ له ده رحه ق ئه وانه: ئه ی موسلمانینه! نه کهن بینه هه م هه شری بنی اسرائیلی یان! حریص بین له سه ر دونیا، ئاخری

سه وقتان بکا بۆ عداوهتی خودا و ملائکتهت.

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾^(۱) ئەمما تزییناتیکی مزخرفه، وهک (پاقری) پووکه شه وایان بۆ مزین کراوه، که اصلا پوو له ئاخرهت ناکهن، ئەوی زۆر زۆر بۆ دونیا و کۆکردنه وهی ثروهت و سامان ههول نه دا، به بی عهقل و شیتی ئەزانن ﴿وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾^(۲) گه مهیان پئ ئەکهن^(۲) سهیری ئەمانه چهن گئژن! ته رکێ لذائذی دونیا ئەکهن! به خشونهتی ژین رازی ئەبن، ههتا حهياتی خۆیان صهرف ئەکهن!! به لام ئیوه متاثر مه بن، مه لئین «ربنا آتنا فی الدنيا» و بهس..

﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ئەوانی خو ئە پارێزن له مزخرفاتی دونیا، له هه وراز ئەوانن پۆژی قیامهت، له ئایهت ئیشاره ئەکا، که خودای تعالی داوا ناکا له موسلمانان به جارێ دهست له دونیا هه لگرن، مقصد ئەوهیه پابهندی نه بن، له محبهتی دا نه سووتین، با بۆ خۆیان به گویرهی مصالح سهعی بکهن، دهوله مند بین، به رری و جی صهرفی بکهن، خولاصه موسلمان (مکلفه) به مصالحی دین و دونیا.

﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(۱۱۲) غه له ته ده لئین ئەوی دونیای هه بی، نابێ قیامهتی هه بی، ئەوی قیامهتی هه بی، نابێ دونیای هه بی! که سی به زه ریفی سهعی بکا، سعادهتی دونیا و قیامهتی بۆ ئە بی، خودای تعالی پزقی ئەدا بی حد و حساب، یا به نهوعی نه بیته خاطر و خه یال، چهن دی له مه و دوا ده رئه که وئ، که جه نابی حه ق چ عنایه تیگ ئەکا بۆ حفظی مال. حه ضرهتی رب العالمین بۆ استسلام و اطاعه ی موسلمانان و، حه زه ریان له اختلاط دین و دنیه وی مجملاً، به یانی فیطرهتی به شه ری و سه به بی نار دنی پیعه مبه ران ئەفه رموئ، تا به هیچ پروو وه جه یگ نه مینی بۆ به هانه ی اختلاف.

(۱) ئەوانه ی کافر بوون ژیا نی دنیا آرایش دراوه بۆیان، یاخود به جوانی ده بینن.

(۲) واته کافره کان گالته به ایمانداره کان ده کهن.

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ له ئەوه له وه به شهر که م بوون، معیشه تیان بسیط بوو، (علی الاکثر) بئ لباس و خانوو بوون، له مغاره و ئەشکهوت و کوخ و زنجان دا دائه نیشتن، پره گی گیوا بهری دارانیان ئەخوارد، که م که م که م ه یوانیان نیچیر ئەکرد، له دهوری (حجری و حدیدی)، که ئیستا ئەهه ریان به ده ره ئەکه وئ .. دوایی ورده ورده بو (مدنیهت) هه لچوون، لباسیان دروست کرد، خانوویان بنا کرد، خواردنی به له زه تیان چیشت، ئەوسا ئەسبابی اختلاف زور بوو .. عداوه تیان که وته بهین: بو هیدایهت و ئیرشاد و انتظام معیشهت له فضل^(۱) و که ره م، به لکوو (معتزلی) ئەلین «بالوجوب» هادی حقیقی بلا تاخیر ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ﴾ پیغه مبه رانی هه نارد ﴿مُبَشِّرِينَ﴾ بو ئەهلی ئیمان ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾ بو ئەوانی خودایان نه ئەناسی ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ کتیبی له گه ل هه ناردن بو به یانی ئەحکامی عبادات و معاملات و سیاسهت، هه ریه ک له و کتیبانه بو هیدایهتی ئەهلی ئەو عصره کافی بوو. ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ تا کتیبه که فه صلی قه ضا بکا، اظهاری حق بکا ﴿فِي مَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ هه رچی هه بی دینی، دنیه وی جیههتی نزاعیان به تال بکا، له پاش تقرری نبوهت گه لیک له عبادی خودا هیدایه تیان به دست کهوت له منازعاتی فیطری نه جاتیان بوو، به لام مصیبه تی گه وره، به لاییک که چاره ی له غایه تی گرانی دا بئ، اختلافی مه لایه کان^(۲) بوو، ئەو گرۆه ی ئیمانیان به پیغه مبه ره کان هینا، مه لایان لی هه ل کهوت، نبوهه تیان کرده قه ومییته، اختلافی ئەوان گه یشته ده ره جه یه ک، که اختلافی ئوممه ته کانی پیش نبوهت، به نظری ئەو هیچ نه بوو ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾

(۱) خاوه ندی ته فسیر ده فه رموئ: خوا له فضل و که ره مه وه بئ تاخیر پیغه مبه رانی هه نارد دوای په یدابونی

هوی خلاف . معتزلی ده لین: ئەم هه ناردنه ی پیغه مبه ران واجب بوو له سه ر خوا .

(۲) زانیاری له ئاین ، هه ر ئاینیک بئ نه ک ئیسلام به ته نها .

اختلافیان نه بوو له حق، الاّ ئه و که سانهی کتبیان درایی، بوون به مهلا، اختلافه کهیشیان زور نابه جی بوو، چونکه: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ بوو، ئه بوایه ئه وان سهعی بکن بؤ زیاده اتفاق و صلاح و پیکی، لازم بوو «الاهیون» به سایهی ارشاد و نه صیحه تی ئه وان، هه موو بینه یه ک کتله مقابلی ئه وان هی، انکاری الوهییه ت و نبوه ت ئه کهن، به لام اختلاف و عناد و شقاقیان زیاتر بوو، بوونه سه به بی ام الفساد و ابو الفساد، کانی فیتنه، مصدری دوژمنی و عداوه ت، دل منافق، به زویان زانا، ئه و اختلافه ییشیان ﴿بَغِيًّا بَيْنَهُمْ﴾ محضاً له بهر حه سه د و عناد، ته جاوژ له حه ق یه ک، هه موو دین و ئاینی، که سه ری گرتبی، زور نه چووه له تهره ف رؤسایه کانی دین، به فساد چووه، خو به خو یی دوژمنایه تیان کردووه، ئوممه تیشیان له گه ل یه ک کردوون به دوژمن، ئه و نه وعه مه لا و رؤسای دینی یه بؤ ئوممه ت به مه قامی دلن، که دل به فساد چوو، هه موو اعضا به فساد ئه چچی و، تا ئه مپؤ حسد و بغض و عداوه ت، له به یینی رؤسای دین له شدده ت و زیاده ی دایه و، ئوممه تیش تا دئی پارچه پارچه ئه بن، له گه ل یه ک ئه بن به دوژمنی دنیا و دین، ئه و جا پاش ئه و اختلافه عظیمه، ئه هلی خلاف احتیاجیان بوو به پیغه مبه ریکی عظیم الشان، ساطع البرهان، صاحب شمشیر، عالم به اسراری کائنات، خو ش بیان، فصیح زویان، سینه پاک، دل خاوین، ده ماغ پر له عه قلو ئیدراک، صاحب صبر و ثبات و متانه ت، په ونه ق ده ههنده ی نبوه ت و رساله ت، (ماحی) شه ریعه تی خو ارق العاده ... خودا ئه و پیغه مبه ره ی نارد ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ به سهعی و ارشاد و تبلیغی ئه و پیغه مبه ره ..

﴿لَمَّا اختلفوا فيه من الحق باذنه﴾ مه نشه ئی اختلاف و شقاقی بؤ به ده رخستن، به زه ریفی، به تسهیل و تیسیری خودا، پاش ئه و هیدایه ته تی گه یشتن، مه نشه ئی خلاف ته مییز و ته فریقی حه ق و باطله، علم به

فائدهی ئایاتی (شان و معتاده)، ئەتانهوی وەکو جووله که و دیان بکهونه
 عناد و دوای شوان بکهون، ئەوه چشتیکی دووره له ئیوه، زۆر بی مهعنايه
 ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (۲۱۳) خودا ئەوی چهزبکا هیدایه تی
 ئەدا بو پئی راست. عینایهت و هیدایه تی ئیلاهی خاص نی یه بو قه ومیک،
 به لکوو بو هه موو اقوام و میله ل، به شهر عامه، ذاته ن ئیوه له صدری کتاب،
 طلبی پئی راستان کرد له خودا، پئی راست ئەوه یه، که پیتان نیشان دراو
 ئەدری ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ ئایا واتئ ئەگه ن ئیوه ئەچنه
 به ههشت، به مجرد ئەوه ندهی بلین: ئیمه موسلمانین ئیمانمان به خودا و
 پیغمبه ر هیناوه، وەکو جوو و دیان، بی سەعی و عمل، بی تئ کوشین ئەمه
 دووره، نابئ، خه یالی خاوه ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ئەوی
 به سەر ئوممه ته کانی پیش ئیوه دا هاتووه، هیشتا به سەر ئیوه دا نه هاتووه ..
 ئەبی ئەوه ی به سەر ئەوان دا هاتووه، به سەر ئیوه یش دا بی، ئەوجا بچن بو
 به ههشت ﴿مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا﴾ باس و شیددهت و ناخوشی وایان
 به سەر هاتووه و له رزیون، که گه یشتوونه دهرجه ییک نزیک له یهئس
 ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ پیغمبه ری ئەوان و ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ ئەوانی، که
 طولی صحبه تیان له خرمهت دا بووه و، طولی صحبه تیش گه لیک مؤثره،
 ئیمانی پی مه حکم ئەبی، له بهر شیددهت و سام و ده هه شه تی، که به
 سه ریان دا هاتووه، ئەیان گوت: ﴿مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾ که ی نه صره تی خودامان بو
 دی؟ له و شیدده ته دا خودا به فریادمان نه گا، که ی به فریادمان ئەگا؟
 که سیک بو خوی ئەو نه وعه شدانده ی به سهر دا نه هاتبی .. تاوی پوحی
 نه چیشتی، وەکو مه لایه کانی سەر کاغەز، قوته که ده ست ئەکا به تاویلات:
 ئەمه چۆن ئەبی؟ چه ز ئەکه ی بزانی! خۆت باوی ناو ئەو نه وعه احوال و
 شدانده، ئەوجا تی ئەگه ی. مه سه لی کوردی یه «تاوی یه کانه و قسه ی

بہرئاگردانی لیکدورن»، ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ (۳۱۴) نہصرہتی خودای تبارک و تعالیٰ نزیکہ، ئەمہ با وابی، ئەمما لازمہ ئینسان تہماشای قواعیدی ئیلاہی بکا.. ئەوی بووہ چۆن بوو؟ بہ سووکی عیبارہت ئیشی لاسووک نہبی، کہسیک مہردی مہیدان بی، ئەہلی تہجارب بی، ئەزانئ ہەر نہوعہ ئیشہ، بہ گوپڑہی گہورہی و گچکھی بۆ بوونی چ لازمہ، وەعدی ئیلاہی ناکاتہ سہبب عطلالہت و کسالہت، ئەیکاتہ مایہی قووہتی ئیمان.. بہ کمالی احضارات ئەچیتہ مہیدان، ئەگہر عقبہئیکی ہاتہ پیش، تووشی شیددہت و گیزاو بوو، مہئوس نابی، بہ لکو دہا زیاتر بہ وەعدی خودا قووہتی سعی و تی کوشینی زیاد ئەبی، تاکو بہ حول و قووہتی خودا نائی مطلب ئەبی، خولاصہ شرائطی انجازی وەعدی خودا، بۆتان بہیانکرا، امتحانی خوداتان بیست، ئەحوالی موسلمانان صادقان لہ آیة الصدق بۆ معلوم بوو، ئیتر (جنگلہ و فنگلہ) و ئەو بہر و ئەم بہر، لزومی نیہ، وقتاً کہ موسلمانان گوئی دیران لہ حالی خویمان گہیشتن.. دہولہ مہندان بہ مال.. مہردانی مہیدانی بہ سہرہاتنہ پیشہوہ «ئەوہ مال ئەوہ سہر».

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ ئەمر بکہ چ صہرف بکہین^(۱)، ئەفہرموی لہ ہہموو مال بچینہ دہر، بہدہستی خویمان، خویمان ناخہینہ ہیلاکہت، بہ حبی حہیات پابہند نین.

﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾^(۲) نظر بہ ئایہتی «وصیہت» ئەبی ئەوہندہ بی، پیئ بلین خیر، طبیعی ئەوی کہم بی، جئی سؤال و جوابان نیہ، ئەگہرچی وا ئەبی خیری کہم، جئی خیری زۆر ئەگری، ئەوی صہرفی بکہن.

(۱) مسلمانان دہپرسن لہ پیغمبر چ خہرف بکہین؟ اگر دہفہرموی تا لہ ہہموو مالی خویمان دہر بچین!
(۲) ئەمہ جوابی پرسیارہکہیہ: تہو خہیح دہدا کہوا مال یاخود (خیر) خہرف بکہن بو باوکو دایکو خزمو ہہتیوو مسکینو ابن السبیل، بی گومان ئەمہ بۆ حالی سلمہ لیرہ قسہ لہ آمادہ بون نیہ بۆ جہنگ.

﴿فَلِلّٰوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَاَبْنِ السَّبِيْلِ﴾ مال له نظر دینی ئیسلام خو شه ویسته، حورمه تی زوره، حفظی له ضروریاتی دینه، نه گهر صهرف بکری، نه بی له چشتیک صهرف بکری، له مال چاکتر و به نه فعتر بی بو خوتان و بو نوممهت، مهم ترین مقاصد له شه ریعته تی ئیسلامی به، پینجه وه کو علمای اصول ته فصیلیان فه رمووه: (حفظی دین، حفظی نه فس، حفظی عه قل، حفظی مال، حفظی نه سلی پاک).

﴿وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ﴾ (۲۱۵) نه وی بیکن له خیر بیده ن به خیر! خودا نه یزانی روحی خیرات اخلاصه .. نه وی بیکن له چاکه له خودا بز نابی .. (ما فی الضمیر) یشتان لای نه و، عه یانه و جزایش هه ر له ته رهف نه و تقدیر نه کری.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ حاجه ت نی به به سؤال، خوتان طلب بوون، بو جهنگ و مجبوریه تیش هه به: به لام هه ل مه خه له تین به لاف و گه زاف، له شینه یی دا مه ردی مه یدان زورن هه ر که س نه لی:

آتش بجان افروختن	از بهر جانان سوختن
باید زمن آموختن	کار من است این کارها

به لام که م له امتحان ده رنه چن، ﴿وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ﴾ زه حمه ته، مشقته بو ئیوه، نه بی کلفه تی حه رب بهینه پیش نظر، وا فه رض بکن، نه و تووشی گه رداوی بوون، نه و تصویر و تصوراته بوتان تمثل بکا، نه و جا ته ماشا بکن خو نه گرن، یان نا و، نه بی لیکن بده نه وه تحملی نه و مشقته عظیمه، نه و باره گرانه بو چی به، نه بی بو چشتیک بی، که نه و باره گرانه تان له سه رشان سووک بکا، نه و ناخوشی و تاله تان بو خوش و شیرین بکا، نه و غایه ته بکن به (مثلی اعلی)، بو پی گه یشتنی به شه وق و زه وق، تی کوشن.

﴿وَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ نابین انسانیکی نه خوش، حسب

الذوق دهرمانی تالی زور پی ناخوشه، ئەمما ئیمان به منفعتی، که له دهر دهر پزگار بوونه، اعادهی صحت و عافیەت و حفظی حیاته، رهغبهتی لهسهه نهفهرت زیاد ئەکا، مهیلیکی زور به قووهرتی بو خواردنهوه پهیدا ئەبێ، ئەوجا (لاجرمه)، حتی ئەوهی انتحار ئەکا، مهیلیکی وا شیدی بو پهیدا ئەبێ، که تهرجیحی مردن به سهه حیات ئەدا، قدام ئەکاته سهه خوکوشتن

﴿وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ گهلئ جاروا ئەبێ انسان نهفسی خوئی بهره للا ئەکا، زور ئەخوا.. پیی ئەگیری، نهخوش ئەبێ، یا بهسهه مشقهه نهجاتی ئەبێ، یا ئەمرئ، حاصلی گهلئک چشت ههیه، لای خیریشی ههیه و لای شههریشی ههیه، تهفریقی زهحمهته تقویهی لای خیرهسهه لای شههر، نظرو دقهتیکی زوری ئەوئ، زور غامضه ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢١٦)

لازمه جهنابی ههق له پرووی مهرحمهتهوه، بوټان بهیان بههرموئ، غهلو غهش لای خودا نیه، ههقو ههقیهتتان به پاستی بو به دهر ئەخا، پیغهمهبریش له طبیعهتی شاعرانه دووره، تا خراپ به چاک، چاک به خراپتان لی بگورئ، ئەو ههقیهته له بهحتی (طالوت) توضیح ئەکا، سابقاً فهرموئ: «الشهر الحرام بالشهر الحرام» ممکنه حسب المقام حمل بکریته سهه اشهری ههج و بهس، مانگیکی تریش ههبوو، ئەویش له (اشهر الحرام) بوو وهکو مانگی (رجب) و ئەهاته خاطریش که پرمضان له جیگای ئەو دابدرئ، لازم بوو استفسار له ئەویش بکری بوئ تکرار ئەفهرموئ..

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ ضمناً اشاره ئەکا، اشهری حرم له جئی خوئیهتی، بناءً علیه حقیقه سؤال له ئەوه نیه، سؤال له شههر کردنه له (اشهری حرام)، ﴿قُلْ﴾ بلی له جوابیان دا ﴿قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ شههر له شههری حرام، که (رجب) یش یهکیکه له ئەوان گهورهیه ﴿وَصَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ مهنعکردنه له پیی خودا، امن وامان و ئەمهلی چاکه لای خوا خوئشه، به ههه تهرزئ بیئ ئەو جاهلانه لهسهه حالی خوئیان، چوار مانگ تهرکی قتالو

جدال و سلب و نهب بکهن، خوا تیکی ئەدا؟ نعوذ بالله لهم خه یالە
﴿وَكُفْرًا بِهِ﴾ ئەم تجویزه کافری به خودا.. جهنابی حق پیغه مبه رانی، که
 نار دووه، بۆ انتظامی نار دوون، پئی چاک و چاکی نیشان بدهن.

له ئایهتی (كان الناس امة واحدة) بۆتان به یان کرا **﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾** (١)
 که عبهش مه نه، یان کفره (٢) به و مزگه وته به حورمه ته، سابقاً به یانی فه رموو
 (واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامناً) خودا ئەو امنیه ته چۆن تیک ئەدا؟
 حورمه تی ئەو مزگه وته گه وره، چۆن ئەبا به جاریک بی ئەهمیه ت ببی لای
 عه رب، هه ر که سیکی هه وه سیکی بوو هه ل بکو تیتته سه ری، وه کو
 موسلمانانی پاش زه مانی په سول و ابوبکر و عمر، حورمه تیان نه هیشته،
 هه تا دایانه بهر مه نه نیق، ئەمه هه مووی وایه، ئەمما **﴿وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ﴾**

﴿أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ده رکردنی ئەهلی ئەو مزگه وته له و مزگه وته، لای خودا
 گه وره تره، فضل له وه به و نده هیش رازی نین، مه نعی عیبادی خودا ئەکه ن،
 به فیتنه بازی دلێ خه لق پرر ئەکه ن له بغضی ئیسلام، ناهیلن دینی حق
 بلاو ببیتته وه **﴿وَالْفِتْنَةَ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾** فه ساد گه وره تر و خراپتره له
 کوشتن، هه ر که سیکی صاحب و یجدان بی، اعتراف به ئەوه ئەکا، پئی
 توجیه و تاویل نییه، بۆی لیره یه عنی له م جمله نافه رموی (عندالله).

مختاری من له عیلمی اصول ئەوه یه، قه دیدک او جمله ییکی فائده ییکی
 خاصی هه بی، جمله ییکی تر با زۆریش مناسب بی، به و قه ییده به ندنا کرئ،
 مطلق له سه ر اطلاقی ئەمینئ، مقدم بی، یا مؤخر **﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ﴾** ئەوان
 فه رقی بلد الحرام و شهر الحرام ناکه ن، له کۆلتان ناگه ررین و دائماً شه پرتان

(١) واوی عطف له جمله ی (والمسجد الحرام) اگر بگه پیتته وه بۆ (صد عن سبيل الله) ئەوا (المسجد الحرام)
 مجرور ده بی به (عن) و صدیش مه عنای مه نه.

(٢) اما اگر واوه که عطف بی له سه ر جمله ی (وکفر به)، ئەو ده مه (المسجد) به حرفی (ب) مجرور ده بی و
 عبارتته که ده بیتته (وکفر به و بالمسجد الحرام).

له گه ل ئە کهن ﴿حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ﴾ ههتا ئیوه وهرئه گێرن له دینی خۆتان، ئەو دینه پاک و خاوینه، که لایق بوو پوحی له پڕی بهخت بکهن ﴿إِنِ اسْتَطَعُوا﴾ ئە گهر بتوانن، نافهرموئ (اذا) ئیشاره بوو ئەوه ئەم استطاعه و تمکنه ی ئەوان له (ئە گهر) دایه، ئەمما (بحول الله وقوته) ناییته جئ، به لام محال نییه وهکو (سیدی آلوس) توهمی بردووه، وه الا ئه ی فهرموو (لو)، خۆتان ئەزانن ئەو دوژمنانه ی ئیوه زۆر به قووه تن، رقیان له ئیوه به شیدده ته، ئەوی له دهستیان بئ بوو وهرگێرانی ئیوه، قصور ناکهن، ئیوه ییش زۆر بهر چه زهر و ئاگادار بن ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ﴾ که سیکی بگهر ریتته وه له دینی خۆی له ئیوه، (والعیاذ بالله) به فیتنه بازی ئەوان، یا به ترس له ئەوان ﴿فِيْمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ تکرار نه گهر ریتته وه بوو دینی خۆی و له سه رکفر بمرئ ﴿فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ هه ر عه مه لیکی کرد بیتیان باطل ئەبئ، بئ فائده و ئەمه ره ئەرروا ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ نه له لای خودا مکافات ئەبینئ، نه له لای عه بد حورمه ت، وه کو حوشتریکیان به سه ر دیت که له میڤرگ و میڤرغوزاری خووش له وه رر زۆر بخوا و له زگی دا بمینئ، زگی بئاوسی و بمرئ، هه ر مه عنایه ک له (لغت) دا له - حبط - دراوه ته وه زۆر مناسبه ی له گه ل حالی ئەو نه و عه که سانه هه یه .

﴿وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢١٧) ئەوانه ی له سه ر کفر مردوون، ئیمان و عه مه لی پێشوویان هه دهره، بئ ئەمه ره، له جه زای ئەو کفره (مخلد فی النار) و نه جاتیان نییه .

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ئیمانئکی صحیح، به شاشه تی چووبیتته ناو دلیان، بووبیتته (ملکه) و کیفیه تیکی راسخ ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ نه وه ک له پڕی عداوته تو حبی انتقام ﴿أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ ئەمه لی

ئەوان به پرحمەتی خودایه، تعالی متانه تیکی داونی، که وەرگەرران له ئەوان به محال حسابە، فیتنە و فساد تاثير له ئەوان ناکا، له دریای له شکری دوزمن و قووەت و مکنه تیان ناترسن، دیاره که ئەمەلی غالب بوو، سهوقی صاحبی ئەکا بۆ خزمەت ئەوی خۆی به پرحمەتی خودا هەل بخەلە تینێ، درۆ ئەکا اصلاً اومیدی پرحمەتی نییه، ئەمە پێی ئە لاین «خە یالی خاو»، ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (۴۱۸) ئەگەر نظر به عزی مقام الوهیهت قصوریکیان بیی، خودا دای ئەپۆشی، ته جاوزیان لی ئەکا، سبحان الله! لیره باسی ترسیان له خودا ناکا باوجودی ئەبی ئیماندار له بهینی (خوف و پجا) دا بی، چونکه ئیره جی نه هیشتنی ترسه، لایق وایه، که ترس به دلیان دانهی، له م ئایه ته به دەرئەکهوی ئەمر به قاتل بۆ حفظی دینه، بۆ دهفی فیتنە و فسادە، حفظی عەقلیش زۆرمههه، خصوص بۆ (حفاظ) ی دین، ئەبی دائماً ناگادار بن، ئەوی ئەسبابی تیکدانی عەقل بی، لی دوور کهون، فیتنە ئەنگیزه کان، خاصە ئەهلی کتاب، سیاسی یه کان، مقدره تی خویان صهرف ئەکهن له ازاله ی عەقلی خەلق، له عەقل و عیلمیان ئەکهن، تاکوو خەلق وهکو حیواناتی اهلیه بویان مسخر ببن و، شه راب و عارهق و سائری موادی پوحیه افسادی عەقل ئەکا، طبعاً ئەهلی هوش و گۆش له و مه قامه سؤال له مزیلاتی عەقل ئەکهن.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ شه راب خۆره وه، (لاشک) تووشی اضاعه ی مال ئەبی، حفظی مال وهکو عه رضم کردن له ضروریاتی دینه، بۆی پیکه وه سؤالیان دهر باره ئەکرئ ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ عه رضم کردن پیغه مبه ر شاعر نییه، که وایی قورئان کتیبیکی شاعرانه نییه، اصلاً اخفای حقائق ناکا.. ئەوهی به یانی بکا، حه ق و حه قیقته تی جهه تی (مضرهت) و منفعتی به دهر ئەخا، بی تلبیس و بی تزویر، بۆی ئەفه رمووی: شه رابو قومار گونا هیشیان زۆره، منافعی شیان گه لیکه،

ئهگه رچی له نظر عه قیل ئهوی منفعت و مضرهتی مساوی بی، ته رکی (اولی)یه، ئه ماما شه راب و قومار، مضرهت و منفعتیان مساوی نییه، به لکو ﴿وَاِنَّهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ هه موو عقلاً و علماً اتفاقیان ههیه، چشتیکی که زهره ری له منفعتی زورتر بوو، ته رکی واجبه، که وابی واجب ناکا جه نابی کبریائی، تصریح به (حرمتیان) بکا خاصه له زه مانی قتال.

یه کیکی (موثوق به) بوی گیرامه وه له وه قتی حه ربی عمومی، مجبوری هيجرهت بوبوو له ئیران بۆ ئیره، گوتی: «پیش اعلانی حه رب آمریک له امرای عسکریه ی (رووس) له سابلاغ ده عوه تیکی عمومی کرد هه موو لاییک له سه ر سفره گرد بووینه وه، انواعی طعام و مشروباتی روحی له سه ر سفره بوو، له ئانی ده س پی کردن به خواردن، ته لگرافیکیان دایی خه به ری اعلانی حه ربی پرووسی تیدا بوو، ده رحال گوتی: ئه و مشروباته هه ل بگرن، ئیتر حه رام بوو له ئیمه، تا زه مانی حه رب خه لاص ئه بی، نابی که س له ئیمه مسکرات بخواته وه ..» .

یا للعجب! ئه وه نده ی ئه مرۆ اجانب خه ریکن مه نعی شه رابو قومار بکه ن، موسلمانان زیاتر خه ریکن تعمیمیان بکه ن، ئه مرۆ له ناو کوردانیش ئه و سراههت ئه کا! ئه مینم ئه و جا کورد نابن به هیچ! ئه وه ندی بوون له ئه وه ندیش ئه بن.. خودا ئه زانی رفاقه تی رۆسای دینی ئه و عصره، گه لیک له شه رابو قومار خراپتره بۆ عه قیل و مال بردن، و له زیاده خراپیش ناموس به رباد ئه کا، بۆ سامعین ده رئه که وئ جوابی ئه م سؤاله زۆر ته واوه، ئه ماما ئه وانی سؤالیان له انفاقی مال ئه کرد، حه زیان لی بوو به یانی مه صره فیان بۆ بکا، چ صه رف بکه ن؟ بیده ن به کئ؟ خصوص ئه و سؤاله له زه مانی حه رب بوو، ئاره زوویان وابوو، که بۆ مجاهدان بی، بۆی تکرار سؤال ئه که نه وه ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ به ئومیدی ئه وه ی، جوابیکی موافقی مه یلی خویان بدریته وه، ئه و جا ره جوابیکی مختصر و مفیدیان ئه داته وه ﴿قُلْ

الْعَفْوُ ﴿۳۱۹﴾ ئەوی سووک و ئاسان و خوْشبی لاتان، انفاقی بکن چ له دایکو باوکو اقارب، چ له عهسکهری ئیسلام، تهعیینی مقداری چاک نییه، نهوهکو ببیته دستور العمل و قاعدهی مستمرهی الی الابد، شایه دا له زهمانیکی تر احتیاجی به زیاتر بوو، حاصلی موسلمانان له سهریان لازمه به گویرهی زهمینو زهمان صهرف بکن و مقداریان بو تهعین نه کری و ههم دانانی مال بو ئەهلی قتال زور خراپه، بالخاصه الان نهوهکو سهبرکیشیتته طمع، له وجههی خودا لابتا، گهلیک (مزخرف) بین خوْیان به مجاهد قهید بکن، مقصودیان خودا نه بی، مال بی، ئەوجا ئیش تیک ئەچی، قلب و قلابیکی زور، داخلی سلکی مجاهدان ئەبن..

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿۳۱۹﴾ تا تی بفرکن بوْ خاطر ی بزنان خوْریایی نییه، بهم نهوعه جوابتان ئەداتهوه، ئوممهت ئەگه ر ئوممهت بی خوْی به خواهشی خوْی مال له مصالحي دهولهتو وطن صهرف ئەکا، حاجهت نییه له سهریان تهعین بکری و، تفکرو تأملی ئیوهیش ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ له أمور و مصالحي دونیا و ئاخرهت بی، وهکوو (بیغا) مهبن ئەوی پیتان فیترکن، ههر ئەوه بلینهوه، به تی فکرینی خوْتان، پی بوْ مصالحي ورد ورد بیهن، چ دنیهوی چ اخروی، ذاتا اول و آخر ئیمه مقصودمان ئەوهیه، که ببنه قهومیکی متفکر له جمله و ئایاتی کورته له کورته له، حکمیاتی زور به دهر بخهن.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ ئەم سؤاله عاندی حفظی نفسه، خاصه له زهمانی حه رب (یتیم) زور ئەبن، لازمه سؤالیان له حهق بکری، له ئایاتی سابقه دهرهجهی انفاقی ایتام معلوم بوو، که چهند خیره، لیره مقصد تربیهیه ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ اصلاح و تربیهی ئەوان خیری گه ورهیه بو ئیوهو ههیهتی اجتماعی. ههتیو زور چاک اصلاح نه کری، ئەبیته مایهی شه رر و

فه ساد ﴿وَأِنْ خَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ ئە گەر له گه لیان تیکه لآو ببن، ئە وانه برای ئیوهن، به چاوی سووک ته ماشایان مه کهن، و عاجز مه بن به بی عاری و چه قاوه سوویه تیان.. ئە بی زۆر به تحمل و رفق بن له گه لیان، خلاصه ظاهر و باطن خه ریک له اصلاحیان، تا ببنه پیاویکی په شیدو به کار و به که لک..

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ فیلی لی ناکرئ، ئە گەر به ظاهریش خۆتان بنوینن به مصلح، به لام (مافی الضمیر) تان له خهلق بزر بکهن، له خودا بزر نابئ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ ئە گەر خودا ههزی بکردبوایه ئیوهی ئە خسته عهذاب و مشقهت، ئە ی کردنه هه تیو، تووشی هه تیوباری ئە کردن.. له شوکرانه ئە وهی، که خودا اولادی ئیوهی نه کرده هه تیو، ئیوهیش ببنه بابی هه تیوان و اصلاحیان بکهن ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ۳۰ ﴿ههز ئە کا ئیوهیش میلیه تیکی عهزیز و به شه رهف بن، فیری عهقل و حیکمه تی ورده و رده بن، نه فستان له جهل ده رچئ بۆ کمالاتی علمی و عملی له قووهی نظری و عملی ته واو بن، مه قام و موقعی چشت بزنان، ئە گەر ئاره زوی صلاحتان ههیه، له ئە وه له وه ته ماشای مصور بکهن، که ژنه.

ئیه که قهومیکی محاربین نفوستان پی ئه وی، به لام نه زۆر و بۆر، به لکو نه سلی به هیز و صاغلام، دوور له ناساگی دلی و به دهنی ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ با له گه لیشتان محارب نه بن، مشرکی عه ره ب، یا ئە هلی کتاب، فه رقیان نی یه، مشرکی اسرائیلی خراپ تره، منداڵ اخلاقی فطری له وه قتی (تکون) وه ره ئه گری، ئە و (توارنه) طبیعی یه، زهره ی حه یات ئە گه رچی له پیاو پهیدا ئە بی، ئە ماما تطوراتی له ناو په حمی دایکی دایه.. نو مانگ له وی دا ئە مینئ، کیفیاتی پوچی و بدنی، له پوحو بدنی دایک وه ره ئه گری و، تا گه وره ئە بی له باوه شی دایکیه تی، دیسان ته ربیه له ئە و وه ره ئه گری، ئیه ماره یان مه کهن ﴿حَتَّىٰ يُؤْمِنَ﴾ هه تا ئیمان نه هیئنن به ئیمانی صحیح و پاک،

نهوهک بههه‌وای می‌رد کردن و تجسسی، ئەو نه‌وعه له زمان سیاسه‌تدا زۆره .. ئەبوايه ملوکی ئیسلام خۆیان بپاریزن! ئەوجا که بهو نه‌وعه ئیمانیان هیئا، ته‌ئسیری فیطری ضعیف ئەبئ، تربیه‌ی ئیمانی قووه‌ت ئەستینئ **﴿وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ﴾** ئەوی ئیمانداربئ، هه‌تا جاریه چاکتره له بئ ئیمان، (ولو) له ئەشرافان بئ «مالئ بابم کوردی په‌کی له‌سه‌ر مؤمن و مؤمنه‌و مشرک و مشرکه نه‌که‌وتووه!!» اصلاحی دین، که به‌پاستی بئ فه‌سادی خوین ناهیلئ **﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾** با زۆر لاتان جوان بن.. به‌حسن و جه‌مالی خۆیان ئیوه بخه‌نه حیره‌ت.. خۆبپاریزن، پئ له نه‌فسی خۆتان بیئن، بۆ پیک هینانی لذه‌تی نه‌فس، اولادی خۆتان به‌فه‌ساد مه‌ده‌ن و، شرائطی ماره‌کردنی جاریان له قورئان به‌یان ئەکرئ.

﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ کچی خۆتان مه‌ده‌ن به‌مشرکان، با زۆر پیاوی گه‌وره و خانه‌دان بن **﴿حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾** هه‌تا ئیمان ئەهینن به‌ئیمانی پاست بئ حيله و خدشه، ئەو وه‌خته ئەگه‌ر خواهشتان بوو قه‌یدی نی‌یه **﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ﴾** به‌نده‌ییکی ئیماندار نظر به‌تربیه **﴿خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ﴾** با وجودی ئازاده له‌عه‌بد ماره‌یی نابئ ابدأ، هه‌تا جاریه‌ییکی له‌عه‌بدیک ماره‌کرا بئ بووبیتته ژنی، ئەگه‌ر جاریه‌که ئازادکرا، می‌رده‌که‌ی به‌عه‌بد مایه‌وه، نکاحه‌که نامینئ به‌تال ئەبئ، بناءً علیه ئەمه بۆ زیاده‌تنفیره له‌ئه‌هلی شرک **﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾** به‌مال و جه‌مالی و عزوجاه **﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾** ئەوانه طبیعه‌تیان وایه، مطلقاً له‌افسادی عقیده‌تی خه‌لق تئ ئەکۆشن، ده‌عوته ئەکه‌ن بۆ ئاگر، ئەگه‌ر ئاگر په‌رست بن بۆ عه‌ینی عیباده‌تی ئاگر، ئینسان ده‌عوته ئەکه‌ن **﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ﴾** وحدانیه‌تی باری، که پاسخ‌بوو له دل، چ له‌دلئ نیر، چ له‌دلئ مئ، یه‌عنی ئیمان به‌خودا به‌وه‌عه‌سه‌ر

ئەكیشتیه بههشت ﴿وَالْمَغْفِرَةَ﴾ ستیری عهیب، ئە گەر فطرهٔ نهوعه خهباشه تیکیشی هه بی، ئیمانی صحیح بزری ئەکا، ناهیلئ ئەثری به دهر بکهوئ، ئەم دهعوته فیطریی یه ﴿بِأَذْنِهِ﴾ به رهضای خودایه، ئەوجا تهربیهی که سببی له گهڵ تهربیهی وهه بی توافقی ئەکا، یه عنی حهق وایه وابئ، وه الا وهکوو (معری) ئەلئ:

واذا تساوت فی القبیح فعالنا

فمن التقى وأینا الفجار

«ئە گەر له خراپه دا افعلمان وهکو یه ک بی، کیمان مؤمنین؟ کیمان کافرین له یه ک جودا نابینه وه؟» ئیمانی بی عمل، نابئ به علامهتی خیر ﴿وَيَبِّئُكُمْ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ تهئسیری (ارشی) هه موو کهس نایزانی، زور بزهر، خودا به یانی نه فهرموئ نازاندئ، به لکو اکثر له علمای (ملیون) انکاری ئەکن، ئەلئ ئەو تهئسیره طبیعی یه، منافی خهلقو ئیجادی ئیلاهی یه، با وجودی خالق خوئ ئەزانئ و، بهو نهوعه بو ئیمه به یانی فهرمووه، ئیمه نابئ به نظریه ی ئەوان هه ل بخله تیئن.

له پاش ئەوهی، که به یانی فهرموو تهئسیری وراثیمان زاناند، ضمناً ئەمر ئەکا به دهوام تذکر و تفکر الی الأبد، موسلمانان مراعاتی ئەو قواعدی فیطری یه بکهن، ئەمما مع الاسف له فیکرا کرا، (خاصةً ئەمرو! عه رضمان کردن له نه سل، زوری و بوری مقصد نی یه .. نریتیکی طاهر القلب بئیه به قووته تهربیه چاک. پهحمی ژن ئە گەر به قووته و خاوین بی، توویکی به قووته تییدا شین ئە بی، وه الا یا نابئ، یا ضعیف ئە بی، ئەمه ره که ی ئە بی به بارگرانی، نه خوئ استفاده له حهیات ئەکا، نه قهوم له ئەو، بوئ ئە فهرموئ: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ تقرب له زهمانی حیض له مکانی حیض چۆنه؟ ﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾ ناساغی یه کی طبیعی یه، پهحم بی قه راره،

خه ریکی (قهی) و افرازه، له و وهفته تقرّب زۆر خراپه ﴿فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ له مکانی حیضیان لادهن، معاشره یان له گه ل مه که ن، باقی پیکه وه نوستن و له هۆده ییکدا بوون و دهست له ملانی و بۆسو که نارو چشتی و ا قهید ناکا، خولاصه ی ئه و قیودات و تضیقاتی له تهورات دا هه یه، له قورئان دا نی یه ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ﴾ به معاشره ی زواج ﴿حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ﴾ هه تا پاک ئه بنه وه به پاکیه کی طبیعی ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ که خویان پاک کرده وه به شووشتن ﴿فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ به ئه مریکی تکوینی و تشریعی، شرع مداخله ی فیطره ت ناکا، الا له جهه ت تعدیل نه بی، هه ردوو ئه مری آمریکن تباین له به ینیان دا نی یه، ئه وی شرع بکاته مخالفی طبع، مقصدی مه حوی شرعه ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ خودای تبارک و تعالی ئه وانی (تواب) بن، زۆر توبه بکن به و مه عنایه، ئه گه ر گونا هیکیان لی صادر بوو، زۆر به گه وره ی بزنان، گه لیک متاثر ببن، زۆر زۆر په شیمان ببنه وه و، ئه و که سانه ی پاک و خاوی بن به خاوینی طبیعی و به خاوینی شرعی، خودا خووشی ئه وین، که وایی ئه وانی له ئه ساسه وه پاک بن، تووشی گوناهان نه بووین، گه لیک خووشه ویستن.

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ ژنی ئیوه مه زره عن بو ئیوه، وهفتی (تو) و وهفتی (شو) له یه ک جودان، ممکن نی یه (زراع) به هیچ زه مانیک (بالکلیه) بوو له مه زره عه ی خوی وه ربگیرری، به هیچ نه وعیک ته ماشای نه کا، ئه گه ر له غضب نه بی، ئه و نه وعه تضیقاته ی، که له تهورات دا هه یه، قابل نی یه حوکمی ئیلاهی بی و مقصد عظمی ولده .. تووی چاک به ئه رزی خاوین وه ر بکن، محصولاتی چاکی لی په یدا ئه بی، ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ له سه ر جی شیان دابنیشین دهست له ملی یه کیش بخه ون، دهستاویش بخون و بخونه وه، الا له زه مانی حیض له مکانی حیض خوتان بیاریزن .. له حینی

معاشرہ بہ ہر کیفیت تو وہ ضعیفہ تیک بی، شرع مداخلہی نی، ہرچونی پیتان خوشو بہ لذتہ بہو نہوعہ بکن، ئو مکانی کہجی (حراثت) نہبی، موضوعی بہحث نیہ قسہی لی ناکری، ئہگہر بہ تسویلات نہبی طبیعت لی متنفرہ، ئینسان بہ انسانیتہی خوی، نابی لہ حیوانات کہمتر بی .

﴿ وَقَدِمُوا لِلْأَنْفُسِكُمْ ﴾ چا کہ بؤ نہفسی خوتان و بؤ نہسلتان ئوہ پیشبخن، ہتا جاریہ لہسہر (حر) تقدیم بکن، ئہگہر مصلحتہی تیدابی . حاصلی (اختاروا لنطفکم الارحام) ارحام پاکو پاکیزہ، بہ گویرہی قانون زواج بؤ خوتان اختیار بکن . ئہلین لہ قانونی افلاطونی دا ئہلی: «مندالیک کہ بہ وولد بوبوایہ، دہرحال چہند اطبا ئہچون مندالہکہیان کہشف ئہکرد، ئہگہر لایق بوایہ اعتنایان بہ محافظہی ئہکرد، ئینسانیکی بہ قووہتی لی پیدایہ بوو، وہ الا مندالہکہیان ئہکوشت و دایک و باوکی زوریان پی خوشبوو.». ئوہ لہ قانونی ئیلاہی دا نیہ بیروحمی یہ، قانونی ئیلاہی ئہمر ئہکا بہ سہعی بؤ اصلاح ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ لہ ہموو ئیش تہقوای خودا بکن، عہدالت بکنہ پیشہی خوتان، خوتان لہ افراط و تفریط پیارین، بہ ئیمان خوتان ہل مہخہلتین .

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ ﴾ لہ پوڑی جہزا ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿۳۳۳﴾ بہ پیگہیشتنی ئہجر و ثواب لہ پاداشی اطاعہی اوامر و نواہی، خودا جزای چاک وہر ئہگرن ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ خودای تعالی مہکہنہ حاجزو مانع لہبہینی خوتان و اموری خیرہی، خصوص کاریک، کہ عائدی ژن بی لہبہر سویندتان .. بلین: «سویندماں خواردوہ ئو ئیشہ چاکہ ناکہین» خودا بؤ ئہم نہہی یہ ئہکا؟ بؤ خاطرہی ﴿ أَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا ﴾ وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳۴﴾ ئیمان بہ خودا، حفظی

شهره فی مه قامی الوهییته، بۆییه ئینسان چاک بی پهرهیز کاربی له بهینی مخلوقات اصلاح بکا، ریکتان بخا، بۆی نییه بیکه نه سد و بهند له بهینی خوتان و ئه و کاره چاکانه، بالخاصة سویند خواردن له سهر معاشره نه کردنی ژن، لای خودا زور ناخوشه، چونکه ئه مه عصیانیکی ئیلاهییه، هم له جهته خالق هه م له جهته شارعی. (۱)

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ خودای تعالی ناتانگری به گوناهی، که له نفسی خواردنتان دا هه یه ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ به لان ئه تان گری به ئه وهی، که دلئ ئیوه که سبی کردووه، که مهیل و په غبهت و نه فره ته له چاکه، ئیوه ئه بی دلئ خوتان اصلاح بکه ن، مائلئ بکه ن بۆ چاکه، متنفرئ بکه ن له خراپه خاصه خراپه، له گه ل ئه هل و عه یال، که سیکی دلئ به میولی فاسده به فه ساد چووبی، خودا عه ذابیکی ئه دا، که ته ئسیر له دلئ بکا، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (۲۲۵) خودا (ستار العیوب) ه، ئیوه یش اغماض بکه ن له عیبی یه ک، چاو بیوشن، خودا به حیلمه، تالووکه له عه زاب و عقاب دان ناکا، ئه بی ئیوه یش به کاوه خو بن، خو بگرن، تیگ نه چن.

﴿لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن فِسَائِهِمْ﴾ بۆ ئه وانهی که (ایلا) ئه که ن، یه عنی به سویندیکی نقیصه، ساقط له اعتبار خو دور ئه خه نه وه، له قریبو یۆلداشی حیات و، هه م آغوشی خویان ﴿تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ خو بگرن له سه ر ئه وهی سویندیان خواردووه، مدهی چوار مانگ له ئه وه نده زیاتر نا، ئه وه یش له حلمه، حیلیمیش هه دیکی هه یه، ئه گه ر تجاوزی لی بکا خراپه، ئه گورری ئه بیته خمول و کوژانه وه، ئه وجا ﴿فَإِن فَآءُوا﴾ ئه گه ر گه ر رانه وه بۆ معاشره ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (۲۲۶) له گوناهی نهفسی سوینده که، عه فوتان ئه کا

(۱) (والله سمیع) بۆ ایمان و سائر اقوال (علیم) بما فی الصدور، ئه وئایه ته هه یج دهخلی به سویندی ابوبکر نییه، باسی سویندی (صدیق) له سوره ی (نور) دا دی.

﴿ **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ** ﴾ جہزمیان ہیٰنا بہ سہر طہ لاقدان ﴿ **فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** ﴾ (۲۲۷)
 خودای تعالیٰ ناگادارہ بہ ہہموو نہوعان، پاشدان (جنگلہ و فنگلہ) مہکن،
 بلین (مقصودمان ئہوہ بووہو ئہوہ نہبووہ و، وامان گوتووہ و وامان
 نہگوتووہ) بہو فاکوفیکہ لہ خودا نہجاتتان نابئ.

ئہی ئہگہر کہسیک بی، سویند خوئی مہنہ بکا، حوکمی شرعی چییہ؟
 شرع لہو نہوعہ چشتہ ہیچ حوکمی نییہ، غہیری نہصیحت، ئہمما کہ
 سویندی خواردو خوئی ہاویشتہ ژیر پہنجہی شرع، ئہوسا ئہتوانئ حوکم
 بکا.

ئہی ئہگہر ہیچ لایئکی نہکرد حوکمی چییہ؟ خو نابئ ہہروا
 بمینیتہوہ؟! لیئرہ قورئان التفاتی پیٰناکا، (کانہ) مؤمن نابئ بگاتہ
 دہرہجہییکی، کہ یہک لہو دووانہ بہجئ نہہینئ، حوکمی ئہوہ لہ باسی
 (نشوز) بہ دہر ئہکہوئ.

ئہوہ حوکمی سویند خوئرہکان، ئہی ژنہکان ئہگہر تہ لاق دران، حوکمیان
 چییہ؟ ئایا (عدہ) یان ہہیہ یان نییہ؟ ظاہر وا دیتہ خہیال، کہ (عدہ) ی
 نہبی، چونکہ چوار مانگہ نزیکی نہکہوتووہ، ئہفہرموئ: ﴿ **وَالْمُطَلَّقَاتُ** ﴾
 بہ (ایلا) کہوابئ (الف لام) لیئرہدا بو عہدہ، عہدیکی زور نزیکہ،
 عہجاییہ (اصولی) یہکان لہو عہدہ غافل بوون و ئہلین عامہ، ﴿ **يَتَرَبَّصَّنَ** ﴾

﴿ **بِأَنْفُسِهِنَّ** ﴾ با زہحمہتیش بی لایان، چونکہ ئہوہ دوو (عدہ) یہ معنی، ئہمما
 ئہبی تحملی بکن، چونکہ عدہ دوای طلاقہ، پیش طلاق ہہر ژنیہتی،
 گہلیک وا دہبی طلاقئ ژنومیرد بی عاجزی، زہمانیک معاشرہ لہگہل یہک
 ناکن ﴿ **ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** ﴾ صحابہی کرامو مجتہدین نزاعیانہ لہسہر (قرء) زہمانی
 پاکی مرادہ، یا زہمانی خوین، بہ لام حملی لہسہر (طہر) باشہ خاصہ،
 لیئرہ چونکہ طولی مدہ ہہیہ وکو عہرضمان کردن، وہہم معلومبوو وہقتی

حیض دوورہ له معاشرہ، زہمانی پاکی مہیلی طبیعی زیاد تہکا و، تہمیری شرع له سہر خوگرتن و انتظارہ بو زہمانی پاکی. تہگہر تاملیان له و مہقامہ بفرہموبوایہ، تہبوایہ ہہموو لیترہ اتفاق بکہن، تا وہکو تہ و طہری تییدا طلاق تہدری، (ولو) زور کہمیش بی بوئی حساب بکری، زہمانی انتظاری گہلیک دریژ نہبی.

﴿وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ اختلافیان ہہیہ له (ما خلق اللہ) ابن عباس- تہفہرموی: (ولد)، چونکہ خہلق بو تہو ظاہرہ، - ابن عمر- حمل و حیض، تہوہیش مختاری جعفری صادقہ، عکرہ تہفہرموی (دم حیض) ہ، (حقیقہ) تہوہ له ہہموویان نزیکترہ، لیترہ تہوی بلئی خوینی حیض له پرحمدا خہلق ناکری، زور سہوہ تا (ول ولہی) ی ناو پرحم شہق نہبی، تہو خوینہ پہیدا نابئی، تہو مطلقہیہ چوارمانگ پیش طلاق پابردوہ له و چوارمانگہ، حمل تاشکرا تہبی، جئی (کتم) نامینی، بہلئی تہگہر نظر بکہنہ پیش طلاق، حملی له سہر حمل جوانہ، لازمہ تہو ژنہ بو میردی اظہار بکا، کہ زگی پرہ، تہو میردہ مہگہر زور دل پرق بی، وہ الا طلاق نادا، پرجوعی تہکاتہوہ بو معاشرہ، خودا تہوہی له لا خوشرہ، کہوایی بو تہو طلاق دراوانہ دروست نییہ (کتمی حیض) بکہن، بو له (عدہ) دہرچوون، با خویمان تووشی (زنا) نہکہن، تہگہر بہ ظاہر شرعیس لیی قبول بکری، له لای خودا بزرا نابئی..

﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ نافرہتی تہوکتمانہ بکا، دیارہ ئیمانی بہ خودا و بہ پوژی قیامت نییہ ﴿وَيُعَوِّلُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ میردیان احق ترن بہ گیترانہوہیان له زہمانی (عدہ) بہ پرجعہ، له بینونہتی صغری بہ تجدیدی نکاح. تہعبیر بہ (بعل)، دہلیلہ له سہر بہقای رابطہی زہوجیہت، کہ (بالکلیہ) قطع نہکراوہ، (کانہ) الانیش میردیہتی ﴿فِي ذَٰلِكَ﴾ له زہمانی عدہ

حاجت به تجدید نییه ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ مقصدیان ریک که وتن بی، نهک
 بو لهه وهسی ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ بو ئەوان ههیه مثلی ئەو شتهی، که
 له سه ریانه ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ معروف معروفه، حاجت به به بیان نییه، یه عنی
 ئەوانیش حقوقیان له سه ر میرد ههیه، وهک میرد حقوقی له سه ر ژن ههیه .
 غایه ما فی الباب ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ دهره جهی شه ره فو فضیلهت،
 که ژنی پی حمایهت بکا، نهک دهره جهی سیادهت و سلطنهت و قه هرو
 غه له به، ذاتهن ژن وهک شوشه یه، ئەبی پیاو حفظی بکا له شکان، قاعده ی
 شرعی ئیسلامیه، ئەوی زیادیه کی فطری هه بی صه رفیی بکا بو له خو
 به ره ژیرتر، نهک وهک طبیعهت قوی ضعیف بخوا ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (۲۲۸)
 له سه ر ئەو عیززهت و حکمه ته، چۆن لطف به ضعیفای عبادی خو ی ئەکا،
 ئیوه ییش به و نه وعه پهیره وی فه ضلی باری بکه ن. ﴿الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ﴾
 ده ستوری عدالت وا له قضا ئەخوای، و عاقبهت ئەندیش و ایجاب ئەکا،
 که ئینسان له طلاق دانی ژن تالووکه نهکا، به تانی بی، به جار ی ژن
 (بالکلیه) له خو ی حه رام نهکا، ئەگه ر ایجابی دیت طه لاقیکی بخوا، دوایی
 بزانی په ژیوان ئەبیته وه، یان نا؟ وه ژنه که ییشی دیته سه ر پری صلاح، یان
 نا؟ ئەگه ر مندالی بچووکیان هه بوو بو ی به خیو ئەکر ی، چۆن ئەکر ی؟
 تدارکی حه قی حضانه چۆن ئەکا؟ بالطبع ئەم مشا قه ته هه مووی تحمل
 ناکر ی، با له زه مان ی (عه) دا په جعه تی بکاته وه، ئەگه ر ریکو پییک بن،
 مبارهک بی وه الا با طه لاقیکی تریشی بدات، دیسان خواستی، په جعه ی
 بکا . پاش ئەمه چ چاره ی تر نییه ﴿فَإِمْسَاكُ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾ یا به
 معاشره ییکی خو ش رابووین، ژنه که ی خو ی رابگر ی، یا خود به ره لالی بکا،
 به چاکه ی نه ی به ستیته وه ﴿وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ حه لال نییه، دروست

نییه بۆ ئیوه (بوجه من الوجوه) وهربگرن ﴿مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ لهوی پیتان داون مارهیی و غهیری مارهیی ﴿شَيْئًا﴾ کهم و نۆر ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ میردو ژن بترسن ﴿أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ ئەو حدود و ئەحکامی خودا بۆی داناون، پیتان راست نه کرئ، پیاوه که دلی برروا نه دا به خۆرراییی طه لاقی بدا، خاصه که له سه شتیکی (نفیس) ماره کرابی و، ژنه که یهش مهیلی معاشره ی له گهر پیاوه که نه بی، له گه لی هه ل نه کا ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ ئە گهر ئیوه ترسان، یه عنی (حکام) و دهورو پشتو تعلقاتی ژن و میرده که و مه علومیان بوو، ﴿أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ که وابی ته نها به (خوفی) ژن و میرده که، اکتفا نا کرئ، ئەو وه قته ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ گونا هیان له سه نیه له و (فدییه) بخت، که ژن ئەیدا به میرده که، نه ئەم گونا هی ئەگاتی به عطا کردن، وه نه ئەویش گونا هی ئەگاتی به وه رگرتن، ئەو (فدییه) یهش عیبارته له بهری عوضی خلع ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ ئەوی ذکر کرا له مسائلی طلاق و شروطی، رسوم ناوانی خوایه، (حقیقه) ئەم شرائط و قیوده ی، که له و ئایه تی کریمه هه یه، موسلمانان ته جاوزیان لی نه کرد، ئەمما هه ر اعتباریان پیت نه دا..

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (۲۲۹) تجاوز له قانونی عدالهت عهینی ظلمه و قوانینی ئیلاهی (حقیقه) عهینی عداله ته .

له پوایه تی صحیح ثابته، ژنی هاته خزمهت پیغه مبه ر، گوتی: یا رسول الله! سه ری من و سه ری میردم له سه ر هیچ شتی گرد نابیته وه ابداً.. ته ماشام کرد میردم له ناو جه ماعه تیک ئەهات، له هه موویان په شتر بوو، له هه موویان کورت تر بوو، له هه موویان پوو ناشیرین تر بوو! میرده که ی عه رضی کرد: یا رسول الله! من چاکترین مالی خۆم داوه تی، که باغچه ییکه، ئە گهر باغچه کهم بۆ رهد بکاته وه باشه .

جہنابی رہسول بہ ژنہکھی فہرموو: چ ئہلئی؟ ژنہکھی گوتی: باشہ،
ئہگہر حہز ئہکا زیاتر، ئہوجا جہنابی رسالہت پہناہ بہ خلع، تفریقی لہ
بہیندا کردن .

خوزیا ئہو دہستورہ رعایہتکراہا، اصحابہ و تابعین و مجتہدین اتفاقیان
لہسہر بگردایہ، ئہو وقتہ طلاق دانی ژن بہو نہوعہ، کہ ئہمروہیہ
نہدہبوو، مخلوقات لہ اضطراب و قیل و قال و کہشماکہش دانہدہما، ہزار
رہحمہتی خودا لہو مجتہدانہ بی، کہ کفائتہتی عومروجہمالو مالیان لا
معتبرہ .

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ پاش ئہم دوو توبہتہ، ئہگہر طلاقیدا ئافرہتہکہ
لئی (بائنہ) ئہبی بہ (بائنہی کبری) ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ لہ پاش طلاق
سئیہم بو پیاوہکہ حہلال نابی، نہ بہ رجعہت، نہ بہ تجدیدی نکاح ﴿ حَتَّىٰ
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ ہتا میردیکی تر نہکا و، معاشرہی میردو ژناتیان لہ
بہیندا جاری نہبی حہلال نابی.. ئہمہ لہ بو ئہصحابی مروہت کافیہ بو
طلاق نہدانی ژن. مقصد ئہوہ نیہ پڑی مارہ بہجاش بکاتہوہ، مارہ
بہجاشی، بالکلیہ لہگہل شہرفہفی بہشہری دورہ مارہ بہجاش بہ ہیچ
مذہبیک دروست نابی، ہتا لای ئیمامی (حنفی) ئہم نہوعہ نکاحہ، بی
ئیدن و پہزای (وہلی) دروست نابی، مہلایانیش لہوہ غافلن، نکاحیان بہ
حنفی ئہکہن بی ئیدن و پہزای وہلی. ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ ئہگہر ئہو میردہیش
طلاقیدا ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾ جمہور ئہفہرموون: گوناہ نیہ لہسہر
ژنہکہو میردہکھی، کہ بو یہک بگہررینہوہ بہ نکاحی جدید، پاش عدہ
تہاوو بوون. (مجددی میصری) ئہفہرمووی: گوناہ نیہ لہسہر ژنہکہو
میردہکھی (ثانی)، کہ طلاقیدا داوہ بو یہکتر بگہررینہوہ، لام وایہ مقصدی
بالکلیہ، سدی مارہ بہجاشیہ، وہ الاقسہکھی زور بہ جی نیہ .

نہ بوونی جناح بہ شہرتی ﴿إِنْ ظَنَّ﴾ بہ عضی تہفسیریان کردوہ بہ صلح، (بیضاوی) ئہلئ: خوی نیہ عاقبت معلوم نیہ، اما ممکنہ بلین: (ظن) قوی لہ بہر نہ دامہت.

﴿أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ حقوقی زوجیہی ئہو لہ سہر ئہم، ئہم لہ سہر ئہو ﴿وَتِلْكَ﴾ ئہو احکامہی باسکرا ﴿حُدُودُ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا﴾ بہ یانی ئہکا لہ سہر زمانی پیغہمبہری ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿۱۳﴾ بؤ قہومیک بہ ادراکو ہوش و فہمی عمل، احکامی فرعیہ بؤ عمل پیئ کردن واجرایہ ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ئہگہر ژنتان طلاقدا بہ (ایلا)، یا بہ غہیرہ ایلا. بؤیی بہ ضمیر نافہرموی.

﴿فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ نزیکی آخری بوونہوہ ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ ئہگہر پرجہتہان کردن، بیانگرن بہخوشی معاشرہییکی باش و ژن و میدادیہتیہکی چاک ﴿أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ یا لئیان بگہرین، تا عدہیان تہواو ئہبی ﴿وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ پوایہت کراوہ (ثابت کوری یسار الانصاری) ژنی خوی طلاق دا، یہک دوو پوژی ماہو لہ (عدہ) پرجہعی کرد، دیسان طہ لاقی دایہوہ، نزیکی عدہ چون پرجہعی کردہوہ، عدہی زور دوور و دریژ بوو، لہم پرجہعت و گرتنہوہی، مقصدی ئہم اضرارہ بوو، لہو ئایہتی کہریمہدا سہبہبی نزولو نظمی قورئان زور موافقہ. ئہو امساکہ مہکن ﴿لِنَعْنُدُوا﴾ تاکو ظلمو تجاوز بکن، ژنہکان لہ ترسی (عدہ) دوور بوون مجبورین بہ (فدیہ) دان ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ ئہوی ئہو امساکہ بکا، دوورہ لہ موسلمانان ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ بہ حہققہت ظلمی لہ نہفسی خوی کردوہ، بہبی انصافی و بی مروہتی، کہ نہفسی خوی بہ لہ نامہت پیس کردوہ ﴿وَلَا تَنخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ ئایاتی خودا - ئہحکامی ئیلاہی -

مهکه نه قهشمه رجاری خوتان، گه مه ی پی مه که ن، له پئی خوی لامه ده ن، خودا بو حسنی معاشره و پعايه تی حقوقی زوجیه ت، پئی ماره کرانه وه ی بو میردی پیشووی دا، ئیوه ده رگه ی ماره به جاشتان کرده وه، خودا پئی طه لاقی به و نه وعه عداله ته دانا، ئیوه مه ی گی ررن به وه سیله ی زهره ر و ظلم، عنانی پیاو به پره للا مه که ن به هر نه وعی هه وه س هینای ژن طه لاق بدات.

﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ مقابله ی نعمه تی خودا، که له اعظم (نعمی) وی، ناردنی ئه و پیغه مبه ره هادیی یه یه، شوکر گوژاری بکه ن.

﴿وَمَا أَنْزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ هه م تشکری خودا بکه ن له سه ر ئه وه، که بو ئیوه ی ناردووه قورئانی عظیم الشان، که مشتمله له سه ر حکمه ت تزکیه ی نه فس، تدبیری منزل، حسنی معاشره، اظهاری حقوقی ژن، که جزئی متممی به شه ره .. معدنی ئینسانه، بالطبع تا به شه ره ف تر بی، ئینسانی به شه ره فتری لی پاش ئه که وی.

﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ به و قورئانه حکیمه، نصیحه تی ئیوه ئه کا، ئیوه نصیحه ت له گوئی بگرن، وه کو جوله کان مه لئین «سمعنا وعصينا» خودا به و حکیمه ت و کتیبه، ئیوه ی گه وره کردووه، وه ک بنی اسرائیل تیکی مه ده ن، شوکرانه ی ئه و نیعمه ته به قبول کرد، وه تباعیه تی نه ک به زوبان بلئی (چوق شکر)،

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ خوتان پیاریزن، له خودا بترسن، کتیب و حکمه تی ئه وی مه گو ررن، تاویل و تحریفی مه که ن، پوحی آیاتی اجتماعی به فساد مه ده ن

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ بزائن خودای تبارک و تعالی علمی به هه موو شتی که هه یه به علمیکی ته واو، هه چشت له و بزرنابی (سر و خفی و اخفی)، که خوتان تووشی عقابی ئه و مه که ن..

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ عده یان ته واو بوو، ئاره زوویان بوو

تجدیدی نکاح بکن. ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ئیوه مهنعیان مهکهن به ظلم ﴿أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ خویان له میردهکانیان ماره بکنهوه به نکاحیکی تازه، ئەو دوو گه‌یشتنه وهک امامی شافعی ئەفه‌رموئ، هه‌ریهک مه‌عنایه‌کی سه‌ریه‌خۆی هه‌یه، بۆیئ ئەو حوکمی له‌سه‌ریان (تَرْتَبْ) ئەکا، له‌یهک جوایزن. صاحبی قاموس ئەلی: (بلغ المكان بلوغاً وصل اليه ام شارف عليه) دیاره پی گه‌یشتو و له‌یهک نزیک بوونه‌وه بوو (بلغ) مه‌عنای لغوی ثابت بووه. له (معقل کوری یسار) که فه‌رموویه‌تی: خوشکیکم هه‌بوو ئامۆزایه‌کم هات لیم ماره کرد، مده‌یهک به‌یه‌که‌وه بوون، پاشان طه‌لاقیکی داو په‌جعه‌ی نه‌کرد، تا عه‌ده‌ی چوو، دوایی مه‌یلیان له‌گه‌ل یه‌ک بوو، ئامۆزایه‌که‌م داخوازی لی‌کردم، گوتم: احمق، حورمه‌تی تۆم گرت خوشکم لی ماره کردی، طه‌لاقت دا دوایی دئی داخوازی ئەکه‌ی واللله ناییته‌وه لای تۆ ابداً، ئامۆزایه‌که‌م پیاویکی خراپ نه‌بوو، ئافره‌ته‌که‌م مقصودی بوو بگه‌رریته‌وه لای می‌ردی و، لای خودا حاجه‌تی پیاوه‌که‌ بۆ ژنه و، حاجه‌تی ژنه‌که‌ بۆ پیاوه، معلوم بوو یه‌عنی مه‌یله‌که‌یان راست بوو، ئەوجا ئەو ئایه‌ته‌ده‌رحه‌ق من وارد بوو، کفاره‌تی سویندم دا ولیم ماره‌کرد. ئیوه مه‌نعیان مه‌که‌ن..

﴿إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ که له‌به‌ینی خویان به‌یه‌ک پازی بن، به‌زه‌ریفی و به‌جوانی و بی غل و غه‌ش ﴿ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ئەوی له‌ئیوه ئیمانی به‌خودا و پۆژی دوایی هه‌بی، نصیحه‌ت ئەکرئ به‌و حوکمه‌پرر حیکمه‌ته‌و، قبوولی (نصح) ئەکا به‌قووه‌تی ئیمان و پاکی له‌مزخرفات ﴿ذَلِكَ أَرْكَانُكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ حاصلی ئەوی ذکر کرا دائر به‌ئحوالی زه‌واج و ناردنی، له‌ته‌ره‌ف خودا و پی‌گه‌یانندی له‌ته‌ره‌ف پرساله‌ت، (تلقى بالقبول) به‌کمالی احترام، له‌ته‌ره‌ف لی‌قه‌وماوان،

یہ عنی ئہوانی عنوانی مہسنہ لہیان بالفعل بہسہرا ہاتوہ و، لہ گوئی گرتنی بۆ تۆش نہ بوون، لہ تہرف امثالیان تا تووشی ئہ و کہ شماکش و ہہرایہ نہ بن، زیدہ ترہقی و پاکی یہ لہسہر دہرجاتی کمال، قوہی علمی و عملی بۆ ہہیئہتی عمومی، ئہمہش سری (ذک) بہ مفردی (ذکم) بہ جمع، (حقیقہ) جہماعہت لہ عائلہ، عائلہ لہ افراد پیک دی، تا افراد پاک بی، عائلہ پاکتر ئہ بی، کہ عائلہ پاکبوو، بالطبع ہہیئہتی اجتماعی پاک ئہ بی، ئہ و جا لہسہر تربیہییکی چاک، سہعی بۆ زیدہ چاک کردنی اقوامی تر ئہ کن، بالطبع سیادہتی عالم ئہ بیئہ ئی وان

﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿۳۳﴾ ﴿فِي الْحَقِيقَةِ يُنْسَانٌ دَائِمًا دَوَايِ هَهُوَاوِ هَهُوَسِي خَوِي ئَهَكَوِي، خُصُوصَ طَمَعِي مَالِ بُو هَهُمُوو نَهَوِعِ (لَامَه تِيكِي) ئَهَبَا، نَاگَايِ لَه مِصَالِحِي خَوِي وَ عَائِلَه وَ عَمُومِي نَامِيئِي، ئَهگَر بَشَرَانِي قُووَه تِي عَلِيْمِ وَ عَه قَلِي ئَه مَه نَدَه نِي يَه، بَه رَابَه رِي لَه گَه لَ هَهُوَاوِ هَهُوَسِي بَكَ لَه فَه سَادِ بِيگِي رِي تَه وَه بُو صِلَاحِ، بُو يِي لَه رُوِي بَه نَدَه نَه وَازِي، خُو دَاوَه نَدِي (عِلَام) فَيِرْتَانِ ئَه كَا وَ لَه سَه رِ زُو بَانِ پِيغَه مَبَه رِ پِي تَانِ ئَه گَه يِيئِي، رُوِي خُو ش وَ نَاخُو شْتَانِ پِي نِي شَانِ ئَه دَا، ئَه وَجَا دِيئَه وَه سَه رِخُو، رِي يِ چَا كَه ئَه گَرِنِ بَه شَه رَتِي قُووَه تِي ئِي مَانِ بَه خُو دَا وَ بَه رُو زِي جَه زَا، كَه (يَوْمِ لَا تَجْزِي نَفْسِ عَنِ نَفْسِ شَيْئًا) قَاعَدَه يِ فَا طَرِي سَمَاوَاتِ وَ ئَه رِضِ، ئَه گَه رِچِي بَه ئَه مَرِي (كُنْ) خَلْقِ وَ اِيْجَادِ ئَه كَا وَا يَه، كَه بَه تَدْرِيجِ يَه عَنِي وَرَدَه وَرَدَه، سَه بَرَه سَه بَرَه، ئِي نَسَانِ وَ سَائِرِي حَيَوَانَاتِ وَ نَبَاتَاتِ بُو تَكَامِلِ تَرَه قِي يَانِ پِي ئَه دَا، هَه تَا تَكَامِلِي دِي نِ، تَكَامِلِي دَه وِلَه تِ لَه سَه رِ ئَه وَ قَاعَدَه يَه ئَه بِي نِ، تُو، كَه چَانْدَرَا، شِي نِ ئَه بِي، چَه نَدِي پِي ئَه چِي، تَا بَه رِ ئَه دَا، سَابِقًا فَه رَمُوِي «نَسَاؤُكُمْ حَرِثَ لَكُمْ.. الْآيَةِ» (اَنَه) ئَه وَه ئَه وَه لِي تُو دَانَه، نَابِي ئَه وِي تُو ئَه دَا هَه رِ بَه تُو دَانِ وَ كِيْلَانِ خَه رِي كِ بِي، ئَه بِي، هَه وِلَ بَدَا بَه رِي تُو وَه كَه پِي بَغَه يِيئِي وَ بَه خَه سَارِ نَه چِي، بُو يِي ئَه فَه رَمُوِي: ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾ بِا مَطْلَقَه شِ بِنِ ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾

خویان شیر ئهدهنه اولادی حاجت به ئهمر ناکا، ذاتهن له مدهی حمل، هر ئه و به خیوی کردوه، له ورده ورده دوگمه لۆکهی (مفرزه) موادی زولالی داوه به جهسه دی (ولد)، ئه وهیش به (غددی) ماصه هلی مژیوه، وانه زانن خوین و خوزاوی حه یضی دهرخوار دراوه، له و عملیاتی ماکینه یی و کیمیایی طرفین، اصلاً شعوریان نه بووه محضاً به تدبیری ئیلاهییه، هر به و نه و عه شیردانی دایک بو مه مک خور، ئه بی به طریقکی فیطری بی به ئه مریکی تکوینی بی. بوی به طریقهی اخبار ئه فهرموئی (یرضعن) نه به صورتهی ئه مری تکلیفی، (حقیقه) حملی ئه و مشاقه، له پاش گرانی حمل و عه زابی مندال بوون، بی ئه مری فیطری ناکری، وه معلومیشه ئه مری تکوینی قیاسی، له ئه مری تکلیفی ناکری، وه له بهر ئه م فیطرته شیردان و به خیوکردنی دایک، قیاسی له اجنبی ناکری، مه یل دانیان به اکثری، مه یلیکی درویه (حنو) و مه رحه مه تی دایکی، وا له قضا ئه خوازی (ولو) قطعی علاقهی له گه ل باوکیشی بوو بی، علاقهی له گه ل جگر گوشه ی خوی (وهنی) پی نه کا. ﴿حَوَّلِينَ كَامِلِينَ﴾ بی که م و بیش ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ دوو سالی ته و او بو که سیکه، که مقصدی اکمال و اتمامی شیردانی ولده که ی بی، تا ته نومهند و چاک دارژا بی، که متر له و مدهیه به خواردن و خواردنه وه، دهرده دار نه بی منداله که ی نه که نه سیسه مردوخه و ورگ هاتی سیخوره ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ (ولو) دایکی منداله که شی طه لاق نه دابی ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ لای (شافعی) بو دایک ههیه طلبی رضاع له میردی خوی بکات و، له سه ر بابیش اجابه ی لازمه، (ولو) له (اجرة المثل) یش زیاد بی، بنا به فه رمووده ی (باپی ره ملا عبدالله) م ئه وی طه لاق درابی بالاتفاق حه قی حضانه ی ههیه، تا کو ژنه که به قوه ت بی و له برسان، یا له سه رمان تووشی نه خوشی بی شیری نه بی، ئه وهیش دیسان له مه رحه مه تی باوکییه، باوکیش له قضا ئه خوازی بو خاتری جگر گوشه ی خوی، به زه ریفی

ته ماشای دایکی بکا، نه نواریته نه فرته و قطعی علاقه ی خویمان. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾
چۆنی لئ نه وه شیته وه، نه هم بخیلی بکا، نه نه و طمع ﴿لَا تُكْفَرُ
نَفْسٌ إِلَّا بِسَعَاهَا﴾ روحی شریعه تی ئیسلامی نه وه یه، هر که سه به گویره ی
خوی تکلیفی لئ نه کا، نه ک له نه حکامی رضاع، به لکو له هم موو
تکالیفیکی وایه، حتی اموری فطری یه بو فطرت به جئ نه هیلی. لیرانه
نه گهر له بهر منافر هی طه لاق نه بوایه، تعرضی نفقه ش نائه کرد، بنواړه اتمامی
رضاعی حواله ی اراده ی علاقه داران کردووه، والحاصل مقصود لیره به خیو
کردنی منداله به چاکی ﴿لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَالِدِهَا﴾ هیچ دایکیک زهره ر به
ولدی خوی نه گه یینی، له خزمه تی قصور نه کا، به نه فرته تی باوکی، دلی له
حه ق جگهر گوشه ی خوی مکدر نه بی. ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ﴾ بخیلی
نه نگه ویستی دایک غلبه نه کا له سه ر په حمی باوکی، ولد، ولدی خویته تی،
ته مه ره ی حه یاتی یه تی، به هه ده ری نه دا. ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ نه وی صدقی نه و
عنوانه ی لئ بی هه تا منداله که نه گهر مالی هه بی ﴿مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾ ارضاع
وانفاقی له سه ره، نه گهر که س نه بی، له سه ر وارثی دینی یه به خیوی بکا و
تربیه ی بدات، میلله تیک مبالات نه کا به خزمه تی مندال زور نابی وه ک
میلله تی کورد، نه گهر چی مندالیان زور نه بی، نه ممما سه به ب به جهلی
دایکیان و بخیلی باوکیان، که میان پی نه گهن، اکثر به دایانیان نه دهن، خانم،
افندی ناتوانی به خیوی بکا، (مع انه) وه ک باپیره مه لا عبدالله هم نه فه رموی:
بونی بهر و باوه شی دایکی، گه لی چاکتره بو روح و فیطرته تی مندال، له
خزمه ت و شیردانی اجنبی و، بو اخلاقیش گه لی ته ئسیری هه یه، رضاعی
طبیعه ت نه گورری، طبیعه تیکی ثانیه ی تیدا په یدا نه کا، زور نه بی له سه ر
طبیعه تی اولیه غلبه نه کا ﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾ دایک و باوک ﴿فَصَالَا﴾ منداله که له
شیر بکه نه وه، ته ماشای قووه ت و بنیه ی منداله که نه که ن ایجابی کرد، که متر

له دووسال له قضای خواست زیاتر ئه و قصد و تصمیمهش ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾ صادر بی له پهزای قلبی، سهرزوبانی نه بی بی (اکراه و اجبار) ﴿مِنْهُمَا﴾ له ههردووکیان ﴿وَتَشَاوُرٍ﴾ مشورهت کردن، تدبیر و (مدانشه) بو حسن و حالی ولد، ئه مجا ئه م (تراضی و تشاوره) ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ گوناهیان له سهرنیه له و له شیرکردنه وه. سبحان الله ته ماشای اعتنای حه ضرهتی کبریائی بکن، بو به خیو کردنی مندال و متحیر بن له بی مبالاتی موسلمانان، که له (قبر) دا لی یان ئه پرسن: امامت چی یه، یه عنی پهیره وی چیت کردوه؟ ئه ویش ئه بی بلئ: (قورئان).

﴿وَلِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ ئه گهر ئاره زووتان کرد مندالی شیره خۆره ی خۆتان بدن به دایان ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ بو شیردانی دایک، بو له شیر کردنه وه ی مندال له مه مکی دایک، پهزا ومدانشه ی دایک و باوک کافی بوو، ئه م ما بو شیردانی اجنبی (عقلای) طرفینی پی ئه وئی، که قه رار بدن له سه ر به شیردانی مندال له غهیری دایکی خۆی، که وابی ئه و خطابه (ان اردتم) ته نها بو باوکه کان نیه، گویا که هه وه سیان هی نای منداله کان له دایکیان بستینه وه بیده ن به دایان، (حاشا ثم حاشا) له و مقامه، چۆن ئه مه به دل دا دئ، ئه وه به جاری ئایاتی سابقه به با ئه دا. په حمهت له باپیره مه لا عبدالله م بی: پازی نی یه به وقسه، که ئه گهر دایک طلبی اجره تی زیاتر له (اجرة المثل) ی کرد و، اجنبی یه ک پازی بوو به که متر منداله که بدریته دایان و، تعجب ئه کا له و علمایانه ی، که به و نه وعه فتوایان داوه، که په عایه تی صرفی مال ئه که ن، ئه م ما په عایه تی احوالاتی پوحی و بدنی منداله که ناکه ن، وه عیلمی (طب) ی ئه م پرۆ زۆر اهتمام ئه دا به شیردانی دایک، مادام الامکان، پی نادا بو شیردانی اجنبی، ئه م ما به و شه رته گونا هتان له سه رنی یه، که ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ که ته سلیمیان

بکهن ئهوی بۆتان داناون به مناسبی حال، به لکو له خزمهتی منداله که به نشاط و بی قصور ئه بی، ئه گهر معاشیان به زهریفی نه دریتتی طبعاً (رخاوهت) ئه کهن و، نزیکه سه ربکی شیهته سهر هه لاکه تی منداله که، ئه مه یش به وشه رته، که ژنه که موسلمان و انصاف و به مه رحمهت بی، ئه ماما دایانی ایامی ئیمه علاوه ی مانگانه، ئه بی زۆر خزمهت بکری و منداله که یش دائماً له ژیر نظاره تی دایک و باوکی بی.

موسلمانیکه باش، دراوسی ئیمه، کچیکی دا به دایان، ژنه که لادیی بوو، هه موو آخری مانگان ئه ینارد بۆ (جیره) به شاره تی بۆ ئه ناردن، که منداله که الحمد لله زۆر چاکه، صحت و عافیه تی مکمله، ماشاء الله لانکی پرر کردوه! .. و بعضاً خۆی ئه هات، زۆر خزمه تیان ئه کرد صابون و چیت و شه کر و خورمایان ئه دای، ئه یان گوت: ئه و منداله چۆن صبر ئه کا، تا تو ئه چی یه وه؟ چونکه دئی یه که نزیک پینج ساعهت له شار دوور بوو، ئه ی گوت سپاردوومه به ژنیکی باش و، منداله که یش ئولفه تی پیوه گرتووه، تا ئه چمه وه ئاگاداری ئه کا، ئامان! با خیرا برۆم، نه وه ک کچه که عاجز بی و بیرم بکا. به ونه وه تا نزیکه سالیکی، ده فعه یه ک چه ند ژنیکی له اهالی دئی یه که دینه شار، تصادف ده چنه دوکانی باوکی کچه که، تا به عضیک چشتی لی بکپن، ئه حوالی رۆله ی خۆی لی یان ئه پرسی، ئه لاین: کچی چی؟ بۆ تو هیشتا نه ت زانیوه، نزیکه حه وت مانگه ئه و به سته زیانه مردووه؟ بی چاره ده ست ئه کا به گریان.

ئه وجا چۆن دل برۆا ئه دا، ئینسان مندالی خۆی ته سلیم اجنبی بکا؟ ﴿وَأَنْقُوا اللَّهَ﴾ هه موتان له خودا بترسین، بالخاصه له ته ربیه تی اولاد قصور مه کهن، به بخیلی و خیانهت مه یان فه وتینن ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (۲۳۳) ئه ماما ئه و ئیمان له که م دلان دا حاضره، خاصه دلی دایانانی ئه م زه مانه . به یانی (عدّه) ی ژنی سه رو، عوزر شوorman کرد، ئه دی ئاخره تی میردی

بمړی و، ئاوس نہبی، (عدہ) ی چی یه و چہندہ؟ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾
 ئەوانی پوحيان قبض ئەکړی به مردن، یا به (قتل) شههید و غهیره شههید
 لهئپوه، ئەی موسلمانینه ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ ژنیان تهرک ئەکهن، لهپاشیان
 بهجی ئەمینئ ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ خویان بگرن چوارمانگ
 و ده شهو، بهعضیک ئەفهرموون، پوژی دهیهمین تابعی (عدہ) نییه، ئەمما
 قسهکهیان ئەگهرچی نظر به قاعدهی (تذکیرو تانیت) ی عدد دئ، بهلام نظر
 به نکتہی قسهکهیان خوی نییه، بویئ اشاره بو (تربص) شهو ئەفهرموئ،
 چونکه خوگرتنی ژن، اثری لهشهو دهرئکهوئ، لهشهو یادی مونس ئەکا،
 ئەمما به پوژ ئەخافلئ، لهگه ل ئەم و ئەوهه لئستئ، دائئیشئ، گفتوگو
 ئەکا .

﴿فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ﴾ که گهیشتنه نهایهتی عدہی خویان ﴿فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ﴾ وهبال نییه له سه رئیپوه، ئەی علاقه داران ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾
 لهوی عائد به نفسی خویان، (کانه) له نهفسی خویان دا ئەیکهن، مادام
 ئەوی ئەیکهن ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بی چ خلاف ئاداب و شرعی تیدا نهبی، حهقی
 هیچ کهستانی به سهروهه نییه، لئئ مهکهن به هه للاً و هوریا: «بو
 وائەکا؟ دیاره هه وهسی له میردیییه! عهییه .. ئەمه قبول ناکهین!»
 حهقتان نییه ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ خودای تعالی ئاگاداره به ئەوهی
 ئەیکهن، هه مووتان نیرومی، وه ئەزانئ لهو اعتراضو (تنقیده) غهرضتان
 چییه .. مهیلی نهفس بو ژنی (عدہ) چوو، که له ئاداب دهرنهچی، خودا به
 گوناھی نازانئ، (جلّ الله) بویئش ئەفهرموئ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ ئەی
 موسلمانینه! ﴿فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ به ئەوه، که تعریضی پی
 بکهن، بی نوینن له داخوازی ژنانی میرد مردوو به پئی کنایهت:

(ئاره زومه ژن بئیم .. حهزم له ژنیکی واو وایه، من زۆر باشم له گه ل ژن ..
 ئهوی میردم پی بکا، له خووشی ئه بی ..)) به گویره نه وهک به تصریح ..
 ﴿ **أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ** ﴾ یاخود له نهفسی خۆتان دا بزر کردوه، مه یلتان
 ههیه پاش (عدّة) ئه و ژنه میرد مردوه ماره بکهن، له سه ر ئه و مه یله چ
 گونا هتان له سه ر نییه ﴿ **عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ** ﴾ خودا ئه زانی ئیوه
 به حثیان ئه کهن، ئه و نهفسی یه سه و قتان ئه کا بۆی پوخصه تی دان به و
 نه و عه باس کردنه ﴿ **وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا** ﴾ معاهده یان له گه ل مه کهن به
 دزی، ئه وه گونا هه، خودا له سه ر ئه وه ئه گه ر بیکه ن عتابتان ئه کا، ئه گه رچی
 ژنه که بۆ زه مانى عدّة هیچی پی ناکرئ، ئه م ما قابله له سه ر ئه و وه عده یه،
 زما می ئیراده ی له ده ست ده رچئ، به عضئ حرکاتی وا بکا، که اهل و
 اقاربی میرده مردوه که ی پی یان ناخوش بی ... موجبی دل شکسته گیان بی
 ﴿ **إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا** ﴾ قسه ییک بکهن قسه ییکی جوان، مناسبی
 حال و وه قت، موجبی تهیجی دل و مه یلی ئا فره ته که نه بی، ئه وه دروسته
 گونا می نییه، ﴿ **وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ** ﴾ عهزم و جزم مه نین له سه ر
 گرئى ماره کردن ﴿ **حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ** ﴾ لی گه پین، تا ئه وه ی نووسراوه،
 ثابت کراوه، ئه گاته ئاخری خوی، ئه و وه قته (بلا اثم و لا حرج) ئاره زووتان
 ههیه ماره یان بکهن ..

﴿ **وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ** ﴾ هه رچی هه بی چاک و خراب
 ﴿ **فَأَحْذَرُوهُ** ﴾ له خودا حه زه ر بکهن، چشتی خراب له دلی خۆتان قه رارگیر
 مه کهن. ﴿ **وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ** ﴾ بۆی به مه یلی نه فس، که خالی
 بی له اثری خراب ناتان گرئ، ئه و که سه ی قانون دانه ئی، مراعاتی احوالی
 نفسیه بۆ ئه و، له هه موو چشت لازم تره ئه وه یش له حه قیقه تدا هه ر به

خودا ئەکرئ، هەم شارعو هەم فاطر.

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ چتان لەسەر نییە ئەگەر ژنانتان طلاق دا
 ﴿مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ مادام دەستتان لێ نەدابن، یا چیتان بۆ
 تهعین نەکردن ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ﴾ چشتیکیان بەدەنی نفعی لێ ببینن ﴿عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ﴾
 ﴿وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ﴾ دەولەمەند بە گوێرەى دەولەمەندی، فقیر بە گوێرەى
 فقیری ﴿مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ متاعیكى (بین الناس مقبول) بێ، بە گوێرەى
 اصناف ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (۳۳) ئەو متاعی بالمعروفه ثابتە لەسەر ئەهلی
 احسان. زۆرتەین ئەهلی عیلم ئەفەرموون: ئەو وە واجبه. (ئیمامی مالک) لای
 وایه (مستحبه) —انه— ئەو وە خیریکه و احسانیکه ئەیکا، ئەگەر واجبه بوايه
 ئەى فەرموو: (حق علیکم)، ئەمما فەرمایشی ئیمامی مالکیان ڕەد
 کردۆتهوه، ئەلین: (محسن) خاص (متطوع) نییە و، حکمەتى شارعی بۆ
 دەفەى وەحشەت و ناخۆشى، ئیجاب ئەکا ئەو حەقه واجبه بێ، خودا
 ئەفەرموئ: من محسنم خۆش ئەوئ بۆ ئەوئ ماله، کەس نەتوانئ خۆى
 محروم بکا له محبهتى خودا؟ (مجددی میصری) تحقیقاتی لطیفی ههیه
 شایان مطالعهیه.

﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ ئەگەر طه لاقتان دان له پيش دەست
 لێدانیان حالیش وابوو ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ مارهبيتان بۆ تهعین
 کردبوون ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ نیوهیان ئەکهوئ ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ الا مهگەر
 ئافرهتهکان مسامحه بکهن، دەست له نیوهکەیش ههله بگرن، ئەو وهفته
 چهتان لەسەر نابئ ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ یا عهفو بکا ئەوئ
 گرئئ نکاحی بهدەستهوهیه، ههوهسى بئ ئەیکاتهوه، ههوهسى بئ حفظی
 ئەکا دیاره ئەوهیش میرده، ئەو وهفته مارهیییهکهى ئەدریئئ ﴿وَأَنْ تَعْفُوا﴾

ئهی پیاوینه **﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾** نزیکتره له خۆپاراستن له شک و (ریب) و توهمهت، که ئه و طه لاقه له بهر له ککه یه ک نیه له ته ره فی ژنه که، به لکو ئه گهر معذره تیک هه بی له ته ره ف پیاوه که یه، بۆی هه موو حه قه که ی داوه تی، ئه و مه عنایه له ته ره ف (مجددی میصری) یه **﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾** کمال و حسنی آداب، به واسطه ی ئه م طلاقه له به ی نی خۆتان فه رامۆش مه که ن، رابطه ی پێشوو تیک مه ده ن، یاخود زیده یی و شه ره فی پیاو له سه ر ژن، بۆ طمعی نیوه ماره یی یه ک له فکر مه که ن **﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾** (۳۷) هه رچی بیه که ن له خودا بزر ناب، ئه وی ماره کرابی ده ستی تی نه دراب، طلاق دراب، به اعتباری (مهر) ئه و قسمه یه .

سابقاً پاش ئه مر به (توجه) بۆ ته ره ف مسجد الحرام، وه عده ی اتمامی نیعمه تی دا و، پێش (ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون) فه رمووی (واستعينوا بالصبر والصلوة) ، لی ره یش له میانه ی باسی طلاق و عده ئه فه رموی:

﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوَسْطَى﴾ بۆ ایقازی موسلمانان مقصود، له فکر نه که ن متوجه الی البیت الحرام بن. خۆیان به ته لاق و (رجعه) و ئه مانه مشغول نه که ن! مواظبه بکه ن له سه ر نوێژان و ته واوی به جی یان به یینن. نوێژ رابطه یه کی به قووه ته له به ینی ئیوه و خودا، خۆبه خۆیتیان حه یفه به ته لاق قطع ی علاقه له گه ل یه ک بکه ن.. که سی مه ئمور بی، دائماً (متوجه الی الله) بی، چۆن له گه ل ئیمان، چ نی ر چه می قطع ی صله ئه کا، خصوص په فیقه ی حه یات و مه مات؟ و مصدری اولاد، که شه مه ره ی حه یاتن؟ نوێژ له گه ل ده وره یه کی شه و و پوژی، پینج جار به سه ر ئیمه دادی و ئه پوا، (کانه) له سه ر دائره ییک داندراره (عدد) ی تاق، هه ر کامی لی بگری، ئه و وسطه مختاره له لای.

(صلاتی وسطی) نوپڑی معین نییہ، بہ اعتباری اصنافی مکلفین، ہر یہکئی لہ ئہمانہ قابلہ بیئی بہ (وسطی)ی اصل. بؤ محارب اکثر سہعی ئہکەن، تیئہکۆشن گہرمہی شہرر ئہخەنہ پاش نیوہرؤ، تا پیش مغرب احرازی ظفر بکہن، نیوہرؤ بؤ ئہہلی کہسابہت و موظفین ماندوو ئہبن، ئارہزوی ئیسراحت ئہکەن، ہہنگامی قاوہلتیہ .. اعتنا بؤ ئہوان بہ نوپڑی نیوہرؤ لازمہ، نوپڑی مغرب، حسب العادة پیش نان خواردنہ، کورد پیئی ئہلی: «نوپڑی شیوان»، نظر بہ برسیان ئہو (وسطی)یہ عشا بؤ ئہہلی (لہو و لعب) ، وہ ئہوانی حەزیان لہ خہوہ یہعنی زوو بخەون، کورد «نوپڑی خەوتنان»ی پیئی ئہلی. نوپڑی سبہینہ بؤ خہو خۆشان، تہمبہل و بہدەن گرانان، خاصە زستانان لہ ولاتہ ساردہکان، ئہم قسہ لام وایہ ئہہلی ئینصاف قبولی ئہکا.

﴿وَقَوْمًا لِلَّهِ قَلْبَيْنِ﴾ (۲۳۸) ﴿راوہستن بؤ خودا لہ نوپڑ، بہ دوعا و خضوع و خشوع «ئہمہ لہ وەقتی ئہمینى و ہیمنایى». ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَآلًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ ئہگەر ترستان بووبہ پیادہیی،یان بہ سواری،چۆنی رپیک کہوت نوپڑہکہ بکہن، مقصود حضوری دلہ، غافل نہبوونہ لہ خودا، بہو ہہیئہتہی، کہ دانراوہ، بؤیئہیہ، کہ پوو لہ ہہموو چشت و ہربگیئری، پووبکہیہ مسجد الحرام، تا (خاطر جمع)بی ؛ ئہگەر بہو ہہیئہتہ ممکن نہبوو، بہجئہینانی پوحی نوپڑ کافی یہ ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ کہ ئہمین بوون و ترستان نہما ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (۲۳۹) ﴿ذکری خودا بکہن، نوپڑی بہجئہ بہینن، وەکوو فیئری کردوون؛ ئہوی پیشان نہتان ئہزانی چۆنی داناوہ، وای (ادا) بکہن، ئہدای مقصود بہو عیبارہتہ، بؤ مننہت دانانہ لہسەر عیباد بہ نیعمہت فیئر کردن.. بؤ اتمامی بہحئی ژنی میرد مردوو، پاش ئہمر بہ محافظہی نوپڑان

تہفہرموی: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا﴾، بہلام اہمالیان نہ کردون ﴿وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ﴾ بہلکوو وہصیہتیاں کردبی لہ حق ژنانیان بہتاکید و اہتمام ﴿مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ﴾ نفقہ، مہسکن ہتا سالیک بی دہرکردن، ئیوہ ئو وہصیہتہ بہجی بہینن، مہلین: ئو وہصیہتہ لہ (وارثان) نابی، ئو مشقہتہ بہ ئیمہ ناکیشری و باری گرانہ!!

بو حرمت مردوہکہتان تحملی بکن ﴿فَإِنْ خَرَجْنَا﴾ بہ طیبی نہفسی خویان بی قہباحہت لہ تہرف ئیوہ چوونہ دہرہوہ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِنْ مَّعْرُوفٍ﴾ چ گوناہ لہسہر ئیوہ نیہ، وہ مہسئلہی پیشوو، اموری نفسیہ، کہ لہ ئدہب دہرنہچی نابیتہ سہبہبی (لہومہ) ، کہوابی ئم دوو حوکمہ یہعنی خوگرتن چوار مانگ و دہ پوژو، دہرنہکردن تا سالیک، ہیچ تہنافیان لہ بہیندا نیہ، تا بلین لیرہ (نسخ) ہہیہ وہکوو جمہور تہفہرموون: ئایہتی سابقہ لہ نہظمی (قرآن) دا ناسخہ بو ئم ئایہتہ؛ چونکی لہ نہظمی نزول ئم ئایہتہ (مقدمہ) لہ (اولہ)..

علمای سہلہف (مجاہد) ، ئینکاری ئو نہسخہی کردوہ، پاش ئو، (ابو مسلمی اصفہانی) ، کہ لای وایہ نہسخ لہ قورئان دا نیہ، بہ قاعیدہی خوی مہعنایہک لہ (ئایہت) ئداتہوہ، کہ ہیچ تہنافیان لہ بہیندا نہبی.

(فخری پازی) یش لیرہ زور تقویہی فہرمایشی ئو ذاتہی کردوہ، وہہروہ ہا (مجددی مصری و تلمیذی عصری) ، حقیقہً تا ممکن بی پئی نہسخ نہدری، خصوص ئو نہوعہ نہسخہ بی نہظمہ، (مع انہ) وہک ئیشارہمان بو کرد، موضوعی قضیہکان لہیہک جودان، وہ ہم لہ ئایہتی پیشوو «وصیة لازواجہم» قہیدی نہبوو، وہ ہیچ دہلیلش نیہ، کہ ئم وہصیہتہ لہ تہرف خوداوہ بی، بہلکوو ظاہر وایہ وہصیہتہکہ لہ تہرف میردہکانہوہ بی.

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (۲۴۰) ئەو حوکمه ی ئەو دای بنی، بنای له سهه
 حیکمه ته، ئەوی ئینصاف و شعوری هه بی، ئەزانئ جئی اعتراض نییه،
 که سیکی زۆر (غالب) نه بی له عیلم، ناتوانئ ئەو حوکمه بو گویره ی
 احوالاتی متناسبه دابنئ، از جمله له مقتضای حیکمه تی حه کیم (علی
 الاطلاق). ﴿وَالْمُطَلَقَاتِ﴾ (ولو) دهستی لی نه درابئ، وه یا خود مارهی
 ته واو وه گر تبئ، مادامه کو شکستی ته لاق پووی داوه بو له حیم کردنه وه ی
 ﴿مَتَّعُوا بِالْمَعْرُوفِ﴾ یان هه یه ئەویش ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (۲۴۱) ثابته له سهه
 ئەو که سانه ی خو بیاریزن، خاصه به قطعی رابطه له گه ل که سیکی، که
 هه مده می حه یاتی ئەو بی، له سهه ئەوانه حه قه له هه نگامی فصلیش
 وه صلیک بکه ن. ﴿كَذَلِكَ﴾ بهو گویره پرر حیکمه ت و مصلحه ته
 ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ خودای تعالی ئایات و ئەحکامی بو ئیوه به یان
 ئەکا، ئیوه تی بفکرن چۆن له هه ر حوکمیک، حیکمه تیک به یان ئەفه رموی،
 که ئینسان گه ردن داده ی اطاعت بی ئەو به یانه ییش ئەفه رموی ﴿لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ﴾ (۲۴۲).

له جمله ی مواعظ و (عبری) جه نابی ئەمه تان ده یئیتیه وه بهر چاو که
 ئەفه رموی: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ئەی عاقل مه ندینه! ئایا ئیوه نه تان دیوه، عیلمتان
 نه گه یشتوه تی ﴿إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ خه بهری
 ئەوانه ی، که له ولاتی خو یان چوونه ده ر، ئەوانیش هه زاران بوون له ترسی
 مردن؛ کوژران به چنگ دوژمن، نه وهک له ترسی تاعون و شتی تر؛ له ترسی
 مردن هه لاتن که چی تووشی مردنیک بوون، که هه زار ده ره جه له مردن
 خراپ تر بوو ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا﴾ خودا ده رباره ی ئەوان فه رموی: (بمرن!)
 هه ر بمرئ ئەو نه وعه قه ومه په راگه نده! له حه یاتی اجتماعی بی به هره! له

ژیر دهستی دوژمن پهزیل! بی حیات و حریت!! دهک ئەو ژینه ههزار جار به قوربانی مردن بی ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ دواپی پاش چهندیک، خودا زندووی کردنهوه، له حالی خویان گه‌یشتن و پوچیکی اجتماعیان له‌ناو په‌یدابوو، نه‌سلیکی به قووہ‌تیان پی‌گه‌یاند.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ خودای تبارک و تعالی، صاحبی فه‌ضل و که‌رمه له حه‌ق ناسان.. گه‌لی میلیله‌تی زندوو کردۆته‌وه، که نه‌ده‌هاته خاترو خه‌یال:

زۆر بووه به‌رخه‌کی له‌رر و لاواز
 بویته خرتیکی دونگ زه‌لام و قه‌له‌وا!
 یان منالیکی سیسه مردۆخه
 بویته مه‌ردیکی گورج و گۆل و پته‌وا!
 گه‌لی میلیله‌ت وه‌ها به‌سه‌ر که‌وتن
 که نه‌ییته خه‌یال و وه‌هم و خه‌و
 بوئی ئومیید ئەکه‌م له‌لوتفی خودا
 خالقی مانگ و پۆژ و پۆژ و شه‌و
 کورده‌کانیش بکاته‌صاحب‌جاه
 «سنة الله في الذين خلوا»

فه‌رقی موسلمان و غه‌یره‌نی‌یه، چون له‌حیاتی دنیه‌وی شریکن، پی، یه‌ک پی‌یه، (فاطر) امتیازی که‌سی نه‌داوه، هه‌روه‌ها حه‌یاتی اجتماعی و استقلالیش فه‌رقی نی‌یه، ئەوی تی‌بکۆشی؛ پی‌ئه‌گا.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿۲۴۳﴾ شوکرانه‌ی خودا ناکه‌ن، یا «محضاً» له‌قووہ‌تی خویان ئەزانن، ئەوانه‌مغرور ئەبن.. ئاخری تی‌ئه‌گلین، یا ئەیده‌نه‌کرامات و هیمه‌تی مشایخان، ئەوانه (بالمرة) ئەمرن و قابلی زندوو بوونه‌وه‌نین. ته‌فسیری مردن و زندوو بوونه‌وه‌به‌و‌نه‌وعه، له

تهرهف (مجددی مصری) (حقیقةً) زۆر جوانه، چونکه ئه و ئایه ته به و اعتباره بۆ وه عظه؛ ممکنه ئه و ی گویدیره ئه م حیکمه ته له گوئی بگری، خاصه ترسیکی زۆری تیدا هه یه بۆ (انصاران)؛ نه که ن له ترسی دوژمن دار، دیاری خۆیان به جی بهیئن، و ضمناً به شاره تیکیشی تیدا هه یه بۆ (مهاجر)ینان، که له دار و دیاری خۆیان ده رکراون، که جه نابی حه ق زندوویان ئه کاته وه .. به دارو دیاری خۆیان شاده بن، که تتمه ی ئه و به حثه (عن قریب) دئی، به لام، ئه وانه ی (عشاقی خوارقن)، فریفته ی شوان و نوادرن، گوئی ناده نه ئایاتی (عبر)، چاوی (نظر)یان نی یه، خۆزیا نیه سه ته ی (احیا و اماته)یان بدابوایه بۆ خودا و، به س مه لائکته ت و عه مر و زهید و ئه مانه یان داخل نه کردآیه، (سبحان الله) مردوو زندوو کردنه وه و فوو له هه مبانه ی چه قووگه ریان لا وه کوو یه که .. ئه ی موسلمانینه! عیبه ره ت بگرن، مه ترسن، استحقاری (مردن) بکن، تا کوو بگن به حه یات.

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بۆ اعلا ی کلمه ی حه ق، بی شائبه ی عداوه تی قلبی، پئی بکه نه وه، ده رگه ی حه ج گوشادی که ن، به یته ی خودا له (لوث اصنام) پاک بکه نه وه ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ خودا ئه بیی، ئه زانی، مثقاله زه ره یییک «ما فی الضمیر» ی عبد له و بز نابی!

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ کئی یه ئه و که سه ی، که قه رض له گه ل خودا بکا به قه رضیکی چاک؛ له پئی خودا مال و پوح (بذل) بکا؟ کئی بی مه رد بی و له مه ردانی عالم نیشانی هه بی، خوی بگه یینیتته ئه و ده ره جه، خوداییکی، که (غنی عن العالمین) ه قه رضدار بکا .. خه یال نه کا، که مالی به ضایع ئه پوا، حه یاتی به هه ده ر ئه چی؟! ئه و ی ئه و قرضه له گه ل خودا بکا ﴿فِيضْلِعْفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ خودای تعالی قه رزه که ی بۆ دووچه ندانه بکا، نه ک به (حصر) له دوو چه ندانه بی، به لکوو بگاته ده ره جه یه ک به غه یری خودا، که س نه توانی حصری بکا .. ئه و جا ئه و ی

حہزی لہ پریاہ، با پیا لہ گہلّ خودا بکا۔ ئیوہ ئوہ حہمل مہکہنہ سہر مبالغہ، ﴿وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ﴾ ئہزانن کئی قہرزہ کہ وەرئہ گری؟ خودا، ئہزانن کئی بہو نعوہ زیادیہ قہرز ئہداتہوہ؟ خودا، کہوابی توقف مہکہن. دوابی پروایہ تم لہ (قتادہ) و (اصم) و (زجاج) دیت، کہ فہرمویانہ: «یقبض الصدقات ویبسط الجزاء علیہا» زورم پی خوش بوو، چونکی ئو قبضہ لیڑہ، ئہبی بہ مہعنای عطا نہ کردن نہبی و، «قبض» بہو مہعنایہیش لہ جئی مناسبی خوی دئی، ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (۲۴۵) ئو پوڑہ بہ مکملی قہرضی خوتان وەرئہ گرن، عجا بؤ چ کہس جواب نادا بلئی:

(آتش بجان افروختن، از بهر جانان سوختن)

باید زمن آموختن، کار من است این کارها)

لای من وایہ جہواب لہ آخری سورہت بہ دہرئہ کہوئی، بہ لام بہعضی چشتی پی ئہویست بؤ تثبیتی موسلمانان، تا جوابہ کہ نہبی بہ ادعا و، ہم مدخولی «الم تر» ی ئیرہ مناسبی حالی انصارانہ، کہ لہ سہر مال و مولکی خویانن ترسیان ئہداتی: نہکەن لہ دار و دیاری خویان دہریچن، نہوہک معاذ اللہ تووشی مردنیک بیّن، کہ زندوو بوونہوہی پاشووی نہبی و، ئو قتالہی، کہ ئہیکەن (محضاً) لہ پئی خودایہ، عداوہتیاں لہ گہلّ کہس نہبووہ، دہرنہکراون لہ موقعی خویان، و ئو مالہی صہرفی ئہکەن بؤ انتقام لہ دورژمن نیہ، محضاً بؤ خودایہ، (کانہ) قہرزیکہ لہ گہلّ خودا ئہیکەن، ئہمما ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ زیادہ مناسبہی لہ گہلّ حالی مهاجرین ہہیہ، ئہوجاتا کو مناسبہی حالی ہہ ردوو فرقہ تہواو بیی، جوابہ کہ تاخیر کرا.

﴿مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ وجوہ و اشرافی بنی اسرائیلی، لہ پاش وہفاتی حہضرہتی موسی، ناشوکری نہبی لہ زہمانی حہضرہتی موسی، چیان نہکرد پییان بلیین اشراف.

بزانن جهنابی حهق لهو مقامه، چۆن به عنوانی شهپرف یادیان ئەکا، ئەو اشرافه کرامه له بهینی خۆیان تدبیریان کرد: «چۆن بکهین خۆمان نهجات بدهین، له ظلمی ئەسارهت خۆمان قورتار بکهین؟».

﴿إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّ آلِهِمْ﴾ که به پیغه مبهریکی خۆیان گوت: هه ر که سی بیی له قورتان ته عیین نه کراوه، و له ته عیینیش چ فائدهی نییه، عه رضیان کرد ﴿أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا﴾ بۆ ئیمه بنیره پادشاهییک، له ژیر پئاسهتی ئەو، به ئەمری ئەو ﴿نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (انه) تو انتخابی بکه که سیکی ئەوها، که هه موومان پیی پازی ببین ﴿قَالَ﴾ نبی یه که فه رموی: ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ﴾ ئایا نزیک ئەبن ﴿إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ ئەگه ر شه ر کردنتان له سه ر نووسرا ﴿أَلَا نُقَاتِلُ﴾ له شه ر نه کردن ﴿قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَا نُقَاتِلُ﴾ ئەشرافه کان گوتیان سه به ب بۆ ئیمه چییه، که شه ر نه کهین ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ له راهی خودا، به لکوو موجبیکی به قووهت هه یه بۆ ئەربابی حمیهت.

﴿وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأَبْنَانَا﴾ ده ر کراوین له دیاری خۆمان، دوور کراوین له ابنای خۆمان، ئەوانی ضعیف نه یان توانیوه هه ل بپن، یا خود ئەهمیه تیان نه داوئ ده ریان بکه ن، له به ر دهستی دوژمنه کان ماونه وه ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾ که شه رریان له سه ر نووسرا ﴿تَوَلَّوْا﴾ اعتراضیان کرد، پووین وه رگیرا ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ الا که میک نه بی له ئەوان ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ﴿۳۶﴾ ظاهری ئایهت وایه هه ر، که شه رریان له سه ر نووسرا پیش ئەوی که، بالفعل تووشی شه رر ببن په شیمان بوونه وه، بۆ پیش جهنابی کبریائی، جوابی (نبی) یه که و جوابی ئەوانی بی (فا) ی فه رموو،

ئەمما نازانم (سیدی آلوسی) ، بۆچی حەملی کردووە ته سەر پوو وەرگێران له حەرب وەقتی، که چاویان به دوژمن کهوت .

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾

پێغه مبه ره که یان پێی گوتن: جەنابی کبریائی، (طالوت)ی بۆ ئیوه ناردوو به پادشاه، زۆر نزیکه ئەو ذاته (شاؤول) بی، که له (تەورات) به حثی ئەکا له سەر (السنه)ی عەرەب، که به طالوت دەورانی کردو. ﴿ قَالُوا أَنَّى

يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾ مه له ئی بنی اسرائیلی گوتیان: له کوئی ئەبی

مولک و سه لته نه تی ئەو له سەر ئیمه، ئەوه دووره ﴿ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ﴾

ئیمه حەقمان زیاتره به پادشاهی له ئەو، تا ئیمه هه بین، ئەو چۆن ئەبی به

پادشاه؟ ﴿ وَلَمْ يَأْتِ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ ﴾ ههچ وسعه تیکی له مال نه دراوه تی،

فقیره، فکری مشوشه، په ئی و تدبیری اصابه ناکا، دیاره مقصدیان وابوو،

که له پووی راو و تدبیره وه پێغه مبه ره که یان یه کیک له و وجوه و ئەشرافانه

انتخاب بکا، حاجت نه بی به مراجعه ی حه ضره تی کبریائی، (کانه) له

نه فسی خویان ئەمین نه بوون، که خودا که سیک له ئەوان بکا به پادشاه .

﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ ﴾ خۆتان ئەزانن و ئەیناسن، که فطره خودا

ئەوی له سەر ئیوه ته رجیح داوه:

«بالای سرش ز هوشمندی

میتافت ستاره بلندی»

﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ قووته تی به دهنی، عیلم، تدبیر و

سیاسه تی زیاد کردو، مشهور (علمی صحیح له به دهنی صحیح) دایه،

خاصه اعصاب و دماغ، تا دماغ ساغ تر بی، نه سیچ و ته رکیبی منتظم تر

بی، ئینسان عاقل تر ئەبی. عیلمی لسانی: «کل فاعل مرفوع» و «قال»

ئەصلی «قول» یه بۆ تدبیری مولکو سیاسهت، سلطنت پاره بییک ناهینتی .

(کمال بهگی) شاعیر و کاتبی تورک، له وهقتی سلطان عبدالعزیز پادشاهی آلی عثمان، گهلیک طعنی له حکومت ئه‌دا و، نه‌می ئیداره‌ی ئه‌کرد، بۆ تجربه پادشاه کردی به متصرفی لیواییک، مانگیک نه‌چوو، تلغرافی بۆ مابینی همایون لئ‌دا، ته‌له‌بی قبولی استعفا‌ی کرد، پادشاه قبولی کرد، فه‌رمووی: که هاته‌وه بیهیننه حضور، که هاته حضوری شاهانه فه‌رمووی: بۆ استعفات کرد؟ گوتی: قه‌ومیکی خراب بوون، ناراحه‌ت بوون، ئیداره‌یان زه‌حمه‌ت بوو، پادشاه فه‌رمووی: «عزیزم، شاعر لگ بشقه اداره ملک بشقه».

ژۆر مه‌لای متبحر هه‌ن، که به نووکی قه‌له‌م ئه‌رز و ئاسمان ژۆر به‌ره ژۆر ئه‌که‌ن، ئه‌مما له ئیداره‌ی عائله‌ی خۆیان عاجزن. ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكًا مِّنْ

يَشَاءُ﴾ خودای تعالی، مولکی خۆی ئه‌داته هه‌ر که‌سیکی هه‌ز بکا، مولکداری لای هه‌ضره‌تی باری، تخصیص نه‌کراوه به‌ خانه‌دانیک ﴿وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ خودای تعالی فه‌ضلو که‌ره‌می فراوانه، عیلمی به‌ هه‌موو چشت پائه‌گا، کئ لایق پادشاهی‌یه له‌و بزر نابئ، وا مه‌زانن هه‌ر که‌سیکی له‌سه‌ر ته‌ختیکی مرصع دانیشته و، تاجیکی له‌سه‌ر دانا، پادشاهه، ته‌ئریخی عالم شاهیده، به‌عضئ، ملوک به‌ سجایا و مزایای خۆیان په‌ونه‌قیان داوه‌ته ئه‌وره‌نگی پادشاهی، به‌عضئیکیش له‌ بئ قیমে‌تی خۆیان سه‌ریر و ده‌یهیمی پادشاهیان سووک کرده، خودا ئه‌زانئ نبوه‌تیش به‌ نوات ئه‌گورئ؛ با هه‌ضره‌تی محمد نه‌بوایه، ئه‌وجا ئه‌تان زانی قه‌در و قیমে‌تی نبوه‌ت و رساله‌ت له‌ ناو به‌شهر چه‌ند بووه! مه‌له‌ئئ بنی‌اسرائیلی پاش ئه‌و فرمایشه‌یش قه‌ناعه‌تیان نه‌کرد، به‌ پادشاهی‌ی (طالوت) پازی نه‌بوون، ذاتاً عیناد و لجوجی شیمه‌یان بووه، بۆئی طلبی ئایه‌ت و علامه‌تیکیان کرد، که ده‌لاله‌ت بکا له‌ بعث و انتخابی ئیلاهی بۆ (طالوت).

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ ﴾ عہلامہتی پادشاہی طالوت
 تہوہیہ ﴿ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ ﴾ تہو صندوقہی، کہ تہیناسن معہودتانہ
 ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ «نالوسی» تہفہرموی: لہ ہاتنی
 صندوقہکہدا ہہیہ، اطمئنان و دل پراوہستان بو تہوہ، تہمما تہوہ لہگہل
 ﴿ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آدَمُ مَوْسَىٰ وَعَآلُ هَارُونَ ﴾ پیک ناکہوی، چونکہ دیارہ
 تہو بقیہ لہ تہرہکہی نالی موسی و نالی ہارون لہ ناو صندوقہکہدا بوہ، لہ
 ہاتنی دا نہبوہ، تہم تابوتہ چیہ؟ تہو سہکینہیہ چیہ؟ تہو بقیہیہ
 چیہ؟ روایاتی مختلف و دور، بہلکوو بہعضیکی محال ہہیہ، لہبہر تہم
 اختلافاتہ «سید نالوسی» تہفہرموی: حدیثیکی صحیح نہدیتوہ، کہ
 قفلی تہو صندوقہ بکاتہوہ، بہعضیک تہلین: تہو صندوقہبوو، کہ
 حضرہتی موسی بہ مندالی ہاوشیترا بوہ ناوی، ناو بردی لہ مالی فیرعون
 گرتیانہوہ، تہم قصہ حقیقہ زور خوشہ، یادگاریکی زور گہورہیہ، تہمما
 روایات لہسہر تہو قصہ نیہ، تہوی لہ تہورات تہیلے تہوہیہ: «کہ خودا
 تہمری کردہ حہضرہتی موسی، صندوقیک دروست بکا لہ داری «سنط»
 دریژی دوو گہزونیو، بلندی گہز و نیویک، پانی گہز و نیویک، دہروون و
 بیرونی تہو صندوقہ بہ زیڑیکی پاک طلا بکن و، تہو و صندوقہیش چوار
 پیچکی ہہی، ہہر پیچکہی حہلقہییکی زیڑی تی بکن و، داری سنطی
 تیہل بکیشن، بوہل گرتن و لہو طرف و لہم طرفی صندوقہکہ، لہ زیڑ
 دوو ہیکہل ملائکہت تعبیہ بکن، بہو نہوعہ، کہ بالیان بہسہر
 صندوقہکہدا ہل بکیشن و، بنی اسرائیلی اعتقادی زوریان بہو تابوتہ
 ہہبوو، کہ بچووبونایہ شہر تہیان بردہ پیش لہشکر، لایان وابوو تہو
 لہشکرہ قابل نیہ بشکی، وہک درہفشی کاویانی بو تہیرانیان!
 یا خودا ہمری تہو لہشکرہی، کہ قووتی قہلبی بہ تابوت ہی، لہ
 شہرریکی، کہ فلسطینی بہسہریان دا غالب بوون، صندوقہکہیان برد، دوایی

له ناو فلسطینیان عیله تی مایه سیری زۆربوو، مشکیش غه له بهی کرد، مزروعاتی به فساد دان، ئه وهیان کرده عه لامه تی غه زه بی «یه هوه»، خودای بنی اسرائیلی له سهر ئه و صندوقه، هاتن صندوقه که یان له ئارابه ییک دانا، چوار چیلێ به گۆلکی شیره خۆره یان له ئارابه که خست و، چهند دوگمه ییکیان له زێر داپژاند، ئیشارهت بو مه مکه ی مایه سیری و چهند هه یکه لیکی مشک، ئه ویش له زێری دایان پژاند، هاویشتیانه ناو صندوقه که، که بنی اسرائیلی دلایان ساکن ببی، که (فلسطینی) ترساون. فلسطینیه کان پووی چیله کانیاں کرده طهره ف ممله که تی بنی اسرائیلی و لی یان خورین، چیله کانیش پوویان کرده مه مله که تی بنی اسرائیلی، (مع انه) مه یلی فیطری وای ئیجاب ئه کرد، که چیله کان بگه رزینه وه سهر گۆلکی خویان، ئه وهیش دیاره به سایقیکی معنوی بو ته ره فی بنی اسرائیلی سه وق کراون، بوی خودا ئه فه رموی: ﴿تَحْمَلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ که وابی تاویلی مه لائکه به و دوو هه یکه له ی، که له و طهره ف له م طهره فی صندوقه که چه سپاندراون، وه ک (مجددی میصری) ئه یکا زۆر دووره، نه حمل هه لی ئه گرئ، نه مه لائکه ت، که وابی سه کینه که ئه م دوگمه یه ی، که شکلی مایه سیری و مشک بوو، که بوو به سه به بی سکونه تی دلای اسرائیلیان، ترسی فلسطینی یانیاں له دل دا نه ما و، بقیهیش قابله به عضی اشیا ی چه ضره تی موسی و چه ضره تی هارونیاں له ناو صندوقه که دانابی و، فلسطینی یه کانیش ده ستیاں لی نه دابن، به عضیکیش ئه لین عیباره ته له کتیبی (عهد).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢٤٨﴾ له هاتنی تابووت به و صورته، ئایه تیکی گه وره هه یه بو ئیوه ئه ی مه له ئی بنی اسرائیلی، ئه گه ر ئه هلی ئیمان بووین.

یا خود ئه و ماجه رایه ئایه ته بو ئیوه ئه ی موسلمانینه! عیبره ت بگرن بو

(حرب و ضرب) ، خۆتان به تابووت و مابووت هه‌ل‌مه‌خه‌له‌تینن، قووه‌تی دل‌تان به خودا بی، ئیمدادی معنوی له خودا بخوازن، به تابووت و به‌یداغ زه‌مانیکی خه‌لق هه‌ل‌ئه‌خه‌له‌تین، دوایی پووچی به دهرئه‌که‌وئی، زهره‌ر ئه‌دا به قووه‌ت و مه‌تانه‌ت. ئیمه‌ خۆمان دیتمان له‌و (اواخه‌ر)، چه‌ندجار پادشاهی ئالی عثمان سنجاقی، شریفیان هی‌نایه‌ دهره‌وه، ئه‌مما مع‌الاسف که‌س ئه‌همیه‌تی نه‌دایئ.

پاش ئه‌و ئایه‌ته‌ عظیمه‌ مه‌له‌ئی بنی‌اسرائیل، پادشاهی طالوتیان قبول کرد، ئه‌ویش تنظیمی عسکری دا بو طرف دوژمن، له‌گه‌ل‌عه‌سکه‌ر په‌وانه‌بوو ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ به‌له‌شکرکی زۆر ﴿قَالَ اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ خودای تعالی ئیوه امتحان ئه‌کا به ئاوێک، له‌سه‌ر پیتان توش ئه‌بن. ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ ئه‌وی لئی بخواته‌وه له من نی‌یه. ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ ئه‌وی تامی نه‌کا ﴿فَاِنَّهُ مِنِّي﴾ به‌راستی ئه‌و له‌منه، راسته‌ صابره، خۆی پی ئه‌گیرئ و حه‌ربی پی‌ئه‌کرئ ﴿اِلَّا مَنْ اُغْرَفَ عُورَةً بِيَدِهِ﴾ لویچیک له ئاوه‌که هه‌ل‌بگرئ بۆ له‌ده‌م وه‌رکردن، ئه‌وه قه‌ید ناکا ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ﴾ له‌امتحان دهرنه‌چوون، اکثریان له ئاوه‌که‌یان خوارده‌وه، که‌میکیان نه‌یان‌خوارده‌وه ﴿فَلَمَّا جَاوزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ وه‌قتئ، که عبوری کرد طالوت و ئه‌وانه‌ی، که له ئاوه‌که‌یان نه‌خوارده‌بووه ﴿قَالُوا﴾ ئه‌وانی عبوریان کرد ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ تا‌قه‌ت و قووه‌ت بۆ ئیمه‌نی‌یه، ئه‌مپۆ به‌جالوت و له‌شکری جالوت.

ئه‌م قسه‌ مقبوله‌ له‌مقابلی ئه‌و جماعته، البته شکستیکیان له‌دل‌دا په‌یدا بووه، ئه‌مان که‌م. دوژمن زۆر، بی‌گومان له‌به‌ینی خۆیان‌دا ئه‌م

گفتوگوییەیان کردووہ ..

﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْتَقُوا لِلَّهِ﴾ ئەوانەیی، که به قووہت بوون و ئیمانیان محکم بوو، ئەیان زانی پجوع و ایاب بۆلای خودایە، بەلام تعبیری بە (ظن) داوہتەوہ، که تەنہا گومان بردن بە ملاقاتی حەضرەتی کبریائی، کافیە بۆ اقدام لەسەر شەرر، صبر و ثبات لە مقابلەیی دوژمن بە قووہت و بی ژمار خالی نیە لە (احدی الحسنین) یا «ظفر» یا «شہادەت»، وەقتی اوروپیایی لە مقابلەیی موسلمانان بە دوو کلمە زۆر عاجز بوون، نەیان ئەزانی بە چی مقابلە بکەن، قوماندانەکان بە عسکریان ئەگوت شەرر بکەن، ئەگەر کوژران شەھیدن، ئەگەر مان غازین، ئەوانە فەرموویان: ﴿كَمْ مِّنْ فِئْتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿۱۲۶﴾ زۆر بووہ جەماعەتیکی کەم، غالب بوون بەسەر جەماعەتیکی زۆر، بە ئیذن و پرضای خودا، ذاتاً لەشکری زۆر و بۆر بی کە لکە، کەم و پوخت خۆیەتی، وەکوو ئەلین اعتباربە کمیەت نیە بە کیفیەتە .

«سیاهی لشکر نیاید بەکار

که یک مرد جنگی به از صد هزار»

وہقایی تاریخیە شەھدە لەسەر صدقی ئەم دەعوایە ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا﴾ کہ خۆیان لە ساندا، خۆیان ئاشکار کرد، طالوت و بقیەیی خالص ﴿لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ وا دەرئەکەوئ ئەوان (شطارتیان) نوواندوہ، سبقیان کردووہ بۆ مەیدانی مبارزە .. ﴿قَالُوا رَبَّنَا﴾ گوتیان ئەی خودای ئیمە ﴿أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ سەبرمان بەسەردا برژینی، کہ دلمان پەرر بیی لە ثبات و متانەت ﴿وَتَكَيْتُ أَقْدَامَنَا﴾ لاقمان پاگری، قووہتی کمان پی کەرەم بکەیی، کہ لەمەیدانی حەرب پابوہستین، خو بگرین ﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ دياره ئەوانه ئەهمیه تیان نه دابوو تهابوته که؛ چونکه لئیان معلوم بووبوو، که دل به تابوت بهستن سسته، که لکی نیه ئەپسی ﴿ **فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ** ﴾ دوژمنیان شکاند. ئەصلی «هزم» غمزه، یه عنی شتی نهرم وهکوو هه ویر به ئەنگوست پوو بچئ و ئەتهری تیدا بمینئ.

﴿ **وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ** ﴾ داود، جالوتی کوشت. داود کئیه؟ مشهور و معلومه له بنی اسرائیلیانه، به چی کوشت؟ چۆنی شهر له گه ل کرد؟ به بهردهقانی میشکی پرژاند، یا به شمشیری ئابدار؟ یا به نیزی جان ستان؟ ئەوه له قورئان دا نیه و به یانیشی بی لزومه، مقصد ئەمهنده یه داود جالوتی کوشت..

﴿ **وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ** ﴾ خودای تعالی پادشاهی و حکمهتی پی که ره م کرد، ئاگاداری کرد به اسرار و دقایقی حوکمرانی ﴿ **وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ** ﴾ له وی ئاره زوی بکردایه، یا خودا ههزی بکردابوایه فیبری ئەکرد، یه عنی خودا عیلمی اختراعی پی که ره م کرد، که چشتی وا دروست بکا لای دوژمن نه بی، ذاتاً اورپایی به سه ر ئیمه دا غالب بوون، به اختراعی آلات و ادواتی هه رب.

ئیمه به کۆنه شیرو کوته کی قیر و ریمب و تیر، ئەوانیش به توپی سریع ئاتهش و متره لیۆز و بۆمبا و ته یاره، لای گه لیکمان وابوو واجبه، هه ر به و ئالات و ادواتی، که له زهمانی پیغه مبه ر شه رری پی کرابوو، ئیمه پاش سیژده، چوارده قه رن شه رری پی بکه ین، به بدعه تیان ئەزانی بوئ تئ شکاین و شکاین.

هه ضره تی کبریائی، پیغه مبه رانی کرامی بو اصلاحی به شهر ناردوو، بالطبع ئەم پیغه مبه رانه هه زیان له شه رو شو ر و ئاشوب نه بووه، ئەگه ر (مضطر) و مجبور نه بووبن، شه رریان نه کردوو، هه تا مصلحه تیکی کلیان

نه دیتبئی له ده فعی ئەهلی فهساد، شه رریان نه کردووه، بۆیئ ئەهه رموی: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ ئەگەر خودای تعالی ده فعی به عضة خهلق که ئەهلی فهسادن به به عضيک که ئەهلی صلاحن نه کردابوایه، به جاریک ئەرض به فهساد ئەچوو، بۆیئ ئەگەر خودا شوناسهکان بوونه ئەهلی فهساد، خودای تعالی به کافرهکان خودا نه شوناس ده فعیان ئەکا.

قسه یهک له حه ضرهتی موسی نه قل ئەکهن، ئەگەر راست، ئەگەر درۆ زۆر خوشه، ئەلین، عه رضی کبریائی کرد: بۆ فرعون نافه وتینیی؟ خو ده عوای خودایه تی ئەکا؟ فه رمویی: به عه داله ته، بۆ خهلق باشه، با هه ر ناماقولئ بکا، بلئ من خوام، پاش ئەوه، که دهستی کرد به ظلم کردن، ئەوجا خودا فه رمویی، جئیه تی انتقامی لئ بکه مه وه.

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ جه نابی کبریائی، صاحب فه ضل وکه ره م و مه رحه مه ته له سه ر هه موو که س، بۆیئ کافری به عه داله تو انتقام، له سه ر موسلمانئ به ظلم و بی انتظام غالب ئەکا، ئیمان ئەوه یه، که ئینسان له خراپه بگيرپته وه، چاکه ی پئ بکا، ئیمان و عملی خراپ، نازانم چۆن گرد ئەبنه وه؟ ئیمانی سه ر زوبانی، چ نی یه! زۆر وا ئەبی کافر به سیاسه ت چاک ئەبی، ئەمما موسلمانه کانی بی ناوک، به سیاسه تیش پوو له چاکه ناکه ن.

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ ئەهوی ذکرکرا ئایات و (عبری) خودایه، به سه ر تۆی دا ئەخوینینه وه، بی درۆ و ده له سه یه .. ثابت و مقرره حکایات نی یه .. هه مووی بی (عبری) و نصایحه ئەوجا ئەی موسلمانینه، ئەی مهاجر و انصار! به گوئی اعتبار بیین، به چاوی اعتبار ته ماشا بکه ن، له پۆژی امتحان سه ره فرازی بنوینن، سه رکه شی مه که ن، تابعی ئەمر و قواعدی مقرره ی ئیلاهی بن، به خوارق و شوان، به تابووت و

عهلهم، ههلهمه خه له تین، دل به خودا مه حکم بکهن و، محقق بزنان دین بی ته شکیلی سلطنت نامینی. هه ر مذهبیک حهق و باطل، تا ئه مرؤ مابئ، به ته شکیلی سلطنته وه بووه. ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (۳۵۲) به حه قهت و به راستی تو له زومره ی پیغه مبه رانی، الحق محمد المصطفی (ﷺ) بحق پیغه مبه ره، پیغه مبه ری خودایه، پیغه مبه ری عه قلّه، پیغه مبه ری عیلمه، پیغه مبه ری طبیعته، مه قامی رساله تی بلند کردووه، شه ره فی بشریه تی به ده رخواستووه (جزاه الله عن الرسالة والبشرية خیر الجزاء).

* * * *

ته واو بوو تهفسیری جزئی ثانی، به ئیذنی په حمانی، پوژی سی شه نبه، (۱۰) دهی محرم الحرام، یازدهی نیسانی پومی سنه ی ۱۳۵۳ هجری قمری. ته میزی کرا پوژی دووشه نبه (۲۰) بیستی مانگی په جب یا (۱۹) نوزدهی په جب، ۱۶ی تشرینی اولی پومی سنه ی ۱۹۳۴ میلادی.

﴿تَلْكَ الرُّسُلُ﴾ ئەو پیغەمبەرانی، که تو له زمره ی ئەوانی، هەموویان له طبقه ی علیای گەرەیینە، ئەمما له و مقامه یشدا بەعضیک له بەعضیک زیاترن ﴿فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ خودای تەعالی بەعضیک له سەر بەعضیک تفضیل داوه، زیادهییکی پە ی احسان فەرمووه، ئەمما ئەو فضلە خەلەل بە علوی هیچیان نادا ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ گەرچی له عیبارەت دا مبهمة، ئەمما معلوومی ئەنامە، بە اتفاقی فریقین حەضرەتی موسی (کلیم اللە) یه ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ بەعضیک له ئەوان بڵند کردووه بە نەوعیک، که ناییتە تعداد له جملە ی ئەوانە، حەضرەتی ابراهیمە، بڵندی مقامی خلیل اللە، مسلمی هەموو خە لکه .

﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَتِ﴾ نافەرمووی و (منهم من آتينا البينات)، هەرچەند بە تبادری ذهنی ئیمە و مەسیحیان ئەچۆ بۆ حەضرەتی عیسی، ئەمما جوله که، که ئیمانیا ن پێ نیه، ئەتوانن حەملی بکەنە سەر شەخصیک تر ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ مەعنا ی ئەو ئایەتە سابقاً تەفسیر کراوه، ئەو پیغەمبەرانه بۆچی ناردراون، خودای تەعالی، ئەو علمو فضلە ی بۆ پێ کەرەم کردوون، ئایاتی پێ داوون و قسە ی بالذات له گەل کردوون؟ بۆ هیدایەت.. یه کایەتی، لابردنی شقاق و خلاف، وه کو سابقاً زاناندرا. ئەمما ئەتباعی ئەو پیغەمبەرانه، خو بەخۆی اختلافیان بووه بە اختلافیک کلی.. بوون بە دوشمنی یه ک، غهیره قابلی اصلاح، ههتا تەبەعە ی یه ک پیغەمبەر ئەوهنده اختلافیان بووه، که ناییتە خەیا ل. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ اختلافیان به و نەوعیه، که یه کتر ئەکوژن، فیتنه و شەرر و شوپری (المليون)، هەموو صفحاتی تاریخی ملوٹ کردوه، ئەگەر خودا حەزی بکردایه، یه کتریان نائەکوشت پاش پیغەمبەرەکان ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ﴾

الْبَيِّنَاتُ ﴿ له پاش ئه وهی، که ئه و بیئاتهیان بۆ هات، ئایاتی ئه مهنده ئاشکرا، که له پاش ئه وه به خاطر و خه یالدا نه ئه هات ئه وانی، که ئیمانیا ن پی هیئان، اختلاف بکن، ﴿وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوْا﴾ بالفعل اختلافیان بوو، گهرچی حه ق وابوو نه بی ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ﴾ هه ر له زومره ی یه ک پیغه مبه ر. به عضیک ئیمانی به راستیان هیئا، به عضیکیش له حه قیقه تدا کافر بوون، بۆ هه دمی دین، بۆ تحریف و تبدیل و تغیری ئایاتی بیئات، گه لیک له کافر هه ربی خراپتر بووه .. یا للعجب!

ئه وانی، که به راستیش ئیمانیا ن هیئا بوو له سه ر به عضیک مسائلی فرعیه، به لکو له حه قیقه تدا له سه ر به عضی مطامعی دنیوی، دوژمنایه تیکی وایان که وته به یین، که به لافاو خونیا ن له به یئا پڑا. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا﴾ ئه گه ر خودا ئیراده ی بکرده یه، یه کتریا ن نائه کوشت ﴿وَلَكِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیْدُ﴾ ﴿۲۰۳﴾ لاشک واردی خاطر ئه بی، وه کوو ملائکه ته کان فه رمویان: «اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء» مادام ئه تبعای پسل ئه و هه موو شه ره یان له گه ل یه کتر کرد، به نه وعیک بوونه دوژمنی یه ک، که دوژمنی اصلی، یه عنی ئه وانی انکاری خودا و وحدانیه تی ئیلاهی و، ئه صلی نبوه ت ئه کهن له فکریان چووه وه. بناء علیه ئه بوایه خودای تعالی ئه و پیغه مبه رانه نه نیرئ، خودایش جواب ئه داته وه، به وینه ی جوابی ملائکه تان، به ئه وانی فه رموو: .. من ئه یزانم ئیوه نایزانن .. لییره یش ئه فه رموی: خودای تعالی ئه وی ئیراده بکا، ئه یکا. لاشک جه نابی کبریائی، له ناردنی پیغه مبه ران مقصدی خیر بووه .

اولا: ئه گه ر خودا ئه و پیاوه عظمایانه ی نه ناردبوایه، ئه و گرۆهه ممتازه نه بوایه، ئیجابی ئه کرد به شه ر خه لق نه کړئ .. (ارقی) ی یه عنی بلندترین عاله می حیوانی، هه ر مه یموون بی! دیقته بکن، هه ر قه ومیک باسو

خه بهری پیغه مبه رانی پیگه یشتبئی، ئەگه رچی ئیمانیشیان پی نه هیئان، ئیمتیازیکی چاکه ی ههیه له و قه و مه ی، که خه به ریان له (بعث و نبوهت) نیه و، ئەزانن، تا به شه ر له نبوهت نزیکتر بن؛ چاکترن، تا دوورتر بن خرابتر بن.

ثانیا: وه کوو حکماء ئەلین له عالیه می (کون و فساد)، خیری محض نیه، کلی چشت دوو جهه تینه، پرووی خیریش ههیه و لای شه ریش ههیه، ئەوجا علی التساوی، یا علی التفاوت (اله واله یون) حقیقی ته ماشای جیهه تی خیر ئەکه ن، مثلا: (مساوات فی الحقوق) چهند چشتیکی باشه، نظر به ملوک و اعظم، هه تا رۆسای دین، چهند خراپه، چ مجادله ییکن پی ئەوی له گه ل نه فس، تا نه رمی ئەکاو ئەیگه نیته ئەم ده ره جه، که حقوقی شخصی خۆیی و عامی یه ک لای مساوی بی، ئایه تی «ان الله بكل شيء عليم» چ حقوقه قیقه تیکی شایانه بۆ صلاحی ئینسان، له ظاهر و باطن و سرو خفی و اخفی، ئەمما ئەوانه ی مه یلی فه سادیان ههیه، ئەزانن چۆنیان گۆرریوه «ان الله على كل شيء قدير» «ان الله يفعل ما يشاء» بۆ صاحب هیممه ت و غیره ت، چ قه در و قیمه تیکی ههیه، پو حیکی وای پی ئەدا، که پرو بکاته چیا یان وه لیان بکه نی، ئەمما ئەوانه ی ته نبه ل و بی نشاط بن، له عمل چۆنیان وه رگی راون.

ثالثاً: عیلم و عقل قوه ی انتباهی، قیمه تیان ته قدیرو ئینکارنا کرئ، هه کیمیک به هه زار مشه ققه ت، بیست و چوار سال عومری خۆی سه رف ئەکا، تا بۆ نه فعی به شه ر ئاله تیک اختراع ئەکا، شه خصیکی غدار، طماع، دوژمنی بشریه ت.. سه رفی ئەکا له شه ر و، تخریبی دار و دیاری عبادی خودای پی ئەکا. ئایا ئەوه ئەبیته شه ر و سیئاتی عقل و عیلم و اختراع؟ ئەو هه کیمه لۆمه ی ئەکرئ له سه ر اختراعی ئەو ئاله ته؟ حاشا ثم حاشا، حاصلی، ئەگه ر نه وه شو بهه بیته مانع بۆ ناردنی پیغه مبه ران، ئەتوانین بیکه ینه مانعی خه لق و ئیجاد.. بزانی سبه بی اختلاف و شقاقی ئەو

ئوممہ تانہ چی یہ؟ وہک سابقاً تصریحی پی کر اوہ، لیڑہیش ئیشارہتی بؤ
 ئەکا.. حب و حرصی دنیاہیہ، ضعفی ئیمانہ بہ قیامت، اعتمادہ لەسەر
 شفاعت، بؤ مەنعی ئەصحابی گزین، لەو خصالہ خراپانہ ئەفہرموی:
 ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ لە پری خودا صەرفی بکەن.. بە
 حبی مال پابەند مەبن.. بە دەستی خۆتان، خۆتان هیلاک مەکەن.. پیش
 خۆتان زەخیرەہک بؤ قیامت بنیرن. وہکو (سعدی) ئەلی:
 «کس نیارد زپس تو پیش فرست»

﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ﴾ معاملەى بدل فدیہ، خۆکپینەوہ نییہ،
 لەو پۆژہ ﴿وَلَا خُلَّةٌ﴾ محبەت، دۆستی، صداقەت لەو پۆژەدا نییہ. اعتماد
 مەدەنە سەر محبەتی خۆتان، یا محبەتی خودا بؤ عەبدیک، ئەگەرچی خلیل
 الرحمان و حبیب اللہ بی ﴿وَلَا شَفَعَةٌ﴾ شەفاعەت، تکا، پچا نییہ.. لەو
 پۆژەدا جەنابی حەق، بەو نەوعە دەربارەى سائر ئومەمی فەرمووہ: چ جایی
 ئەمەلی شەفاعەت، بەعضیکیان گەیانە مقام القدس، تا بلین خودایە، یا
 کورری خودایە!! ئایا بؤ دلالتی نارد، یا بؤ ضلالەت؟ خۆی بکا بە فدیہی
 گوناھکاران، ئەوجا عالەم ببیتە سەگی ھار، ھەرچی بیکا بیکا؟ ذاتیکی
 وہکو (کلیم اللہ) و (خلیل اللہ) لە عەزاب دابن، بە فدیہی (عیسی) نەجاتیان
 ببی؟! وای لەو حەماقەتە! حقاً ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ادنی ظلمیک
 لە تەرەف کبریائیەوہ نییہ، ئەو کافرانەى، کە ئایاتی ھیدایەتیان کردوہ تە
 سەبەبی ضلالەت، (حقیقە) ھەرئەوان ظالمن، تجاوز لە خودا ئەکەن. ئەو
 نەوعە ظلمە (وثنی ثنوی)، ھەتا (دھری) نەیان کردوہ، کە وای ئەی
 ئیماندارینە، خۆتان (بالمرہ) لە شائبەى (شرک) دوور بکەن.. غەیری
 خودا، ئومید بە کەس مەکەن.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ذاتیکی واجب الوجودە، بی شریکە، غەیری ئەو، چ

ئىلاهىكى تر نىيه .. (موجد و منجى) هه رئه وه، ههچ موجودىك اثرىكى له ئاشارى الوهيه ت نىيه، ئه وهى ههيه، يا له ئىوه به ره ژيتره، وه كوو جمادات، يا وه كوو ئىويه له احتياجى، وه كو سائرى حيوانات ﴿الْحَيِّ الْقَيُّومُ﴾ حقيقه حهياتى حقيقى خاص ئه وه، زندوويكه حاجه تى به موادى حيويه نىيه، موادى حيوى و غيره حيوى، وجوودى له ئه وه زندوويكه بئى توالد، بئى له چشت بوون قائم بالذاته، حاجه تى به ههچ نىيه، قوامى هه موو چشت له تهره ف ئه وه، زندوويكه ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾. ئه وى (معهه) سست بئى، طعام چاك هضم ناكا، بخارى به قووه ت نابئى، وه كو زه مانى پيرى ئه و نوعه كه سه ئه بوژئى ئه ماما ناخه وئى، ئه وى معده ي به قووه ت بئى، بخاره كه به قووه ت ئه بئى، زوو تاثيرى له ده ماغ ئه كا، بئى بوژئان خه وى لئى ئه كه وئى، حاصلى به ههچ وه جه، غه فله ت و سستى پروو له خودا ناكا. قيوميكه ﴿لَهُ﴾

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ بۆ ئه وه، ئه وى له ئاسمان و ئه رز دابئى .

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ﴾ كئيه بتوانئى شه فاعه ت بكا له خزمه ت ئه و؟ به پاررانه وه كه س له ده ست ئه و نه جاتى بدا، فه ضل له (غلبه) و حيله كارى حاشا ثم حاشا، كه س نىيه تكا كار بئى ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ ئه وى شفيع باذن الله بئى، له تهره ف خودا ئيلهام ئه كرئى، خودا بو كئى راضى تكا بكا، راضى نىيه . كه وابئى خه ريكي تحصيلى په ضاى خودا بن، ئه گه ر لاي خوداتان هه بئى، تكا كارى شتان ئه بئى و، لاي پيغه مبه ران و ملائكه تان، به حورمه ت ئه بن، وه الا هه موويان ئه باو له عنه تان لئى ئه كه ن.

خودا وه ندى حى و قيوم ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ ئه زانى ئه وى له مابه ينى ده ستى ما فى السماوات و ئه رضه، ئه زانى چى ئه كه ن .. پروويان له چى يه، ئه وى له پشتيانه وه يه پروويان لئى نىيه، نا يكه ن سه به بو معذره تى به كردنيان چى يه، ههچ له و بزر نابئى، كه وابئى ئه وى تكا كار بئى

چی عهرض ئهكا؟ بۆ گوناهاكاره كه ئه پارریتتهوه، چ معلوماتیکی بزر بوو،
خودا ئاشکرای ئهكا، (مع انه) ﴿وَلَا يُحِيطُونَ﴾ سکانی سماوات و ارض
دهوره نادهن ﴿رِشْيٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾ به زهرهیهك له معلوماتی خودا ﴿إِلَّا بِمَا
شَاءَ﴾ الا به چشتیک نه بی، که خودا چه زیکا فیریان بکا. ئه و ملائکه تانه ی
له بهر (قدسیهت) به بنات اللهی مجردیان ئه زانن، بیستتان له مناظره ی
ئاده م چۆن جه هلیان به ده رکهوت، چۆن اعترافیان کرد؟ «سبحانک لا علم
لنا الا ما علمتنا» ئه و جا عیسا یه ک، که مؤیدی (بروح القدس) بی ئه بی
چۆن بی؟

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ کورسی خودا ئه رز و ئاسمان ئه گری،
عالمی علوی و سفلی جی یان تیدا ئه بیته وه. ئه فه رموون کورسی جسمیکی
به رینه نزیکه عه رشه، هه موو ئاسمان و ئه رز له مقابله ی ئه و، وه کوو
حلقه یه که له به رابه ری سه حرایه کی پان و به رین. له قاموس ئه فه رموی
«الكرسى بالكسر السرير والعلم» ده رته كه وئی، که کورسی له لغه تدا اطلاق
ئه کریتته سه ر عیلم، ئه وه زۆر خو شه، مو افقی مقامه .

اولا فه رموی بۆ ئه وه، ئه وه ی له ئاسمان و ئه رز دایه .

ثانیاً ئه فه رموی: عیلمی ئه و، احاطه ی به ئاسمان و ارضی داوه، که وایی
حاصلی مه عنای وایه: ئاسمان و ئه رز و ما فیهما مملوکی خودایه، حقائقو
اسرار یان بۆ خودا معلومه، هیچی لی بزر نابی.

هه م له قاموس ئه فه رموی: کورسی ناوی دئی یه که له (طبری ه)،
حه ضره تی (عیسی) له ئه وئی، (حواری) خو ی گرد کردوه وه و ناردنی بۆ
نه واهی.

کورسی له قورئان دا هه ر لی ره ذکر کراوه ئه مه زۆر مناسبه، یه عنی
ته ماشای نسبه ت بکه ن له به ینی کورسی خودا به هه ر مه عناییک، که لی
بگرن له گه ل کورسی عیسی، که دئی ییکه کردیه (مقری جمع و بعثی حواری

یہکانی خوئی، بہ گویرہی ئەم نسبہتہیش، فہرق لہ بہینی جہنابی کبریائی و عیسی بزائن، کہ اصلا نسبہت قبوول ناکا، «والکافرون ہم الظالمون» ﴿وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ لای خودا گران نییہ حفظی (سماوات وارض) ، یا حفظی محیط و محاط، وامہزائن (مکان) حفظی خودا ئەکا، خودا حفظی مکان و مافی المكان ئەکا، مادامہکو حفظی علوی سفلی لہسہر خودا گران نہبی، شہریکی بۆچییہ؟

کہسیک لہ خہ لقی عالہم عاجز نہبی، لہ حفظی چۆن عاجز ئەبی؟ معاذ اللہ، ئەگہر خودا لہ حفظی ئەرزو ئاسمان عاجزی، غہیری ئەو کہ لہ نہفسی خویاندا عاجزن، چیان پیئ ئە کری؟ ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (۲۵۵) ہەر ئەوہ بلند، لہ شریک و اشباہ، لہ معاون و معاند، لہ عجز لہ ہەرچی شائبہی امکانی تیدا بی، گہورہییکی وایہ عالہم بہ نظر عظمت و کبریائی ئەو، زہرہییکی محقرہ و ہک (نالی ئەلی):

زہرراتی عکوسی کہششی مہری جلالن
وا دین و دەچن سہر زہدہ سلطان و شہہنشاہ

لہو ئایہتی کریمہ بۆ ئەہلی ئینصاف، حہقو حہقیقہت دہرئہکہوی، ناچار اعتراف ئەکا ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ چ اکراہ و تۆبزی لہم دینہدا نییہ چشتیک، کہ لہ عہقل دوور بی بہ تۆبزی تکلیفی پروا پی کردنی تیدا نییہ، وہکوو لہ عقائدی ضروریہی دیانان دا ہہیہ، لای ئەوان ئەبی قبوولی بکہی، عہقل ہہظمی بکا، یان نا. ﴿قَدْ بَيَّنَّ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ﴾ بہ حہققہت، بہراستی تمیزی بوو، ئاشکرا بوو، جودا بووہوہ بہ (رای العین) ، ہدایہت لہ ضلالہت، وہک تمیزی مرشدو ہادی، لہ (مضل و مغوی) ، ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ ہەر کہسیکی انکاری طاغوت، لات و عزی ، کاهنو شیطان، رئیسی پی لئ گۆرین، اصنام، ہەرچی عبادت بکری، غہیری

خودا، مردەى ئەھلى كەتاب بكا، برۆايبان پى ئەكا ﴿وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ باورپى به خودا بكا ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ به حەققەت دەستى گرتووه به قولپى مەحكەم، (عرووه) لە لغت دا بەو جىيە ئەلەين، كە دەستى پىووه ئەگىرئى لە دۆلكە، لە گۆزە، كە پىئى ئەلەين (قولپ، ھەنگل) قولپىكى وامەحكەم، كە ﴿لَا أَنْفِصَامَ لَهَا﴾ تىيك و دەرزىشى نىيە، فەضل لە قەلشت و لىك بوونەووه ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ھەموو چشت ئەبىي، واسطەى پى ناوئى، ھەموو چشت ئەزانئى، عىلمى ئەووه مەحيطى غىرە مەحدود، عىلمى ھەموو عالەم كە مە. لای بەعضئى كەمە، عىلم بە حقائقى اشيا بو غەيرى خودا نىيە، ئەگەر چشتىك بزەنن ظاھرى يە، شەبەحە، ئەوى بەشەر بى، كە مەيك ببىسى و گۆشو ھۆشى ھەبى، چشتى بزەنئى، چۆن ئيمان بە طاغوت ئەھىنئى، چ بت و اصنام! چ شەيتان و عفرىت؟! ئەھلى كەتاب چۆن بە قسەى ئەھلى ضلال ھە لئەخە لەتئى، اعتماد ئەكاتەسەر شەفاعەت و فدىە؟ خۆى لە سەعى و عەمەل ئەكا، ئايا ئەو طاغوتانە تەمىنى نانىكيان پى ئەكرئى، تا تەمىنى نەجاتى اخروى بەدەن؟

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ خودا نصىرە، مەىنە بو ئەوانەى ئيمانان ھىناوھ بە الوھىيەتى، بە رېوبىيەتى، بە وحدانىيەتى، بە مالكييەتى يوم الدين ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ لە ئەنواعى تارىكى ئەيان ھىنئىتە دەرهوھ. تارىكى انواعى ھەيە، لە اعتقاد بە خودا.. بە افعالى خودا.. بە صفاتى خودا، لە اعتقاد بە ملائكەت، لە اعتقاد بە كەتب، لە اعتقاد بە رۆژى جەزا، لە ھەر مەقامىك، ئىنسان احتياجى ھەيە بە معاونەى خودا، و الا ئەكەوئىتە تارىكى، بوئى حەضرەتى رەسولى كبرىا، لە دوعادا عەرضى بارەگاھى كبرىا ئەكا «ولاتكلنى الى نفسى طرفة عين» بە ساىەى ئاياتى بىنات، خودا رىيەكى پاستو فراوان، ئەوى مؤمن بى ناكەوئىتە تارىكى، ئەگەر

غہ فلہ تیکیشی بہ سہرداہات، زوؤ ناگادار ئەبیئتہ وہ .

﴿ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** ﴾ کہ ئیمانیان بہ خودا نہبی ﴿ **أُولَئِكَ أُولُوا هُمُ الظُّلُمَاتِ** ﴾ معین و نصیری ئەوان ظالمانہی طاغی و باغی ، متجاوز لہ حدن ﴿ **يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ** ﴾ دەریان ئەکەن لہ پوناکی بو گہلی تاریکی . هەتا ئەمرۆش، کہ دە لئین عەصری عیلم و عرفانہ، طاغوتی دیانان خەریکن موسلمانان بکہنہ دیان، لہ پوناکی توحید، بیان کەن بہ شکل و صورت پەرسەت ﴿ **أُولَئِكَ** ﴾ ئەوانمەہی کفر و ضلال ﴿ **أَصْحَابُ النَّارِ** ﴾ خواہندی ناگری جہہننہمن ﴿ **هُم فِيهَا خَالِدُونَ** ﴾ ئەوان لہ ناوی دا ابداً ئەمینن، دەر ناچن . مادام خەلق لہ (نور) بہیننہ دەرہوہ، ئەبی ئەوان بچنہ ناو ناگر، (مع انہ) وەکو لہ حدیث معلوم بووہ، جہہننہم پەشہ، پوناکی نیہ، ئەوانی تابعیشیان بن طبعاً ملازمی خزمەتیان ئەبن، اربابو ئالہی خوین چۆن بہ جی ئەہیلن، ہەرہوہ کو لہ دنیا تابعیان بوون، لہ عەزابیشدا تابعیان ئەبن، ئەگەر کہ سیک شوبہہییکی بیئ لہ (اغوا) و پئی لئ گۆپرینی طاغیان، چ طغیانیان بہ سہبہبی سلطنہتی دینی بیئ، چہ سبب بہ سلطنہتی دنیا بیئ .. ذاتاً لہ (لغت) دا طاغوت اطلاقیش ئەکریتہ سەر مەلیکی ظالمی مستبد، بو دەفعی اشتباہ، با تامل بکا لہ ئەو ماجہرایہ، کہ بۆتان نکر ئەکرئ .

﴿ **أَلَمْ تَرَ** ﴾ ئەہی پەسول، یا ہەر کہ سیکی صاحب پۆیہت و علم بیئ ﴿ **إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ** ﴾ گویا خوئی وا ئەنواند، کہ بہ مناظرہ غالبہ لہ سەر حەضرہتی ئیبراہیم، ئەو مجادلہیہش دەربارہی خودا بوو، (انہ) طلبی لہ حەضرہتی ئیبراہیم ئەکرد، کہ بہ دەلیلی اثباتی وجود و وحدانیہتی خودا بکا سہبہب چی بوو؟ ﴿ **أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ** ﴾ سہبہب بہ ئەوہ، کہ خودا مولکو سەلطنہتی پی دابوو، مغرور بووبوو، دەعوای خودایہتی ئەکرد،

گه رچی ئەمه ادعایه کی زۆر باطله، ئەمما نظر به چاکنه پلکنه کانی ئیمه، فه قیرو بی دسه لات به واسطه ی ئه وهی، که یهک دوو گه روو گوریان به دوا ئه که وئ، لووتیان ئه چیتته ئاسمان و ده عوای خوایه تی ئه که ن، ئه و طاغوته به (مه لهک) حسابه، که سیکی بو خوی چاوی اعتباری هه بی، له سه ر صفحاتی کائنات، ئه بیئێ چه ند هه زار ئایاتی بیئات له سه ر وجود و وحدانیه تی خودا ئه دره وشیتته وه . ئەمما تکبر و تجبر و جهه ل، چاوی بصیره تی ئینسان ناهیتلی، ئه و (مواجه) یه که ی بوو؟

﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ ئه و وه قته بوو، که هه زه ره تی ئیبراهیم فه رمووی: ﴿رَبِّیَ الَّذِی یُحِیِّ وَیُمِیْتُ﴾ مردوو زندوو ئه کا، زندوو ئه مرینئ، موادی جامده له گه ل عناصری حیه تیکه لاو ئه کا، انسانیککی زندووی لی پهیدا ئه کا، موادی حیویه له هه یکه لی زندوو ئه خاته دهره وه، ئه ی مرینئ. (سعدی) ئه لی:

(ز ابر آورد قطره سوی یم

ز صلب آورد نطفه در رحم

ز آن قطره لؤلوی لالا کند

و زین قامت سرو بالا کند)

﴿قَالَ﴾ ئه و شخصه گوتی ﴿أَنَا أَحِیٌّ وَأُمِیْتُ﴾ حقیقه، مقابه له یه کی نابه جا، ئایا ته ماشای خوی نه کردوه، چون هاتوته وجود، و آباء و اجدادی ئه و له کئ حیاتیان وه رگرتوو ه؟!

حاصلی، قسه یه کی ئه وهنده بی معنایه قورئان جوابی نادا، ئه گه ر ادعا بکا ئه و عالهمه له نباتات و حیوانات و ئینسان، من ئه یان ژیینم و، من ئه یان مرینم، ئه مه عهینی شیئی یه، له ئینسانیککی ادنی شعوریککی هه بی صدور ناکا، ئه گه ر به م روایه ته بی، که روایه ت کراوه، گویا دوو که سی له هه پس هیناوه ته دهره وه یه کیکیانی کوشتوه و یه کیانی به ره لا کردوو، گویا ئه مه (احیا و اماته) یه، حقا ئه وه زۆر حماقه ته .

له پووی ئه‌رزى، سه‌د پادشای له‌و زیاتر هه‌بووه، محبوسییکی اعدام کردووه و محبوسییکی به‌په‌ لالا کردووه، به‌لام طغیان پئی محاکمه‌ی عه‌قل ناهیلئی، لای خوئی حيله ئه‌کا، مغالطه ئه‌نوینئی، هه‌م له احیا و اماته، هه‌م له مقصدی حه‌ضره‌تی ئیبراهیم، مقصدی حه‌ضره‌تی ئیبراهیم له‌م ده‌لیله (برهانی تمانعه) ، یه‌عنی که‌سیکی ئه‌م‌پرو ده‌عوای خویه‌تی بکا، ئیجاب ئه‌کا ترتیبات و نظاماتیکی دابنئی، که ده‌لاله‌ت له الوهیه‌تی بکا، ئه‌و ترتیب و احوالاتی سابقه، دیاره ئی ئه‌و نی‌یه، به‌لام ئه‌و شه‌خصه گورری و هیئایه معارضه، یه‌عنی مادامه‌کو منیش احیا و اماته ئه‌که‌م، احیا و اماته نابیته ده‌لیل له‌سه‌ر وجودی خودا.

بوئی حه‌ضره‌تی ئیبراهیم اغمازی له حيله‌کاری ئه‌و کرد، که نه‌توانی حيله‌کاری تیدا بکا، بوئی ئه‌فه‌رموئ: ﴿قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَاِنَّكَ اللهُ يَأْتِي بِالْحَمِّسِ مِنَ الْمَشْرِقِ﴾ خودای تبارک و تعالی به‌و نظم و ترتیبی، که ئه‌یبینین پوژ ئه‌هیئتی له لای مشرقه‌وه، ئه‌وی اربابی نظر بی ئه‌زانئی، احیا و اماته گه‌ لیک له فوقی هیئانی پوژه له مشرق، که (الی یومنا هذا) هه‌رچه‌ندی حکما و ئه‌هلی دانش هه‌یه، له سرری حه‌یات ناگه‌ن. (احیا) زندوو کردن، قیاس ناکرئی له هیئانی جسمیکی گه‌وره له لاییک بو لاییک، هه‌رچی علمای هیئته بی، سه‌به‌بی حه‌ره‌که ئه‌زانئی، به‌لام ئه‌وه نظر به (دروست بینان) ظاهر زاتره، ظاهر وایه حه‌ضره‌تی ئیبراهیم، ئه‌و شه‌خصه‌ی نه‌ختیک به ئه‌هلی علم زانی بی. ﴿فَاِنَّهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ ئه‌گه‌ر راست ئه‌که‌ی، له ده‌عوای خوئ مقابله بکه و، ئه‌و نظمه تیکی بده ﴿فَبُهَّتِ الَّذِي كَفَرَتْ﴾ زاناندی ئه‌و مقابله‌یه به‌و ناکرئی، مات و مبهوت بوو، وه‌کو خودا په‌رسته‌کان نه‌یگوت: من ئه‌یکه‌م!

گه‌لیک له‌خودا په‌رسته‌کان له‌و نه‌وعه قسه شه‌رم ناکا، ئه‌لین: «فلان شه‌خص چه‌ندسال جله‌وی پوژی راکیشاوه، یه‌عنی ئه‌و پوژه‌ی هیئانوه له

مشرق بۆ مغرب»، بعضیکیان ئەلین: ئەرز ئەرزى منه .. ئاسمان ئاسمانى منه! تاویلی مه لایه کانیش بۆ ئەو نهوعه کهسانه، له قهیلله عوزر له قباحهت خراپترهیه، گهلیک له مسیحیان بى پهرده و حجاب ئەلین: (عیسی) خالقى ئەرز و ئاسمانه!

حاصلی، ئەو طاغوتی له (ملیون)هکان پهیدا بوون، له کافرهکان پهیدا نه بووه. پاش ئەم (بهته)، ئیجابی ئەکرد له ده عوای باطلی خوئی بگه رریتتهوه، له تاریکی بى بۆ پوناکی، اهتدا به حهضرهتی ئیبراهیم بکا. ئەمما حبی جاه و سلطنهت، مهیلی پئاسهت، لئ ناگه ررئ ئەو نهوعه کهسه ئیمان بهینئى ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ قهومیك پووچووین له تجاوز و تصرف به غیرى حهق، خودای تعالی هیدایه تیان نادا، ذاتاً تازه فهرمووی (لا اکراه فی الدین) ئەو نهوعه مهیله، پاسخه، به قوووته، مانعه، تا مانع نه رروا (مقتضی) تاثیر ناکا. (طاغوت) دوو قسمن، قسمیك طاغوتن بۆ خوئیان، اضلالی خهلق ئەکهن بۆ خوئیان، قسمیك طاغوتی غهیرن بۆ غهیر، خهلق (اغوا) ئەکهن، پئیان لئ ئەگورن، ماجرای ئەو شخصه له گه ل حهضرهتی ئیبراهیم بۆ ئەوانهیه، که خوئیان طاغوتی خوئیان بن.

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ﴾ مثله بۆ ئەوانهیه، که به ناوی غهیر، خهلقى اغوا ئەکهن، ئەو زاتهیه که به سه ر دئییه کی دا تئ پهرری، کئییه؟ چ دئییه که؟ به یان نه کراوه له قورئان، وه فی الحقیقه په کیشمان له سه ر به یانی نه که وتوووه، ئەمما ئەو شه خصه ئەبئ (عوزیر) بووبئ، چونکه بعضیك له طاغوته کانی بنی اسرائیل اضلالیان به ناوی ئەو ئەکرد و، ئەوهیش پوایهت کراوه له حهضرهتی علی، ابن عباس، عبدالله بن سلام «وعند جهينة الخبر اليقين» عتاده، عکرمه، ربیع ضحاک سدی، زۆر له علمایان تهفسیری ئەوه یان اختیار کردووه ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ ئەو دئییه وا ویران بووبو، که بانه کانی پووچوو بوون، که دیواری خانوه کان به سه ر داره کاندایه وتبوون و اغلب

جی، قبرستانی لیٰ نزیکہ وپئی بہ قبرستان دا ئہ پوا، ئہو ذاتہ، کہ مروری کرد بہ مقبرہی دئیہ کہہ، ظاہراً ئہ بی وکوو مقبرہی (کوئیہ) ، اغلب ئیسکوپروسکی مردوہکان بہ دہرکہوتبی، ئہوجا بہ خاطری داہات ﴿قَالَ﴾ گوتی لہ دلی خویدا و قابلہ بہ زوبانیش لہ گہلّ خوئی گوتبی ﴿أَنْتَ يَحْيَىٰ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ لہ کوئی خودای تعالیٰ زندووی ئہکاتہوہ ئہو دئیہ، یہعنی ئہہلہ کہی لہ پاش مردن.

﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ﴾ خودای تعالیٰ صہد سالیٰ مراند، یہعنی خودای تعالیٰ مراندی و صہد سالّ لہو حالّہیدا مایہوہ، و الاّ نہفس مراندن چشتیک نییہ دہوام بکا، ئہو مردنہ لای جمہور مردنیکی حقیقی بوو، بہ لام (مجددی مصری) ئہو اماتہ تفسیر ناکا بہ مردنیکی، کہ بالکیہ روح لہ بہدہن دہرچوون بی، ئہفہرموئی: ئہوہ نہوعہ بیہوشیہ، کہ حیوانی بی حس و حہرہ کہ ئہکا (داء النوم)، کہ ئیستا معروفہ مردنی (اصحاب الکہف) یش بہو نہوعہ تہفسیر ئہکا، ئہوہیش باشہ، ذاتاً معظم حیواناتی بی بہرگ وکو مار، ہہتا کیسہل لہ پوژانی ساردی سرر ئہبی لہ حس و حرکہ ئہکہوئی، خواردن و خواردنہوہی نامینئی، دہورانی خوین و دقاتی قلبی سست ئہبی، (معدہ) بہ حرکاتیکی ضعیف چہورایی بہدہن صہرف ئہکا، تا دنیا گہرم ئہبی بہ ہوش دیتہوہ، بہلام لہ گہلّ دوایی بہ تکلفاتیکی زور نہبی، ریک ناکہوئی ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُ﴾ پاش صہدسالّ جہنابی حہق زندووی کردہوہ ﴿قَالَ﴾ خودا سؤالی لی کرد ﴿كَمْ لَيْتٌ﴾ جہنابی حہق ئہیزانی، مقصودی ئہوہبوو بوی بہیان بکا ﴿قَالَ﴾ لہ جوابی کبریائی دا ﴿لَيْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ پوژی، یا بعضیک لہ پوژیک ﴿قَالَ﴾ خودا فہرمووی:

﴿بَلْ لَيْتُ مِائَةَ عَامٍ﴾ تو سہدسالّ لہو حالّہدا مای ﴿فَانظُرْ إِلَيَّ﴾

طَعَامِكُمْ وَشَرَابِكُمْ ﴿تەماشای طعام و شەرابت، کە ئازووقەیی سەفەرته، بکە
 بە بێنکردن و تامکردن﴾ **لَمْ يَتَسَنَّهٗ** ﴿تەغییری نەبوو، تامی، بۆنی نەگۆرراوە
 ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ﴾ تەماشای کەرەکەت بکە چی بەسەر هاتوو، پزێو،
 ئیسک و پروسکی نەماوە، تۆمان زندوو کردووە، اولاً بێی بە ئایەت بۆخۆت،
 چونکی خۆت ئاگات لەحالی خۆت نەبوو، وئانیاً ﴿وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً﴾
لِلنَّاسِ ﴿بۆ ئەوانەیی کە ئەتەناسن دواویی، ئەوا کەرەکەت زندوو
 ئەکەینەو﴾ **وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ** ﴿تەماشای پارچە پارچەیی ئیسکی
 کەرەکەت کە﴾ **كَيْفَ نُنشِزُهَا** ﴿چۆنی بۆ لایەک بڵند ئەکەین و تەرکیبی
 ئەدەین﴾ **ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا** ﴿دواویی گوشتی بە سەردا ئەهینین﴾ **فَلَمَّا**
تَبَيَّنَ لَهُ ﴿کە بۆی معلوم و ئاشکرا بوو، خۆی لەتاریکی شکو شوبه
 نەجاتی بوو﴾ **قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ﴿ئەزانم خودای
 تبارک و تعالی لەسەر هەموو چشتیک قودرەتی هەیە، مادامەکو لە دائرەیی
 امکاندا بێ لە قودرەتی ئەو عاصی نابێ، نەگۆررانی طعام و شراب لە مدەیی
 سەد سال (حقیقە) بە قودرەتیکی زۆر کامل نەبێ نابێ، بەلام طاغوتی اهلی
 کتاب، ئەو ئایەتەشیان گۆرری کردیانە «ابن اللہ»، کە خەلقى پێی لە
 پوناکی بێنە تاریکی. لەو ماجرایە هەیکەلی اموات لە موادی اصلیه گرد
 ئەکریتەو، پوچی دیتەو بەر.

جەنابی حەق ماجراییکی تریشمان بۆ بەیان ئەکا، کە ئەجزای بەدەنی
 مردووکان لەگەڵ یەک تیکە لاو ببن، ذاتاً ئەم اعادەیه لە نظر عەقل
 گرانترە، و، ممکنیشە بلیین ئەم وەقتە، کە حەزرەتی ابراهیم فەرموی:
 خودای من ئەژیین و ئەمرین، واری خاخری بوو، کە لە کیفیەتی
 اعادەیی سۆال لە حەزرتی کبریائی بکا، لەبەر زیادە مناسبهی ماجرای

(کالذی مر علی قریة) ی هاویشته ناو. وهه م پئییه که بو ئهلی توحید، که فکریان حر بی بو تیگه یشتن له مسائلی صعبه سؤال بکن، تا ممکنیان بی له ئه سراری عالمی (کون و فساد) بگن، ئه مه هیچ منافی اسلام و استسلام نییه، خودای تعالی، که ئه مری کرد به حه ضرهتی ابراهیم (أَسْلَمَ) دهرحال فه رمووی: (أَسْلَمْتُ) معانه ئه و نه و عه سؤاله یش له خودا ئه کا، که وابی حه ضرهتی خلیل استسلامی علی العمیای نه بووه، به لام عفاریتی طاغوتی ئه هلی کتاب، تکلیف له عبادی خودا ئه که ن، که بی (لِمَ) «بوچی» ته سلیمیان ببن و شعبه ییکیش له موسلمانان ئه م پیگه یان اختیار کردووه. جه نابی حه ق (علی وجه التذکار) ئه فه رمووی: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ ابراهیم سه لامی خودای لی بی گوتی: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ خودایه نیشانم بده چۆن مردوان زیندو ئه که یه وه؟ حه ضرهتی ابراهیم له وه مه لاتر بوو، که له سری حیات سؤال بکا، ئه وه سرریکه سه ربه مؤر بو که س که شف نه بووه و، لایشم وایه بو که شف نابی. علمای طبیعت زور خه ریکن، چی یان به چ نه کرده، مبادا که سیک توهم بکا، که ئه و سؤاله له سه ر شک و شوبه یه له قودرهتی کبریائی ﴿قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ﴾ خودا فه رمووی ئایا ئیمانته نه هیئاوه به ئه وه که، من مردوان زندو ئه که مه وه؟ ﴿قَالَ بَلَىٰ﴾ گوتی ئیمانم هه یه ﴿وَلَكِن﴾ سؤال کرد ﴿لِيُطْمِئِنَّ قَلْبِي﴾ که مشاهده بکه م، چۆن مردوان زندو ئه که یه وه.

پیش زه مانی سعادهت، جه نابی حه ق ئه و نه و عه اموره ی به کرده وه به یان ئه کرد، یا به علائم تفهیمی ئه فه رموو، که ئه وه نابی که سیک، ئه گه رچی وه کو حه ضرهتی کلیم و حه ضرهتی خلیل، بی نه شئه تی له زه مانی غلبه ی حس و خه یال دا بووبی، دهرگه ی فکر به ته واوی نه کرابیته وه و، ئه و نه و عه نه شئه ته نوعاً ما تاثیریک و ده غده غه یه ک ئه دا، لام وایه ئه مه ضروری یه

وجوداً نییہ، جئی انکار نییہ، بہ لام ئو خرتہ خرتہ، زوو له دلیان دا ئہ پوا و جاگیر نابئ. ﴿قَالَ﴾ جہ نابی حق فہرموی سؤالہ کہت بہ جئیہ ﴿فَخَذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ﴾ له ہہر نہوعہ تہیریک بی، چوار تہیر بگرہ ﴿فَضَرَّهُنَّ إِلَيْكَ﴾ ہوگری خوتیان بکہ، ئہوہیش بنا بہ اختیاری مجددی مصری، بہ موافقہی ابو مسلمی اصفہانی، یہ عنی بہ خوتیان مالوف بکہ، مہیلیان بدہری، مہیلت بدہنی ﴿ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا﴾ ہہریہ کہیان له سہر چیاہک دابئی، کانہ له بہر ئولفہت بہیہک، بوون بہیہک، بوئی یہکی تہعبیردا بہ جزؤ ﴿ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا تَيْبَتُكَ سَعِيًّا﴾ پاشان بانگیان بکہ دین بو لای تو، خیرا بہ بالہ فررہو نووکی پہنجہ له سہر ئہرز بوت دین.

تلمیذی عصریش زور قووہتی داوہتہ ئہم معنایہ، بنا لهو (قولہ) حہضرہتی ابراہیم تیگہیشت، کہ جہ نابی حق بہ ئہمری تکیونی، اعادہی اموات ئہکاتہوہ، چون له اوہلہوہ بہ ئہمری تکیونی خلقی کردوہ، ئہمما بہو و ہجہہ، کہ ئیمہ ئیشارہمان بو کرد. قولی جمہور اوقفہ، کہ حہضرہتی ابراہیم چوار تہیری ہینا سہری برین، کوتانی، ہہموو اجزایان تیگہ لآو بوو، دواپی کردی بہ چوار لہت، ہہر لہتہی له سہر چیاہک دانا، بہ امری خودا بانگی کردن، ہہر یہک له اجزای خوی گرد بوونہوہ، حہیاتیان ہاتہوہ بہر، له سہر ہووش و گووشی پیشوو بہ بالہ فررکہ ہاتنہوہ لای حہضرہتی ابراہیم، ئہمہیش دہلیلکی ئاشکرایہ له سہر کیفیہتی اعادہ، چون له اجزای ئہصلی خہلق کراون، ہہر لهو اجزایہیش اعادہ ئہکہنہوہ، با عنصری مردوہ کہیش لہ گہل عناصری چشتی تر تیگہ لآو بووی. ﴿وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾

﴿حَكِيمٌ﴾ خوداوہندی انام، غالبہ عجز بو ئہو نییہ، ئہوی له دائرہی امکان دابئی، ئہتوانی بیکا، حکیمہ .. حکمہتی ئہو وا له قضا ئہخوازی، کہ حہیاتی بشری بہ ضایع نہ پوا، کہ سیکی وہکو ابراہیمی خلیل، وہکو

موسوی کلیم، وهکو خاتم الانبیاء بمری و ببریتهوه، حاشا.. ئهوه له
حیکمهتی حکیم علی الاطلاق ناوهشیتهوه. لهو ئایهته کریمه دهرئهکهوئ، که
احیای اموات به اعادهی معدوم صرف نییه، چونکه ئهوه اعاده
نییه، خهلقیکی سهربه خوئی، لاشک جهنابی حهق، بهشهری نائلی حهیاتیکی
ابدی ئهکا، ئهمرۆ نا سبهی (وکل آت قریب).

ابو مسلم مهلایهک بووه، به فکر با وجودی ئیمانی به ئهصلی معجزه
هیه، ئه ماما زۆر که یفی له گه ل خوارق نایی، تا ممکنی بیئ ئهوی مفسرهکان
به خوارقیان تهفسیر کردووه، چ نظری چ عملی ئهوه به صورتهیکی موافق
له گه ل قواعدی عقل و طبیعت تصویریه فرمووه. ئیمهیش له لیمان وایه ئهوه
فکره، فکریکی باشه و بو ئوممهتی خاتم الانبیا زۆر نافع، بوئی مجددهکان
ئهوه (مسلكه) یان پهسند کردووه و پئی دا پۆیشتوون.. منیش ئه گهر عباره
تی قورئانی موافقه بکا قبولی معانی ابو مسلم ئهکه م.

له لای من زهمانی پئیش حهضرهتی رسالهت، له گه ل زهمانی دواي ئهوه
پهغه مبه ره عظیم الشانه، قیاس ناکرئ.. زهمانی علم و عهقل له کوئ،
زهمانی حس و خهیا ل له کوئ؟ فکری ابو مسلم بو (ما بعد النبوه)، (حقیقه)
حهقه و (واجب القبول) ه، حهزئه که م که میک له افکاری ئهوه نه وه
مصلحانه تان عه رض بکه م.

ئه ساسی اسلامیته له سه ر ئیمانی صحیح و عملی صالح دامه زرا، له
زهمانی رسالهت و ههر دوو عومه ر (عمرین)، ئهوه ئه ساسه به ته واوی
محافظه کرا و اثریشی دیترا، دواي ده رگه ی فتنه و فساد کرایه وه، فسق و
فجور زۆر بوو، شه وق و نشاطی صلاح نه ما، سه به بی چه بوو؟ ئه ربابی فکری
مشغول کرد؟ دواي بو یان معلوم بوو، ئه سبابی فسادی ئومه م، خاصه
افکاری اسرائیلی به سه ر ده ماغی موسلمانان وه ک سه یل خرۆشان طغیانی
کردووه، که نزیکه بنیانی اسلامه تی به بادا، ئهوه اسبابانه اعتماد له سه ر
خوارق، اغترار به نه سه ب پشت به ستن به شفاعت، بی اهتمامی به عه قل،

عهقل بکهن به چه که م.. بیکه نه تهرازووی تفریق له بهینی چهق و باطل چاکه و خراپه، ههتا وایان نواند، که عهقل ئهتوانی بی وهحی ئیلاهی، اکثری اموری چاکو خراپ لای خودا ده رک بکا، وهحی نبووه تیان کرده مؤیدی عهقل، (انه) وای لئهات عهقل اصله، نبووهت فهرعه. لام وایه لییره تهرازووی عهقلیان له دهست چوو، پریگای طعنی خصمیان گوشاد کرد، پاش تحکیمی عهقل (بالمرة) ده رگهی خوارق و شواز و غروری به نه سب و شفاعه تیان گرت ئه وهیش لای (آل نبی) گران هات.. مقصودی ئه وان وابوو، که موسلمانان بلا تفریق له بهینی (قریشی) و (حبشی)، بی شائبه ی اسرائیلی پرو بیکه نه خودا، بو دین و دنیا سهعی بکهن، بو تقویه ی چاکه عملی چاکیان کرده جزئی حقیقی له ئیمان، ههتا که سییک گونا هییک بکا، بی توبه بمری، لایان له زومره ی ئه هلی ئیمان حساب نییه، وه کوو کافران مخلده، ئه ویش لای سوادی اعظم له ئوممهت زور گران هات، خصمیان له ئه مه استفاده یان کرد، فه شه لیان بوو اولاً افراط په روه ره کان له نتیجه ی حاکمیه تی عهقل، نوعاً ما چه ضره تی کبریائیان کرده محکومی عهقل، عهقل ئه لی ئه مه واجبه له سهر خودا ئه بی بیکا، ئه مه ممتنعه نابی بیکا! ثانیاً مداخله ی سیاسه تی عباسیان وا مه زانن یه کییک له خلفای عباسی مذهبی، ئه مانه یان قبول کرد بی، فکری ئه و مصلحانه له گه ل مه یل و مشربی ملوکی عباسیان به ینیان، به ینی ئاسمان و ئه رزه، به لام کردیان به هانه بو ده فعی ئه و مه لایانه ی، که له علیه یان بوون، لیان ئه ترسان، گه لی مه لای گه وره گه وره یان کوشت. ئه مهیش سیاسه تیکی گه وره بوو له ته ره ف عباسیان، هه م دوشمنانی خو یان ده فع کرد، هه م سوادی اعظمیان زیاده متنفر کرد له و مذهبه .. گرۆهی مخالف بو محوی ئه و مذهبه، گه لی تفریطیان کرد، قسماً عهقلیان پامال کرد به انواعی (قدح)، عهقلیان شکاند.. له بهر چاوی ئوممهت خست. قسیمیکی تر نوعاً ما، قیمه تیکیان دا به عهقل، به لام له تشریعی احکام، له تفریقی راست و درۆ، چاکه و خراپه ی عندالله بی حوکمو

ادراکیان هیشتهوه، ده‌رگه‌ی که‌رامه‌تیا‌ن به‌نه‌وعیک‌ واسع‌ کرد، که‌ حوشتر به‌باره‌وه به‌ کونی‌ ده‌رزی‌دا‌ برروا، خو‌ی له‌م ته‌ره‌فو‌ له‌و ته‌ره‌فی‌ نه‌دا، شفاعه‌ت باسی‌ نا‌کرئ، جیران‌ بو‌ جیران، مه‌لاو‌ و شیخ‌ بو‌ تبعه‌ی خو‌یان، وه‌کو پی‌غه‌مبه‌ران شفاعه‌ت ئه‌که‌ن! انتساب‌ بو‌ حه‌ضره‌تی رساله‌ت، به‌ل‌کو، بو‌ علماء‌ اولیا‌ اکسیره، کافی‌یه! بو‌ سعاده‌تی قیامه‌ت، هه‌ر ئیمان‌ حسابه‌، له‌گه‌ل ئیمان‌ خراپه‌ بی‌ ئه‌ته‌ره، ولی‌ محفوظن‌ بنا‌ له‌ قسه‌ی «نابلسی» مه‌عنا‌ی ئه‌وه‌یه، وه‌لئ‌ هه‌زار‌ گونا‌ه‌ بکا، ده‌رره‌یی‌ک تاثیر‌ له‌ معنویاتی‌ نا‌کا، نشست‌ به‌ مقامی‌ معلای‌ نادا، نفسی‌ مقدسی‌ قدس‌ سره‌ پیس‌ نابئ. ده‌ک چاوی‌ سه‌رم‌ بی! حاصلی‌، له‌ به‌ینی‌ افراط‌ و تفریط، تضییق‌ و توسیع‌ ئوممه‌ت‌ اصلاح‌ نه‌کرا، پو‌ژ به‌ پو‌ژ شقاق‌ و نفاق، عناد‌ و فه‌ساد‌ زیاد‌ ئه‌کا، تا‌ آخری‌ له‌ عصری‌ ئی‌مه‌ بو‌مبایه‌کیان‌ ته‌قاند، که‌ به‌ جاریک‌ عناصری‌ موسلمانانی‌ پارچه‌ پارچه‌ کرد، ئه‌مه‌ش‌ چی‌یه؟ فکری‌ قومیه‌ته، که‌ له‌ ته‌ره‌ف (ولسن) په‌ئیس‌ جمهوری‌ته‌ی امریکا‌ هاویشتی‌ه‌ ناو‌ موسلمانان‌ و، فکری‌ مصلحی‌ گو‌ررا‌ بوو‌ به‌ فکری‌ طاغوتی‌، تا‌کو‌ به‌ دینیش‌ فیرقه‌کانی‌ موسلمانان‌ له‌ یه‌ک‌ جو‌دا‌ بن، هه‌وای‌ رساله‌ت‌ که‌وته‌ ده‌ماغی‌ مصلحه‌کان، قه‌ومی‌ تازه، دینی‌ تازه. بعضی‌ علما‌ له‌سه‌ر‌ فکری‌ اصلاح‌ماون، به‌لام‌ مه‌یلی‌ مه‌ذهبی‌ پابه‌ندی‌ به‌ سوننه‌ت، هه‌تا‌ له‌ اموری‌ سیاسه‌ت‌ و اداره‌و‌ حه‌رب‌ بووه‌ته‌ زنجیریان‌. نه‌ به‌فیکر‌ نه‌ به‌ عمل، شه‌قاویکی‌ فراوانیان‌ پی‌ناهاویشتری، ئه‌و‌ ئوممه‌ته، تا‌ وه‌کو‌ به‌ ئایه‌تی (تلك‌ امة‌ قد‌ خلت‌ لها‌ ما‌ کسبت‌ ولكم‌ ما‌ کسبتم‌ ولا‌ تسئلون‌ عما‌ کانوا‌ یعملون‌) دل‌ی‌ خو‌یان‌ مصلح‌ نه‌ده‌ن، پئ‌ به‌ قانونی‌ صلاحی‌ ئوممه‌ت‌ نابهن، لی‌ره‌ له‌به‌ر‌ دریی‌ژی‌ی، به‌ ئه‌وه‌نده‌ اکتفامان‌ کرد، ان‌شاء‌الله‌ له‌ موقعی‌ مناسب، منیش‌ فکری‌ خو‌متان‌ عه‌رض‌ ئه‌که‌م.

له‌ پی‌ش‌ آیه‌‌ الکرسی‌ ئه‌مری‌ کرد‌ به‌ انفاق‌ و تفصیله‌که‌ی‌ ذکرکرا، هه‌مووی‌ به‌ مناسبه‌تی‌ شفاعه‌ت‌ بوو، لی‌ره‌ مثلیک‌ ذکر‌ ئه‌کا‌ بو‌ زیاده‌ ترغیب‌ و تشویق،

لهسہر انفاق له ریگہی، خودا (خالصاً مخلصاً لوجه الله الکریم) ﴿مَثَلُ الَّذِينَ
 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ئهوی بذلی روح، یا جگہر گۆشہ بکا، ئهوه
 هہر تمثیل ناگرئ ﴿کَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾ که مادهی حیاتی تیدا هہبئ، بچہ ندرئ له
 ئہرضیکی خاوین و بہ قووت شین بووبئ، بنجی کردبئ، (پیکہ برہ) ی
 لئ نہ دا بئ و (کورکی) نہ بئ ﴿أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ﴾ حہوت گول دہربکا، له
 ہہر گولہی گولئیک ﴿فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ﴾ له ہہر گولئیک سہد دانہی
 تیدابئ، کہ ئہکا یہک بہ حہوت سہد، له ولاتی بہ بہرہ کہت له سالی ہاتی
 زور، وا ئہبئ دانہییک بنجیکی گہورہ ئہکا، دہ پازدہ گول، دہرئہکا، غیری
 سنبلہ و چہیشی لئ پہیدا ئہبئ، له یہک و ہہزاریش تی ئہ پہرئینی ﴿وَاللَّهُ
 يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ بہو قہدہرہ و زیاد لهو قہدہرہ، له فنی زراعہت معلوم
 بووہ، تا (تو) ساغ و بئ عیللہت بئ، طبیعہتی ئہرزہ کہ له گہل طبیعہتی
 دانہ کہ موافق بئ، ئہرزہ کہ زیل بکرئ، چاک بکئدرئ، توو بدرئ، نہ پرر، نہ
 شاش، بئ دہخیلہ و ئافات، بئ بارانی له و ہقت بئ، له و ہقتی زاد گرتن، بای
 بہ شدہت و بارانی بہ قووتی نہ بئ، ہہوای سان بئ (الی ماشاء اللہ)
 بہرہ کہتی ئہبئ، ہہرہہا ئہوی مالئیکی چاک بہ مہلئیکی خوش بہ
 اخلاصئیکی تہاوا، بداتہ ئہہلی استحقاق، جہنابی حہق جہزا خیرئ زیاتر
 ئہکا ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ کہرہمی قودرہتی، پرحمہتی فراوانہ، احاطہی
 بہ ہہموو چشت داوہ، عیلمی ئہو ذاتیہ ہہموو چشت ئہزانی، نہ تہنہا
 علمی تجلی و انکشاف، علمی عملیش، کہ مبدئئ خہلق و ئیجادہ، ذاتاً
 مقصد له علمی صانع علمی عملیہ، نافہرموی (کمثل ذی حبہ)، یا (مثل
 ما ینفقون کمثل حبہ) اشارہ بو ئہوہ، کہ ئہوانہ نہفسی خوئیان مہبدہئی
 خیرات و حسناتن (کانہ) نہفسی (حبہ) کہن و بہ (انفاق فی سبیل اللہ)
 خوئیان نوما ئہکہن، له مدارجی ترقی ئہکہن. نوما و ترقی یان، له کیفیاتی

نفسیہ، تمثیلیان بو ئەکا به نماو زیادہیی (فیالکم). انسان له انفاقدا سی قسمه:

قسمیک جود و احسان ئەکا بی ئەمەل بەکەس، وائەبی ئەوی احسانی لەگەڵ کردووہ، ئەبی بە دوشمن گەلیک خراپەیی ئەکا، قطعیا بە چاوی داناداتوہ و لەلای کەس باسی ناکا، بەراستی لە ایامی ئیمە (حماغای غفوری زادە) لەو گرۆهە بوو، هەزار لیرەیی بدابوایە کەسیک، کەس لێی نائەبیست بەھیچ وەجە، باسی نائەکرد. ئەوانە ﴿الَّذِينَ﴾ ئەوانەن، کە ﴿يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هیچ مەیلیکی تریان لە دل دا نییە ﴿ثُمَّ﴾ لە پاش بەخشیش لەرێی خوا بو خوا ﴿لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا﴾ بەدوای بەخشینەکیان نانین ﴿مَنْ﴾ منەت ﴿وَلَا أَدَى﴾ لە فوقی منەت بەرەوژوو، ئەگەرچی ئەو کەسە بەدەنمەکی و نانکۆریش بکا. ئەوانە ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ اجری خویان، حەقی خویان لای خودای خویانە ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ چونکی ئەزانن خودا صادق الوعدە، واسع الکرمە. ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ قەسەییکی خۆش و چاک بە تواضع ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ و داپۆشینی عەیبی خۆی، یا عەیبی کەسیک کە غەیبی بزانی ﴿خَيْرٌ﴾ لای خودا چاکترە لە ﴿مَنْ صَدَقَةٌ يَتَّبِعُهَا أَدَى﴾ لە صدقەییەک، کە (ادی) لە دوواوە بی، ئەگەرچی پاشان ئەو نەوعە کەسە، دیارە نەفسی پاک نەبوو، وە الّا چاکەیی خۆی لە فکر ئەکرد، چ جایی ئەوہی اذای بەدوادا نیی، با اجریشی هەبی، ئەمما حورمەتی خاصی لای خودا نییە ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ خودای تعالی دەولەمەندە، حاجەتی بە کەس نییە، حلیمە ئیوہش اقتدا بەو بکەن، حلیم بن.. قیسکە تەنگی مەنوینن، با ئەوہی چاکەتان لەگەڵ، کردووہ، سوئی ادبیشتان لەگەڵ بکا، جنیوی پی مەدەن، لئامەتی بە دەر

مهخه ن.. ئەمانه قسمی دووه من له ثانی انفاق (من و اذی) ناکه ن، به لام به دوا ی ئەنیرن .

قسمی سییه م: له ثانی انفاق قسه ی ناخۆش ئەکه ن، منته له سه ر شانی عالم دائه نی ن، ئەلین: من نه بم خه لقی له برسان ئەمری. چه ند جارم انعام له گه ل کردن، ورگ درراینه، ئەوه چی یه هه ر تیر نابن!! جه نابی حه ق بالکلیه نه هی موسلمانان ئەکا، که به و نه وه خیری خۆیان نه به ن، خۆیان داخلی ئەو گرۆه ه نه که ن.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ چاکه و حسناتی خۆتان به تال مه که ن به منته دانان و جنیوو قسه ی ناشیرین له وه قتی انفاق دا، دیاره ئەو نه وه انفاقه له پاکی نفسه وه نییه، مقصد خۆ هه لکیشانه، دل شکاندنی فقیرانه .. شه رری له خیری زیاتره، ئەو قسمه یش دوو به شن: یه کیک سه رف ئەکا بۆ فخر و مباحات، یه کیک سه رف ئەکا بۆ پوو و پیا، (ریاء) صدقه ناهیلێ، له ره گو ریشه وه هه لی ئەکه نی، بۆیی بووه ته (مشبه به) بۆ ئەوانه ی، که صدقه ی خۆیان بطلال ئەکه نه وه، به منته و اذی.

﴿كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ﴾ ریا علامه ته له سه ر ئیمان نه بوون به خوا و به پۆژی جزا، وه الا بۆ پیاکاری له به ر خه لق ئەکا؟ فی سبیل الله بۆ نه جاتی قیامه ت سه رفی ناکا؟ بۆیی ئەفه رموی: ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ﴾ مثالی ئەو نه وه منفقه منافقه پیاکارانه، له بی فائده یی و خه ساره تمه ندی ﴿كَمَثَلِ صَفْوَانَ﴾ وه کو حالی به ردیکی گه وره ی ره ق، چی لی شین نه بی ﴿عَلَيْهِ تَرَابٌ﴾ که می خۆلی له سه ر بی، قابل بی ئەگه ر نه رمه بارانیکی لی بدا، چشتیکی لی شین بیی ﴿فَأَصَابَهُ وَاِبِلٌ﴾ بارانیکی پێژنه ی لی بدا له به رده که، یان له خۆله که ﴿فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ به رده کی ی ره ق و ته ق

جیہیشتبی، ئەمانە وەکوو بەردە پەقەکە ئەمیینەوہ و، مألەکہیان وەکوو
 خۆلەکہ ئەرروا ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ ثمرەئى انفاقیان
 چەنگ ناکەوئى، ناتەن بۆ خویان نەکردووہ، کہ خوا جەزایان بداتەوہ و،
 ئەوی پیاپیشی لەگەڵ ئەکا چ پاداشی ناداتئى، چونکی ئەزانئى ئەمە
 پیاکارییە، لئامەتە، هەتا ئەگەر فقیریش ببئى، کەس بە پارچە نانئیک بە
 سەری ناکاتەوہ ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (۶۴) خودا ھیدایەتیان نادا بۆ
 چشتئیک، کہ نفعیان بداتئى، ظاهر وایە لەم کفرە کفرانى نەعمەت مقصود ببئى،
 یەعنە ئەوی ببئى ئەمەگی بکا لەگەڵ خودا، نەعمەتی خودا لەرپئى غیرى
 خودا صەرف بکا، خودا ئەوہ ناکا خیر لە صرفیاتی خۆی ببینئى ﴿وَمَثَلُ
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ ھەر نەوعە مالئیک ببئى ﴿أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾
 مقصودی محضاً استحصالی پەزای خوایی ﴿وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ثبت و
 قرار پێدان لە نەفسی خۆیان، بۆ تحصیلی پەزنامەندی خودا، (أَنَّهُ) بیکەنە
 مەیلیکی راسخ وەکوو مەیلی فطری، کہ مطالبیان لە ھەر کاریک ھەبئى،
 خۆشنوودی خودایە ﴿كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ﴾ وەکوو باغئیکە لە جئیەکی بەرز و
 بلند و ھەوا گیر ببئى، یا جئیەکی نەرمان و گۆرر ﴿أَصَابَهَا وَاِبِلٌ﴾ بارانئیکی
 پێژنەئى لئىدابئى، ئەمما نە پێژنەئیک، کہ تخریبات بکا، بەلکوو پێژنەئیک
 تاوہ بارانئیکی خۆش، کہ ئاوی بە تەواوی بە ئەرزەکەدا بجیتە خوارەوہ و،
 پەگی دارەکان تەرر و تیراو بکا ﴿فَعَانَتْ أَكْطَلَهَا﴾ میوہجاتی خۆی ببەخشئى
 بۆ ھەر کەسئیک، ھەتا حیوانات و طیور ﴿ضِعْفَيْنِ﴾ چین لە پاش چین
 (وەکوو میوی مەلا احمد اغای سمایل اغا، کہ ھەشت نۆ دە بەر ئەدا)
 تیکرراو بە تەرتیب ﴿فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَاِبِلٌ فَطَلٌ﴾ ئەگەر بارانی بە تاوی
 لئىنەدابئى، بارانئیکی نەرمە نەرمە، وەردە وەردە، سەبرە وەکوو (خوناو)، ئەو

نەوعە بارانە، ئەگەر دەوام بکا چاکترە لە پڕژنە، چونکە ئەو داروبارە، بەو نەوعە بارانە، میوهییکی زۆر زۆر چاک ئەدا ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (۳۶۵) خودای تعالی ناگای لە هەموو ئیشوکاری ئیوه هەیه سرر و علن، چاکە و خراپە، خالص و بە غەش.

ئەو گۆی دێرەکان، ئیوه انسانن، سلطانی دەولەتی حەیاتن، ئەو دەولەتە لە نباتان و اشجار و حیوانات پیکهاتوو، ئیوه علاووی نەفسی انسانی، نەفسی نباتی و شجری و نەفسی حیوانیتان هەیه، هەر یەک لە هەیکەلی ئیوه موجودە، ئەثری دیارە، تەماشای انسانیتەتی خۆتان ئەکەن، غەیری خودا، کەس لە فوقی ئیوه نییە، کە بی پەرستن، لە پڕی ئەو، مائی خۆتان ببەخشن، حەیاتی خۆتان صەرف بکەن، ئەگەر تەماشای نەفسی حیوانی ئەکەن، تەماشای حیوانات بکەن، هەتا حیواناتی دررنده لە حەق کەسیکی بە خێوی بکا، زۆر بە مهیل و ئولفەتە، هەر وهقتی بانگی بکا، بەدوا قسە ی دادی بە غاردان بۆلای ئەچیی، خودایەکی، کەرب العالمینە ئیوهی بەو نەوعە تربییه داوه، چۆن بە ئەمرو ارادهو بە فەرمايشاتی حەرکە ناکەن، ئەگەر تەماشای نەفسی نباتی و شجریتان ئەکەن، چ نەبی تەماشای دانەیی بکەن، کە ئەم هەموو دانەیه ئەداتو ئەبیته باعث و سەبەبی ژیانی حیوانات، و تەماشای دارو درخت بکەن، چ میوهیەک ئەدات! چەند خۆشه! چەند بە لەزەتە! ئیوهیش بەو نەوعە، بە خێرو بەر بن بۆ عبادی خودا، لەبەر خودا. جمال الدینی افغانی ئەفەرموی: «ئینسان داریکی متحرکه، دار ئینسانیکی ساکنه، حەق وایه ئینسان وهکوو داریک بی، بە بەر و بە سیبەر، کە خەلق لە سایه ی ئەوهوه، نفع ببینی و استراحت بکا».

﴿أَبُو أَحَدِكُمْ﴾ ئایا کەس لە ئیوه پئی خۆشه ﴿أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ باغیکی هەبی ﴿مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ لە دارخورماو میو. ئەساسی ئەو باغە، کە لەو دوو دارەبی، کە انفعی داری دونیان، هەردووکیان انواعیان زۆرە،

ہم بہ لہ زہتن، ہم ئہ بن بہ قووت ... لامواہ قہسپیش وھکوو تریٰ ھموو
 ذی روح ئہ یخوا.. ئیمہ خاوهن پھزین، ئہ بینین ھموو حیواناتیکی، کہ لہ
 ولاتی ئیمہ دا ھیہ لہ بہ راز، تا کیسل، ھموو حشرات تریٰ ئہ خوا، الا
 پشیلہ نہ بی، قہت نہم دیوہ تریٰ بخوا، ئہ و باغہیش ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ﴾ جوگہ و جوہاری بہ ژیر دارہکان دا ئہ روا، ھم زستان استفادہ لہ
 باران پیژنہ و نہرمہ نہرمہ ئہ کا، ھم ھاوین بہ و ئاوانہ ئا و ئہ درین، کہ و ابی
 قہت تینوو نابن، ﴿لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ بو ئہ و ھہ بی لہ باغہ کہ دا لہ
 انواعی میوہ، سیو، ھرمی، ھنجیر، خوٰخ، قہیسی، ئالوہالوو، ھہ لوژہ،
 ھہ نار، لیمو، پرتقال، ھہ تا گیوژ و سورہلہ تی ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ پیری تاثیر
 تی کرد بی، قووتی کہ سب و پھنجہری نہ مابی ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا﴾ فہرخولہ تی
 بی ھیز و تاقہ تی ھہ بی، ئیش و کاریان پی نہ کری، ئہ و کہ سہیش بہ خیری
 میوہ جاتی ئہ و باغہ، بو زہ خیرہ و خواردنی خوٰی و اولادی، چی تری نہ بی،
 ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ﴾ گہردہ لوولہ بیکی لی دا، کہ ئہ و گہردہ لوولہ، کہ ﴿فِيهِ نَارٌ﴾
 کہ موادی سمہیہ ﴿فَأَحْتَرَقَتْ﴾ دہر عقب ساعت بسووتی، ئہ و ہ بو بلادی
 گہرم، وہ لہ ولاتہ ساردہکان، وا ئہ بی پایزیکی زوو ساردی یہ کی بہ
 شیددہت ئہ بی و، وھیشومہ بیکی لہ دار و درخت و سہبزه ئہ دات،
 ئہ یان سووتینن، بعضی میوہی وھکوو: ھہ نار ناوی وھکوو پھ لاسی پھشی
 لی دئی، یا لہ دہرہ بہ ھار وھقتی ئا و تی گہرران، وھیشومہی لی ئہ دا پھق ھہ
 لئہ گہرری، بہ جاریک دارہ کہ وشک ئہ بی. لہ ولاتہ ساردہکان قابلہ ھہردوو
 نہوع بیی، حاشا کہ س ئہ وھی پی خوٰش نی یہ، کہ و ابی ئیوہش بہ بای
 سمومی (من) و ئہ ذای بہ وھیشومہی ریا، باغی خیرات و حسناتی خوٰتان
 مہ سووتینن!! ﴿كَذَلِكَ﴾ بہ و تہرزہ، کہ تہرزہ ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾
 معنویاتتان بو بہ صورہتی حسیات ئہ نوینن، ھہ تا ئیوہ بیھیننہ بہر حسی

خۆتان، زهریف تهماشای بکهن ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿۳۱۱﴾ بۆ خاطرێ ئیوه تی بفرکن، وسعهتیکی ذهنتان پهیدا بیی، له هه موو کاریک تامل و تدبیر بکهن، تا به تهواوی له احوالی نهفسی حسی دنیهوی و اخروی، صلاح و فساد بگهن و، مصلح و مفسد باش فەرق و تمییز بکهن، اتفاقیکی، که له لای خودا مقبول بی، اولاً بۆ خودای بی، ثانیاً له پاکی نهفسهوه، ثالثاً له مالیکی چاک و پاک بی، تا ئیستا دوو شهرط بهیان کرا ئه مه شهرتی سییه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ انفاق له مالیکی چاکو پاک، که به که سبو تجارت پهیداتان کردبی ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ له ومالهی، که بۆمان هیناوته دهرهوه له ئه رزی، واقعا ئه ویش به خۆرایی به چهنگ ناکه وی، سه عی پی ئه وی کشت و کیل و مصره فی جووت و جووتیار، بررین به پیمه رره، پاس له دز و به راز. ئه م ما نهفسی ماله که صهرف به خهلقی خودایه، احتیاجی نییه به (شدی رحال) بۆ ئه م شار و ئه و شار.. که شما کهش و چه ندو چوونی معامله ..

﴿وَلَا تيمَّمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ قصدی مالیکی پیس نه کهن، که له ئه و انفاق بکهن ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ﴾ ئه و نه وعه ماله ئیوه وه رناگرن. ﴿إِلَّا أَنْ تَعْمَضُوا فِيهِ﴾ الا مه گه ر چاوتانی لی بیوشن، ته ماشای چی نه کهن له بهر احتیاجی، که وایی له و نه وعه ماله صهرف مه کهن، له نه وعیک صهرف بکهن، که ئه گه ر که سیک بتان داتی پی که یف خۆش ببن. ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَكِيمٌ﴾ ﴿۳۱۷﴾ ئیوه ویش خۆتان بکه نه مظهری صفاتی کبریائی، به به خشینى مالی چاک، که سبی استحقاقی هه مد بکهن، لای خودا و لای عبادی خودا. ﴿الشَّيْطَانُ﴾ ئه ویش که له جمله ی طاغوتانه ﴿يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ﴾ به وه سوه سه ئه لی مال ادخار بکهن لازمتان ئه بی، بیهوده مالی خۆتان بۆچی ئه دهنه ئه م

و ئەو، ئەو میوژە چاکە بۆ ضایع ئەکەن؟ ئەو خورما شیرین و نازدارە چۆن ئەدەنە ئەم جرروجاموشتانە؟ سبەه ی ئیوه محتاج بوون، کێ پسپارتان لێ ئەکا؟ ئەمە بۆ جەهەتی چاکە، ئەمما بۆ لای سفاھەت ترغیبیتان ئەدا، ئەلێ: ناو و ناویانگ پەیدا بکەن، پارە ی زۆر بدەنە چاوەشان، مەدحتان ئەکەن، گوێ مەدەنە عائلە، خوا پزاقیانە، با خۆیان کە سببکەن! چەند کەس چی یان بۆ مندالیان بە جێنەهیشت! اولادەکانیان زۆر دەولەمەند بوون، گەلێک کەس میراتی زۆریان تەرک کرد، مندالەکانیان لە برسان مردن، حاصلی ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ ئەوی خراپ بێ، ئەمرتان پێ ئەدا، بە تزییناتیکی شاعرانە، شتی چاکە تصویر ئەکا بە خراپ، چشتی خراپ تلبیس ئەکا بە سورەتی چاکە و، علی الاکثریش ئینسان بە تسویلات و تلبیساتی هە لئەخەلەتێ.

﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾ جەنابی حەق، چاکە و خراپەتان لە سەر سورەتی حقیقی بۆ اظهار ئەکا، وەعدەتان لە گەل ئەدا. بەلێ خۆش بوون لە گونا بە زیدەیی لە دنیا و قیامەت، جەنابی حەق پێ نادا فلسیک بێ هوودە صەرف بکەن. مالی دنیا زۆر محترەمە لای خودا، هیچشت نیە پاداشی مالی دنیا بێ، الا حەياتی شخصی، حەياتی ئوممەتی، حەياتی ابدی مسعودانە، کەسیک مال لە پێی حەيات صەرف بکا، حەياتی زیادئەبێ و عالەمیک لە سایە ی ئەو ئەزێی. کەسیک ئیمانی بە وەعدە ی خودا هەبێ، ئەو وەندە ی کافیە حاجەت ناکا بە توول و تفصیل و، ئەلبەتە بە تسویلاتی طاغوتان هەل ناخەلەتێ.

﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ فەضل و کەرەمی احاطە ی هەموو چشتی داوہ، هیچ چشت لە ئەو بزر نابێ، ئیوہیش بە احسان و عیلم، تابعی خودای خۆتان بن لە سיעەتی عیلم و کەرەمی ئەوہ.

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ ئەوی حەزبکا خودای تعالی، کە مالی قووە ی

نظر و عملی پی کہ رہم ئەکا، چاکه و خراپه له یهک تفریق ئەکا، به مشاغبات و مغالطات و خیالاتی شاعرانه هەل ناخه لہتئ، به حجت و بورهان حقائق که شف ئەکا، چشتی به جئ ئەکا.. (حقیقە) ئەو حکیمه ته، به تهواوی له قورئان به چهنگ ئەکهوئ... حقیقه تی چشت به دەر ئەخا، انکاری حقی تیدانییه، نابینن له باسی (خمر ومیسر) انکاری منافعیانی نه کرد و، له (ربا) له مهودوا باسی لئ ئەکرئ، انکاری فائدهی نافه رموئ.. ئەو حکمهت و عداله ته بحق له مزایای قورئانه.

﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ وەک له حدیث ئەفه رموئ:
 «حکمهت چشتیکی بزر بووه بۆ مؤمن، له هەر جئ یهک بی بینیته وه ئەیگریته وه» به لئ، ئەوی (توشنه له بی) حکمهت و عرفان بی، ئەگەر حکمهت له گاوانیک وه بریگری، پی عار نییه.. (له سه ره تای تحصیلم باو کم فه رمووی: رۆله وه صیهت بی تحقیری نووسراو مه که، هەرچی ده ستت که وت موتالای بکه، خالی نابئ له فائده)، فی الحقیقه فه رمووده ی باو کم زۆر نفعی بۆ من بوو، از جمله رۆژیک ده رسی (تحفه) م ئەگوت له باسی (قصاص)، تووشی مه سئه له یهک بووم: که سیک زه هریکی که م له پئی ده م بداته که سیک و بمرئ، قصاصی له سه ر نییه.. ئەمما ئەگەر له اعضای خارجی، به ده رزی یهک زه هری که م باوئته ناو به دهنی که سیک و بمرئ، قصاصی له سه ره.. من جهه تی فه رقم بۆ معلوم نه بوو، تا کو پاش به ینییک ته ماشای جریده ی (ثروت فنون) م ئەکرد، مباحه ته ییکی له به ینی دوو جراح ذکر ئەکرد، یه کیک ئەیگوت: له زه ردینه ی هیلکه زه هر هیه، بۆیه گه لی جار برینییک، که مه ره می هیلکه ی له سه ر دابندرئ، ته شه نا ئەبئ کیمی لئ په یدا ئەکا.. ئەوی تر ئەیگوت: ئەگەر وابئ ئەبوا یه ئەهلی (پارس) هه موو بمرن؛ چونکی بی هه د و حیساب سالی هیلکه ئەخۆن، مع انه هیچ قدید ناکهن. دختوری یه که م جوابی دا، گوتی: زه هر له هیلکه که مه، به خواردن حه راره تی معده و جگەر، قوو هی هاضمه مه نع ی تاثیر ی ئەکه ن، به لام له

خارجہ وہ قووتیکی وانیہ، کہ مدافعی ئو زہرہ کہمہ بکا، بوی تاثیر ئیکا، ئوجا لہ و ماجرایہ حکمہتی مہسنہلہکھی شہرعیم لی معلومبوو و، زور مسرور بووم، کہ وای تحقیری حکمہتی ئہرستو و ئہفلاتون بو موسلمانان نہاتووہ . تہ ماشا بکن ئہوی چاکہ قبولی بکن، ئہوی خراپہ رہدی بکن، تنفیری عباد لہ حکمہتی حکمای ئیلاھیون، بی شک لای خودا و پیغہمبہر خوشنییہ ..

﴿وَمَا يَدْعُرُ إِلَّا أَوْلُو الْأَلْبَابِ﴾ (۳۶۹) تذکرو تفکر ناکا لہ چشت، پھند پھزیر نابی لہ نصیحت، الا ئہوانہی کہ صاحب کاکلن، بہ ناو و ناوکن، ئہوی دلئہ ہی و تئی بگا، لہ ہموو چشت عیبرہتی و ہرئہگری. ئہلین، لہ ایامی (خسرو)، ماسیگریک ہبوو، پوژیک ئہچوو بو ماسی گرتن، گوئی لیبوو ئہہلی عیلم قسہیان لہ (خنثی مشکل) ئہکرد، کابرا بہ دوی کاری خویدا پوی، اتفاقاً ماسیہکی زور جوانی گرت، ہاویشتیہ ناو تہشتی پر ناو و بردی بو خزمہت (خسروی پرویز)، خسرو زوری پہ سندکرد، گوئی: (زہ) قاعدہی وابوو دہربارہی شخصیکی ئہم کلمہی بگوتایہ چوار ہزار دہرہمیان ئہدای، پاوکہرہکہ پارہکھی و ہرگرت، حہرہمی خسرو گوئی: ئہمہ اسرافہ مقابلی ماسیہک چوار ہزار دہرہم چوئ ئہدری، گوئی چی بکہم؟

عہرضی کرد: بی گپہوہ و پئی بلئ ئہگہر نیرہ، مییہی بہینہ، ئہگہر مییہ نیرہی پھیدا بکہوہ، الا نامہوی! شہخصہکھیان گپہرایہوہ . پاوکہر لہ جوابدا عہرضی کرد: ئہو ماسیہ (خنثی)یہ، نہنیرہ، نہمییہ، (خسرو) جوابہکھی پئخوشبوو، گوئی: (زہ) چوار ہزار دہرہمی تریشی و ہرگرت و پوی، دہرہمیکی لی کہوت، ہہ لی گرتہوہ ماچی کرد، نایہ سہرسہری، پاشان خستہ گیرفانی، دیسان حہرہمی (خسرو) فہرمووی، بنواررہ ئہو صیادہ چہند لئیم و نامہردہ، لہ ہشت ہزار دہرہم دہرہمیکی لی کہوت ہہلی گرتہوہ و ماچی کرد و نایہ سہر سہر و، ئہوجا لہ گیرفانی نا، چاک

وايه بي گيريه وه و پاره كه ی لی بستینه وه . گيرايانه وه . (خسرو) فہرمووی: بۆ ئو لئامهتہت کرد، با ئو درهه مه فقيریک هه لی بگرتابوايه وه! صياد گوتی: قوربان ئه مه م له لئامهت نه بوو، چونکی درهه مه كه صوره تی شای تیدا بوو، نه متوانی صوره تی شاه ببينم به زه لیلی بکه ویتته سه رخۆل و ژیر پای آينده و په وه نده، بۆی به کمالی حورمهت هه لم گرته وه، ئه م جار هيش (خسرو) فہرمووی: (زه) چوار هه زار درهه می تریشان دای، گوتی: ئه و جابړو به سیه! . نووسی: «که سیک به قسه ی ژنی بکا، له جیاتی چوار هه زار درهه م، دوازه هه زار درهه م ئه دا» .

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ﴾ که م یا زۆر، سرر، یا علن له ریی خودا، یا بۆ سمعه و ریا به هه وه سی خۆتان ﴿ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ ﴾ یا له سه ر خۆتان لازم بگيررن، چ مال، چ عبادت ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ خودا ئه یزانی به هه ر وه جهی بی، یا هه ر کامیان بی و مجازات و مکافات مقررہ ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ (۲۷۰) ئه وانى شتى بی جی ئه که ن، که س نی به یا وه ری بیان بدات، نه به پاررانه وه، نه به مدافعه ﴿ إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ ئه گه ر ئیوه خیرات به ئاشکرایى بکه ن، شتیکی چاکه ﴿ وَإِنْ تَخَفُوها وَتَوْتُوها أَلْفُ قَرَاءٍ ﴾ ئه گه ر به دزی خیرات بکه ن و بیده نه فقیران ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ئه وه چاکتره له خیری به ئاشکرایى، ئه م ما بعضیک ئه فہرموون: ئه وه خیری که بۆ خۆتان ئه یکه ن، منیش له لام وایه له گه لیک جی، خیری به ئاشکرا چاکتره و، ئه و معنای که له (نعماهی) دیته ذهن، انسان وه قفی زیاتره له معنای (خیر لکم) .

﴿ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ ئه و نه وعه خیره ئه بیته کفارہ تی بعضیک له سیئاتی ئیوه، انه ئه و اخفایه بعضیک له گوناھی ئیوه عه فوو

ئهكا ئهوهيش له علمی بلاغت پئی ئه لئین: (مجازی عقلی)، ئه گهر ضمیری غائب بۆ خودا بی، حقیقه ته و مجازی تئیدانی یه .

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (۳۳۱) احتیاج ناکا کهس خه بهری بداتی . اظهار و اخفای صدقات لای خودا یه که .

وقتا که شهرح و ایضاحی حالی منفی مخلص و منافق، گه یشته ئه م دهرجه، دئته دلّی هه ضرهتی رسالهت په ناه، لا شک ئه وانه اهتدا به و ئایاته بیناته ئه کهن، (من بعد) مالی خویان به پیا صهرف ناکه ن، صدقاتی خویان به (من وادی) ابطال ناکه ن. ئه و ظالمانه ی بی أنصار انتباهیان ئه بی بۆ ده فعی ئه و خاطره ئه فه رموی: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ ئه ی په سولی هادی! هادی ته ئه وانه له سه ر تۆ نی یه، وه ظیفه ی په سول و تبلیغ و پی گه یاننده .

﴿وَلَا يَكُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ اخلاص و غش له اموری نفسیه یه تحویلی دلّ، تزکیه ی نفس عاندی جه نابی باری یه، ئه وی بزانی قابلیه تیکی هه یه، به جاریک له سیئاتی معنوی دلّی پاسخ نه بووه، هیدایه تیان ئه دا، پاکیان ئه کاته وه، ئه وی دلّ په ق بی، خباثه تی نه فسی گه یشتبیتته دهرجه ی مه له که، ئه مه قابلی هیدایه ت نی یه، قاعده ییکی مقرره، فه یض به گویره ی استعداده، پاش ده فعی ئه م خه یالّه، دیسان توجهی خطاب ئه کاته وه ئه هلی ئیمان، ئه فه رموی: ﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ﴾ بۆ خوتانه، که سییک هوشی هه بی کاریکی بۆ خوی بکا، ئه لبه ته زۆر چاکی ئه کا، وه ک له (مثلی) کوردی دا ئه لئ: (دۆم بی و کلاش بۆخوی بکا).

﴿وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ حالی مؤمن وایه، خیری بکا بۆ خوایه، ئه وی بۆ خوی بکا، بۆ خوی ته، ئه وی بۆ غهیری بکا، خیری لی نابینی .

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ﴾ جزای خیر بہ نئیوہ نھاگا بہ تہواوی
 ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ﴾ ﴿۴۷۲﴾ نئیوہ ظلمتان لی ناکری، بہ نقصی جزا نھو نفقہی
 نھیکن. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بؤ نھو فقیرانہی،
 کہ حہس کراون لہ پئی خودا، وھک اصحابی (صُفَّة) دہرکراہون لہ ولاتی
 خوئیان، ہیچیان نہبوو، لہسہر نھو حالہیش خہریکی حفظی قورئان و
 احادیثی پیغہمبہر بوون وھک نھوانہی، کہ لہ پیگای خودا بریندار کراہون،
 لہ عمل کہوتبوون ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ نہیان نھتوانی
 بہسہر نھرزدا برؤن، بؤ بہ دہست ہینانی قووت. قہومیک نھو نہوعہ
 فقیرانہی ہہبی، چؤن خودا نھمریان نھکاتی، مال صہرف بکہن لہ فقیران
 نھگہرچی کافریش بن؟! بہلی، محاسنی اسلامیہ وا ایجاب نھکا، اما بعد
 الغلبہ پاش چارہسازی، نھو نہوعہ بی نہوایانہ، نازانم نھوانی پیشوو، چؤن
 نھو معنایہیان لہ (لیس علیک ہدیہم) داوہتہوہ.
 عبارہتی نھو نایہتہلہگہل سببی نزولی، کہ نھیلین ہیچ مناسبہی نیہ.
 ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾ نھوی نہیان ناسی و فہراسہتیشی نہبی، وایان
 حساب نھکا، کہ ﴿أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ بہ دہولہمہندیان تی نھگا لہ بہر
 عفہت نواندن و اعراض لہ چشتنان.
 ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ نھوی سہرنج بدا، لہ علامات و نیشانہی چشت بہ
 نیشانہ نھیان ناسی. تۆ نھی صاحب فہراسہت! نھزانی نھوانہ فقیرن ﴿لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْكَافًا﴾ سؤال ناکن لہ کہس بہ الحاح و اصرار، بہ
 چہقہ سووہتی وھک (پاوہیی)یان، نھمما نھو قہیدہ مفہومی مخالفہ نیہ،
 یہعنی سؤالی بی الحاح نھکن؛ چونکہ نھو قہیدہ لہبہر موافقہتی حالی
 سائلانہ، چونکہ علی الاکثر بہ الحاحن.

﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ بۆئەوانەیا علی الاطلاق ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (۲۷۳) خودای تعالی بە تەواوی عیلمی پێ هەیه، ئەیزانی ئەوانەیی لە (انفاق فی سبیل الله) احتیاط ئەکەن، لە ترسی سمعه و پیا بزری ئەکەن، نوعاً ما دەغدەغەیهک و خرت و پرتیکیان لە دڵدا هەیه، نەفسیان بۆ انفاق بە تەواوی صاف نەبووه، ئەمما ئەوانەیی ثباتی نفسیان بووبی، لەسەر طلبی پەزای خودا ئەو خیالاتەنەیان بە دڵدا نایە، ئەوانە بەراستی انفاقیان لای خودا مقبولە ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ ئەوانی مائی خۆیان صەرف ئەکەن، شەوو پۆژ سرر و عەلەن، یەعنی دزی و ئاشکرا، بێ فیکرو ئەندێشەیی سمعه و پیا، هەر بە دلیان دانایی ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ بۆ ئەوانە ئەجری خۆیان ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ لای خودای خۆیان، ئەم ئەجرەیش بە خودا نەبێ تقدیر ناکرێ ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ هەتا لە پیاو سمعه ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (۲۷۴) هەتا لە بذلی روح. دینی مبین اسلام شیرازە بەندی انتظامە، ئەیهوی هەموو فەردیک لە افرادی ئوممەت عضوی عامل بێ بۆ هەیهتی اجتماعی، کەس خۆی نەکاتە (چەل مەل) بە ملی کەس، نابێ عاقل لە ناویاندا بمینی، مەگەر سەقەت و شەل و کتوکۆر ئەوانە ئەبێ خزمەت بکرین، دوو طائفەش لەسەر ئوممەت واجبه بە خێویان بکا. یەکەم، ئەهلی علم، کە حصری عمری خۆیان دەکەن بۆ حفزی قورئان و قواعدو اصولی دین، خالی لەغەش تبلیغی موسلمانانی بکەن. دووهم، حکومەت کە بە ماموری اداری و عسکری حفزی ئوممەت و وەتەن ئەکەن، لازمه ئوممەت علی العموم ئەهلی ثروەت بن، ئەگەرچی (علی اختلاف الدرجات)، چونکە حصری ثروەت لە بعضه کەس و، مانەوهی سوادی اعظم لەسەر (فقر)، مایهیی فەساده، بۆیێ لەدینی مبین (ربا)، کەبە کوردی (رביده)ی پێ ئەلین حەرامه بە شیددەت، لێره بە مناسبهیی انفاق

به خلوصی، یا به نفاق به صورتهتی (مستکره) ابرازی رپا خواردن ئەکا بۆ انذاری خه لک ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ ئەوانهتی رپا ئەخۆن، لازم نییه به رپگهتی (اکل) بی، له کوردیش ئەگوتری: فلان کهس رپا خۆره، فلان مائی فلانی خوارد، مائی منی له قورگی دایه، به هر نهوعیک مائی (بلا حق) ی تصرف کردبی ئەلین خواردی. ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ له دنیاو قیامهت ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ الا وهکی ئەو کهسه، که شیطان لی ی دابی له هه موو لا له شیتی، ئەوانی (مصروعن) گه لیکیان وا ئەبینن، که یه کئی یا دوو له اشباحی خبیته به سه ریان دا دی، هه لیان ئەگلۆفی، دلایان ئەگوشی، عه زابیان ئەدا.. که له کۆلیان بووه وه قسه بیان نا منتظم.. متفرق ئەبی، ئەررۆن وهک حوشتری شه وکۆر، دهست و پا ئەهاوین، بۆ کوئی ئەچن نازانن، ئەوانی رپا خۆریش ئەیان بینن، دائماً مشوهش ئەخولیته وه به دهست و سه ر ئیشاره ئەکا، له گه لّ خۆی ئەلی، قسهی تفرقه و ناو دررا ئەکا و، ئەو حالهتی دنیا یهتی، نمونهی حالی قیامهتیهتی. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ ئەو بی مبالاتی له خواردنی رپا له بهر ئەوهیه، که ئەوان ئەلین: شت کررین به پاره وهک پاره به پاره یه، وا ئەبی مائی قیامهتی قرانیکه، به ده قرانانی ئەدهن، ئەگه ر ضرری زیاتر نه بی که متر نییه له رپا. گه لی رپا خۆر هه ن، گه لی اهون ترن له معامله چیان، خاصه ئەوانهتی سه له م ئەکه ن.

﴿وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ کوو (بیع و رپا) وهک یهک ئەبن؟ خوای تعالان بیعی حه لال کردیه و، رپای حه رام کردیه، ئەگه ر وهکیهک بان حوکمیشیان وهک یهک ئەبوو. ئەساسی (بیع) له ضرورتی یان خمسه نییه، ئەمما مکمله، بی فرۆشتن و بازار قوامی عالهم مشکله، اجارهش قبول کرایه، هه موو کهس بۆی نابی، صاحب دوکان و خان و قه یسه ری بی، بۆ

تہواوی فائدہی گشتی، یہکئی صاحبی چند دوکانہ ئہیدا بہ اجارہ ہہردوؤ لا استفادہ ئہکہن .

ربا بؤ عالہمی اسلامیہت اصلاً توافق ناکا، رباطہی اخوہتی دینی، مہیلی اسلامی بؤ تعاون ایجاب ئہکا، صاحبی پارہ بلا مقابلہ دہستی محتاج بگری، ئہویش (عن طیب نفس) بؤ ئہدای شوکرانہ، زیادہئیکی مناسب لہگہل ئہصلی پارہ لہ موعدی خوئی تقدیمی صاحب پارہ بکا . فرؤشتن و بازار ئہمیریکی لازمہ بؤ بہشہر، حاجت ناکا بہ تشریعی ئیلاہی، بہس تعدیلات عائدی شہرعہ، او بیعی عادلانہش لہ تہرف شرع واجب نہکراوہ، بہلکوو ہہر ئہوہندہیہ (احل اللہ البیع)، ذاتاً ہہر وہکوو (ناہی طبیعی) مغنیہ لہ ناہی شرعی .. داعی طبیعیش، لہ داعی شرعی مغنیہ . ئہمما چونکی ربا فہسادہی عامی تیایہ، خوا حہرامی کردووہ، ئہگہرچی ہہردوؤ مبادہلہن، ئہمما مہنشہئو غایہتیان فہرقی زؤرہ ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ ہہرکہسی پہندیکی پیگہیی لہ تہرف جہنابی خواوہ ﴿فَأَنْهَى﴾ مہنعی خوئی کرد لہوہی حہرامی کرد ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ ئہوی پیش بلوغی موعظت وہری گرتبوو بؤ ئہوہ . ﴿وَأَمْرُهُ﴾ شہئن و حالئی وی بؤ قیامت ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ عہفووی ئہکا عذابی ئہو، راجعی خودایہ . ئہوہ لہ صدی اسلامہ، کہ ربا حہرام کرا، ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ بؤلای ربا پاش انتہا ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿۲۷۵﴾ ئہوی انتہای نہبی بہ پیگہی یہکہم، ئہوی عہودت بکا بؤ ربا، دیارہ وہعظی الہی تہئسیری لی نہکردیہ، مہیلی نفسانی مانعیہتی لہ اطاعہی خوا . فکری فہسادی نظام لہ دلئی داسخہ . بی شک ئہوانہ ئہگہر بہ زار بلین موسلمانین، بہ دلیان نیہ .

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ خوی تعالان بہرہکہتی ربا ئہبا، مالی ربا بیفائدہ ئہچی، وہک مانگی بکہویتہ محاق، _ پووی بی نووری لہ عالہمہ_ کہس

فائده‌ی لی‌نابینی ﴿وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾ به‌ره‌که‌تی صدقه و خیر و زه‌کات گه‌وره
 ئه‌کاو زیادی ئه‌کا ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ ﴿۲۷۶﴾ خ‌وای تعالان که‌سی
 له‌وانه‌ی پ‌و‌و‌و‌وب‌ن له‌ ک‌ف‌ر‌و‌ گ‌و‌ناه، خ‌و‌ش نا‌و‌ی .. ئه‌وی خ‌و‌ا خ‌و‌شی نه‌و‌ی،
 دیاره‌ استعدادی خ‌ی‌ری نه‌مایه .

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ئه‌وانه‌ی ئی‌مانیان هیناوه به‌ دل بی وه‌هن ﴿وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ﴾ ئه‌وه‌ی چاک بی بو عبادی خودا ئه‌که‌ن ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ که
 رابطه‌ی اسلامیه‌ته ﴿وَأَتَوْا الزَّكَاةَ﴾ زه‌کات به‌حق بدریته ئه‌ه‌لی استحقاق
 به‌ انتظام، (فقر) له‌ناو موسلمانان نامینی .. ده‌رگه‌ی ر‌ب‌ا پیوه ئه‌دری .

﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿۲۷۷﴾ له‌ دنیاو
 قیامه‌ت ترس و خه‌میان نی‌یه، لای عاله‌م خ‌و‌شه‌ویست، لای خودا ماجور .
 ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ به‌ پ‌استی، ظاهر و باطن، طیب و طاهر ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾
 خ‌و‌ب‌پ‌ار‌یز‌ن له‌ عقابی خودا، ئی‌مان مه‌که‌نه‌ مبنای ئه‌مان، مقصد ثمره‌یه،
 داری بی‌به‌ر بو‌بر‌رین چاکه‌ ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ لای خه‌لکی ﴿إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿۲۷۸﴾ به‌ ئی‌مانی قوی، مثمر، بتوانی بتان‌گیرریته‌وه له‌سه‌ر مه‌یلی
 نه‌فس ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ ئه‌گه‌ر نه‌تان کرد پ‌اش تحریم و اوامر ﴿فَإِذْنُوا﴾ یقینتان
 بی ﴿يَحْرَبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ خ‌و‌ا پیغه‌مبه‌ری خ‌و‌ا شه‌ررتان له‌گه‌ل ئه‌که‌ن
 ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ﴾ ئه‌گه‌ر تۆبه‌تان کرد له‌ نه‌کردنی ئه‌وه‌ی ئه‌مرتان پی‌ک‌را
 ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ مایه‌که‌تان بو خ‌و‌تان قانزاج برروا ﴿لَا تَظْلِمُونَ﴾
 له‌ قه‌رداران ﴿وَلَا تَظْلِمُونَ﴾ ﴿۲۷۹﴾ له‌ ته‌ره‌ف قه‌رداران، ئه‌وانیش ئه‌بی به
 خ‌و‌شی ﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ﴾ بی قیره‌قیرو تاخیر، مایه‌که‌تان بده‌نه‌وه،

ئەگەر لە قەرداران کەسێ ناخۆش حال بوو، یەعنی فەقیر بوو ﴿فَنظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ مەلەتدانی لازمە، تاکو وەختی ئاسانی، یا تا ئاسانی، یەعنی ممکن ئەبێ بیدا ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا﴾ ئەگەر احسانیان پێبکەن، لێیان خۆش ببن ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ چاترە بۆ ئێو، دڵتان پراحت ئەبێ، مەراقی تیا نامینی... «کە ی ئەبێ و کە ی نایبێ!! درۆ دەکا! شکاتی لێ ئەکەم!» لەو عەزابەش نەجاتان ئەبێ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ئەگەر بە تەواوی بزانت، کە لێخۆشبوون لە وان خێرە بۆ ئێو ئەیکەن. ﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا﴾ کە پوژی قیامەتە. ﴿تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ کەسی تر نییە مرجع «لا تجزی نفس عن نفس شیئا» ﴿ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ هەر کەسێ بە تەواوی جزای کردەوی خۆی ئەدریستی.

﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ کەس ظوڵمی لێ ناکرێ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ئە ی موسلمانینە! ئێو قطعاً پوو لە (ریا) مەکەن، جەزای زۆر شدیدە، هەتا فرقیی عظیم لە ئەهلی عیلم و تەقوا ئەلین: پیاخۆر ئەگەر تۆبە نەکا، وەک کافر لە عەزابی جەنم ئەبەدی، بەهەشت بۆ نان نییە، خوای تعالی مەاملە ی عادلانە ی بۆ حلال کردن، ئێو بە مەاملە مەاملە بکەن، ئەمما دائرە ی تجارت تەنگ مەکەن، هەر بە حاضری بدەن، بە حاضر و قەرد چۆنی پیککەوت، بیع و بازاربکەن.. لە قاموس (دین) ئەوێه بە (اجل)، وه (قرض) ئەوێه بەبێ اجل. ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ﴾ کە مەاملەتان کرد بە قەرد (سواءً) مالی حاضر و پارە قەرد، یا بە عەکسەو وەک سەلەم. سەلەم ئەگەر منصفانە بێ، قانزاجیشی ئەبێ، فەقیریش حاجەتی پیک دی، ئەبیتە نعم البدلی (ریا) ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ سەلەم بێ ئەجەل نابێ، قەردی تریش

کہ مؤجل بی، بہ ئہجہلی معلوم وک سی مانگ، چوار مانگ. ﴿فَأَكْتُبُوهُ﴾
بینوسن، وا دہرئہکھوئی، کہ معاملہکہ بہ وقع بی، قہردی کہم ظاہرا ئہو
چہندو چوونہی پی ناوی، بہ لام حالی موسلمانان زور تیک چوہ، بہ حق
لہ خواردنی یہک قصور ناکہن، ئہگہر نہنوسری و شاہیدی لی نہگیری، بہ
سویندی ئہیخوا و ئہروا، ہزار سویند بہ پوولی!! ئہی ہاوار بو حالی
موسلمانان!.

﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ کاتبی عدل بوتان بنوسی، کاتبی
چاک لہ دیانہت، لہ کتابت ہوشی حسابی ہبی، سہوو نہکا، ناگاداری
شہر بی، فہرقی شرائطی صحیح و فاسد بکا، خاصۃ لہسہلہم و بہ
ناگاداری طرفین.

﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ﴾ طبیعی ئہو بہو جوہرہ کاتب بی، خراب وہیہ تنزل بکا،
ہہتا بہ اجرہتیش بنوسی، مہگہر برسی بی، بو ئہفہرموی (افندی) ابا و
امتناع نہکا ﴿أَنْ يَكُتُبَ﴾ لہ نوسین و دہفتہر تنظیم کردن بویان. با
احسان بکا لہگہل موسلمانان ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ کوو خوا چاکہی لہگہل
کردیہ، مہیلیکی شدیدی داوہتی بو تعلیمی کتابت توفیقی داوہ،
پیگہیشتوہ، (خاصۃ) لہ صدی ئیسلام پہغبتی کتابت کہم بو. با
کاتبی محترم پی لہ نہفسی خوئی بنی ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ بنوسی، امتثالاً لامر
اللہ ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ ئہوی حقی لہ سہرہ بلئی و کاتب بنوسی
﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ ئہوی مدیونہ لہخوا بترسی ﴿وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ ادنی
شتہکی لہ حہقہکہ کہم نہکاتہوہ، کہتمی نہکا، تا بتوانی ئہوی لہسہریہتی
بیلی بہ اعتراف، سبہینی پی انکاری نامینی.

﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا﴾ ئہگہر ئہوی حقی لہسہرہ،

بئ عه قَلْو شعور بوو، مندال بوو، یا پیری خهرفاو بوو، نه ساغ بوو ﴿أَوْلَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ﴾ خۆی له توانای دا نه بوو، لال بوو، یا زویانی نه ده زانی
 ﴿فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ به ولایه تی ئه صلی، یا به تولیه ئه وی له سهه ر (من
 علیه الحق) ه بیلی بو کاتب بئ غه در، نه لی (ئه وه سه فهیهه) بئ هیزو
 تاقه ته. ئه گه ر شتی گوم که م قه ی ناگا، (یحتمل) بعضیک ئه وه به خیر
 بزانی. ﴿وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ﴾، به تاسوخی طلبی دوو که س بکه ن، ناگا
 له خو، به هوش و حافظه و ئه مین. ناگایان له و ماجه رایه بئ، تحملی
 شهادت بکه ن، تا (لدى الانکار) به کار بین ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ له پیاوانی
 خۆتان. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ ئه گه ر دوو میرد نه بی ﴿فَرَجُلٌ وَأَمْرًا تَكَانِ﴾
 احضاری پیاویک و دوو ژنان بکه ن ﴿مِمَّنْ﴾ ئه و پیاو و دوو ژنه له وانه بن
 که ﴿تَرْضَوْنَ﴾ خۆتان پیان پاضی بن ﴿مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ جه معی شهیده،
 مه ته لی کوردی یه «دوو کداح به چه رمی حسابه» دوو ژنان احضار بکه ن
 که پازی بن ..

﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ هه ر کامیان بئ و شه هاده
 نه وایا شتیکیان له بیر چوو ئه وی دی هه ر کامیان بئ، که له یادی مابئ به
 یادی بینیته وه. یا خود دوو ژن بن حریت و استقلال له یه ک به ده ره جه یه ک
 بئ، که هه ر کامیان له فکری چوو، یا شاهدی گۆرری بتوانئ ئه وی دی
 به یادی بهینیته وه، یا ئیرشادی بکا، بیترسینی به عه زابو عقابی خودا،
 اعتراض نه که ن، وه الا احضاری دوو ژن که لک ناگرئ. په حمت وایه ژن له و
 نه وعه حسابه، که له وظائفی معتادی وی نی یه به ته و اوه تی له خاطر
 بمینئ .. له جی یه ک دوو پیاوی قه وی حافظه تان چه نگ نه که وی، دوو ژنی
 به و حاله چۆن چه نگ نه که وی؟.

﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ ئەوانی قابل و تئگه‌یشتون و ئەمینن ابانه‌کن، که بانگیان کردن بۆ حضوری مجلسی املا و املا، ﴿وَلَا تَسْمُوا﴾ ماندی مه‌بن، یا پیتان ناخوش نه‌بی ﴿أَنْ تَكْتُبُوهُ﴾ حه‌قه بنوسی ﴿صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا﴾ که م یازۆر، ئیستا ئە‌گه‌ر بلئی به‌قه‌ردار «بینوسین» توورره ئە‌بن.

- ئایا بروایت به‌من نی‌یه؟!

گه‌لی که‌س شه‌رم ئە‌کا طلبی نووسین بکا، له‌به‌ر ئە‌وه گه‌لی حه‌ق به‌ خۆرایی ئە‌روا، هه‌رچۆنی بووه به‌ تفصیل بینوسن، مفردات به‌ مفردات، ﴿إِلَىٰ أَجَلِهِ﴾ هه‌تا مده‌ی قه‌رده‌که بنوسن، تاریخ لازمه بۆ زه‌مانی ده‌عوا، یا زه‌مانی معینی نووسینی کتبه‌که، تاریخی سنډیش زۆر لازمه، دوور ئە‌بی له‌تزویر.

﴿ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ئە‌وی ذکر کرا عدله، دوورتره له‌ ته‌شقه‌له‌ ﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾ راستتر، مه‌حکه‌متره بۆ ئە‌دای شاهده‌ی ﴿وَأَدْفَنَ إِلَّا تَرْتَابًا﴾ نزیکتره له‌ نه‌بوونی (ریب) نابروایی به‌ یه‌ک. مه‌ لئین ئە‌وان بپروایان به‌یه‌ک نی‌یه، بۆیه ئە‌و حه‌ق و حسابه ئە‌که‌ن، به‌لکوو ئە‌مه بۆ ده‌فعی ریبه‌و تۆمه‌ته، وه‌ک کوردی ئە‌لی: «شه‌رر له‌شو، نه‌ک له‌تۆ».

سابقاً عرض کرا ئە‌و اهمامه به‌معامله‌یی ئە‌کرئ، که زۆر بی وه‌ک معامله‌ی تجاران له‌گه‌ل چه‌رچیان، ئە‌و وه‌قتی ئە‌و نووسین و شایه‌د گرتنه‌ی پی ئە‌وی، ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ وه‌ک معامله‌ی تجاران یه‌ک له‌گه‌ل یه‌ک، بۆ هه‌ لِسوپاندنی تجاره‌ت به‌ معامله له‌به‌ینی خۆیان، که به‌ جومعانه بزاز له‌ تجاری وه‌رئه‌گری، یا الآن بعضی پاره‌ی پی ئە‌وی، یا دووسن تۆپ (لانکه) یا (بللوری) لازمه بیده‌ن به‌یه‌ک ده‌ستی یه‌ک

ئهگرن. ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ چ وهبال نییه لهسهه ئیوه، که ئه وه معاملهیه و تجارهته نهووسن، فهصل له شاههگرتن، زیهه، ئه وه به (دین) وه قهره حساب نییه وه، له و جزئیاته اشهاد و کتابهت زهحهته وه، ترسی نزاع و زیان نییه، زیهه ئه وهی به و جوهره معامله ئه که، اعتباری خوئی نابا، به منتظمی ههق ئه ده. وه ههه ئه مپرو ئه وه حاجهتی بهتویه، سبهی تویش حاجهتت به و ئه که وئی، ئه گهر وانهبی تجارهته که ههلهناسورری، به لام بو احتیاط بینووسی باشه. ئه ممه ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ شاهه بگرن، که شتومهکتان بهیه کدی فروشت، ئه وه که اموری جزئیشه، ئاسانه ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ ئه گهر نووسیتان به کاتبی عدل، شاههتان گرت لهسهه ئه وه معاملاتیه هاهه، یاگیری عامه ضهرهه نهگاته کاتب و شاهه. له کارو کاسبیان مه کهن مقابلهی ئه وه خزمهته ﴿وَإِنْ تَفَعَّلُوا﴾ ئه گهر خلافی ئه وهی بو تان داندره بکهن ﴿فَإِنَّهُ﴾ ئه وه فعله مخالفه ﴿فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ خروجه له پئی پاستو باشو بی نزاع و تهشقهله بهسه به بی خو تان ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ خو له خوا بیاریزن، مخالفهی مه کهن ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ خوا تعلیمتان ئه ده ئه وهی چاکهی تیدایه، به ئیوهی نیشان ئه ده ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ عاقبهتی کار لای ئه وه معلومه، ئه مپرو ههله دهستن، اعتبار به یه که ئه کهن، سبهی ئه گوررین، ئه بن به منازع له گهله یه که، ههقی یه که انکار ئه کهن. شاهه نه بی، نه نوسرابی چه ده کهن؟

ئه وه اوامری ئیلاهییه، ئه گهرچی بو ئیرشاده، ئه وه نه وه شته ئینسان خوئی پئی پی ئه با، به لام بو ئوممهتی امی، وه که عهره ب و کورد، واجبه به جئی بینن، عادتاً اشهاد به عار ئه زانن، کتابهت به لایه وه ناچن، الآن له کورد و عهره ب به اعتباری نفوس باورر مه که، له ههزار یه که کاتب بی،

ههتا له مکاتبی پسمیهش اعتنا به کتابهت ناکهن، مندال خوی شکل نووسه، بی (مربی) شتیگ نه نووسی، نه لئی به جنجروکی پشیله کیشراوه.

له نهوه، مجددی عصری اختیاری نهوهیه، که بو وجوبه ﴿وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّ سَفَرًا﴾ له سهفهریوون، یا له سهه سهفهریوون ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ خاصة له دهروهه، له و زهمانی کاتب چهنگ نه ده کهوت ﴿فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً﴾ ره هنی قبض کراو، نه گهر قبض نه کرئی، نه ویش وهک قهرده کهی لی دئی، له بهر مفهومی شرط «مجاهد» نه فه رموئی: ره هن له سهفهردا نه بی نابی، نظر به شرط و قید «ضحاك» نه فه رموئی: له سهفهردا بی و کاتب چهنگ نه کهوت، نه و جا ره هن نه بی، وه الا نا. نه بی ناگایان له فعلی (رسالهت په نا) نه بووی، که له حضر (مع وجدان الکاتب) زری خوی کرده ره هنی جوئی، مقابل سی صاع له جو. ته ماشای هیمه تی ره سول وصوله تی فقر و ضه رورهت کهن، زری به پیغه مبهه نه کاته ره هنی (جووئی) مقابل به جو، نه و جا بزائن مالی دنیا چند به قیمه ته، خودا چند اهتمام نه دا به حفظی.

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ نه گهر بررواییتان پیک کرد، نه ره هن و نه شاهد و نه سه نه د نه ثبت. نه وی امنیتی پی نه کرئی، نه بی موسلمان بی، پیاو بی، خیانهت له گهل نه و نه وعه که سه نه کا.

﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ﴾ (کانه) نه و قهرده نه مانه ته که لای ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ چی تر نییه، الا وه عظو نصیحهت ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ شاهدی بزمه کهن..

﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ هه که سی شاهیدی بزبکا، نه دای نه کا، به راستی نه و که سه، دلی خوی گونا هبار نه کا.

که تمی شه هادهت له اعمالی نه فسه، نه فس نه گهر مدنس نه بی به خولقی پیس وهک نفاق، ریا، حبی زه رهری موسلمانان، خیانهت... اصلا که تمی

حق ناکا و دل کہ آثم بوو، دہر دہ دار بوو، بہ فہ سادچوو، سائری بہ دہن بہ فہ ساد ئہ چئی، ئہ گہر دل چاک بوو، بی غل و غہش بوو، ہہ موو بہ دہن چاک ئہ بی، و ہک لہ حدیثی شریف ئہ فہ رموی.

﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ﴿۳۲۳﴾ لہ سرر و علن، قلبی و قلبی ﴿لِلّٰهِ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ چوں شتی لی بزرئہ بی؟ کئی کئی نہ جات ئہ دا. کئی کئی اثابہ ئہ کا؟ ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ ئہ گہر ئاشکرا بکہن کیفیاتی نفسیہ، کہ قہراری گرتووہ بہ اظہاری ئاثاری و ہک کفر، حہ سہد، نفاق، حبو مہیلی فہ ساد ﴿أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ نہ ییلن اثری دہر کہ وی، ظاہر خو بہ چاک بنوینن، و ہک گورگ بچنہ پیستی مہرر ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهٖ اللّٰهُ﴾ خودا بہ «ما فی الضمیر» تان مجازاتان ئہ دا، ذاتا مداری ثوابو عقاب لہ سہر «ما فی القلب» ہ، ہہ تا کہ سئی جہزم بکا بہ گوناہی لہ سہر جہزمہ کہ مؤاخذہ ئہ کری، با گوناہہ کہ نہ کا. حاصلی، و ہک علمای کلام ئہ فہ رموون: صفاتی نفسیہ موجود خارجین اصلین، شجاعہت، سخا، خیانت، بخل ہہ موو نفسی پی متصفہ، با قہت تصووری نہ کا، لہ قبیلی تصورات نین.

موسلمانئی تصووری کفر بکا، کافر نابئی، کافر تصووری ئیمان بکا نابیتہ مؤمن، موجوداتی ذہنیہ حوکمی محققاتی خارجیہی نییہ، خہ یالات و (خرتو پرتی) نہ فس ہیچ نییہ، کہ ئینسانی پی مؤاخذہ بکری، (معانی) تا نہ فس پی متصف نہ بی، حوکم تا عہزم و جہزم نہ بی، بی ئہ ثہرہ.

لہ دل، لہ خارجی دل، نویر، پوژی، زہکات، حہج، جہاد، ئہ گہر اخلاصی تیا نہ بی، قلبی بہ تالہ، ریا، سمعہ، حبی فخر، چوں صدقات بہ بائہ دا!؟ بناء علیہ مجازات لہ اعمال و اوصافی قلبی، ئہ مریکہ ثابت و مقرر، نہ طبیعت، نہ شریعت ئہوی نہ سخ ناکا.. ئہوی ادعای نہ سخ بکا ہہر کہ سیک بی، ئاگای لہ نہفسی خوئی، لہ ئہ ساسی شرعی نییہ، خطرات و

وساوس و خہیالات و خرت و پرتی بیئہ وصل و، فعلی بہ اموری محققہی مقررہی ثابتہ لی پھشوکاوہ ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ خدا لہوانہی ئہلین ئہو ئایہتہ بہ ئایہتی «لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها» نہسخ بووہ عہفویان ئہکا، چونکی لہ فکری خراپو کیفیاتی خراپی (ردیء) نفسیہ نہبووہ. ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ فہرقی تمیزی ما فی النفوس، درجاتی پسخوی منویاتی چاک و بہد خویی ئہزانی، کرامالکاتبیش ئاگادار نین لہ احوالاتی نفسیہ. ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۲۸۴) زیادہی قودرہت، دہلیلہ لہسہر زیادی عیلم، چونکہ قودرہت لہ ژیر ادارہی عیلمہ، کہسئ عیلم محیطی نہبی، مقداری کیفیاتی نفسیہ، لہ شددہت و ضعف و اشدیت نازانیو، تقدیری جہزای بہ نیسبہت ئہو دہرہجاتہ پیئ نادریئ ئہو عیلمہ شاملہ، ئہو قودرہتہ کاملہ بوؤ خودایہ و بہس.

ئہگہر بہ سہبہبی نزول توہمی نہسخ ببردریئ، نظر بہ نظمی قورئانی حکیم، اصلا پئیئ ئہو توہمہی نییہ، مقصدی عظمی لہو سورہتہ، خو پاراستنہ لہ نیفاق، لہ قساوہتی قلب، کہتمی حہق؛ تزکیہی دل لہ حسد، لہ بغض. بناء علیہ نہسخی ئہو ئایہتہ، نہسخہ بوؤ ئہو ہموو سورہتہ، رہفعی ئہو ہموو حوکمو حکمہتہیہ، (معانہ) ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ حہضرہتی پھسول ئیمانیکی ہیہ بہ (ما انزل علیہ لا یفتہر)، قووت و متانہتیکی ہیہ، ہر خوا خوئی بیزانن، ئہو ہموو شددہتو باسو خراپہی بہ سہرداہات، ابا ذہرریئ (وہن) و فتور بہئمانی نہگہیی، حوکمی ئیلاہی بہ حہق ہینا جئ، طلبی لہخودا نہکرد، بہ خوارق ئیشی بوؤ بکا، کہمئ معاونہی بکا بوؤ تخفیفی ئہو مشقتہ عظیمہی، کہ تیدابوو، کہتمی ئایہتی لہ ئایاتی نہکرد، لہ اوہلی پسالہتی، تا ئاخر نہفہسی لہ جد و جہد و سہعی و نشاط و تیکوشین و غیرہت و

تحمل، که می نه هیئا. ئەو پۆژه وه، که له غاری (ثور) خۆی په نهان کردبوو له گه ل ئەو رۆژه، که به عهسکه ری جرّار چوووه سهر (مکه)، جه نابی رهسول طبعاً میلا نه گۆررا، ههر (داعی الی الحق) امتیازو خصوصیه تیکی بۆ خۆی داننا. ئەوانه ی که متجاوز له بیست تعویقی دهعهوه تی محمیدیان ئەکرد، خه ریکی امحای خۆی و دینی بوون، چ معامله یه کی له گه ل کردن؟ «اذهبوا فانتم الطلقاء» ئیمه، که له ئاشاری ئەو ئیمانمان به رساله تی ئەو هه بی، ئەو ده بی چۆن بی؟! ناییتته تحریر، اول و آخر (بینیدی مرسل الرسل) ئە ئیم: حقا، شایانه، که رساله ت فخر به هه ضره تی رسولی اکرم بکا، ئەوانی ئەهلی ئیمانن، ئەوانیش ئیمانیان هه یه به راستی و دروستی، به و کتیبه ی، که نزولی کردیه بۆ خاتم الرسل.

﴿كُلُّ عَامِنٍ بِاللَّهِ﴾ کلی فرد له ئەفرادی وان، ئەلین ئیمه ئیمانمان هه یه، به لام نافهرموئ «ئهلین»، به لکوو خۆی علام الغیوبه، مطلعی علی ما فی القلوبه، خه به ریان لی ئەدا، که کله کیان ئیمانیان هه یه به خودا، که رب العالمینه، په حمان و په حیمه، مالکی پۆژی دینه، ههر ئەو معبودی به هه قه، هادی یه، بی شه ریک و ضد و (ندّه)، حی و قیومه، ادنی غفله تیکی به سه ردا نایی، به و نه وه که له و دوو سوپه ته ی رابوو رد. ﴿وَمَلَّتْ رِجْلَاهُ﴾ ئیمانیان هه یه به ملائکه ت هه ن، خوا خه به ری داوه له بوونیان عبادن، مطیعن، فه رمان به ردارن، زیندوون، به لام نه وه کو حی القیوم احتیاجیان به امداد نه بی بۆ ادامه ی حیات. اجسامن وه ک (باری) (مجرد) نین، منتظریان هه یه، علمیان به تعلیمی ئیلاهی یه، بالذات عالم نین. حاصلی به و نه وه قورئان باسیان لی ئەکا، ئیمانیان پی هه ن. ﴿وَكُنْتُمْ رُسُلًا﴾ برروایان هه یه به و کتیبانه ی خوا، که بۆ پیغه مبه رانی ناردوووه و، برروایان هه یه به پیغه مبه رانی کرام، که به نده ی خوان، ئەمین و هه حین، له گه ل خوا و خه لقی خوا خیانه تیان نی یه، مصلحی خیر خواهی به شه رن، سه رفی مقدره تیان

کردووہ بۆ هیدایه تی به شه، تعلیم و تفهیمی عباد، له ظلماتی کفر و ضلال، بیانخه نه دهر بۆ نووری ئیمان و پشد، ترسیان له خوا زۆره، مهیلی پراستیان ههیه، له خه یال و خولیای پرساله ت نه بووین، امتیازی فیطریان ههیه، جه نابی حه ق کتیبی بۆ هه ناردوون، بۆ (مه سقه لی) دلّیان، ئایاتی بیناتی تیا نکره رموو، هه ر قه ومه، هه ر میلله ته به گویره ی لیاقه ت، حوکم و حکمه تیان بۆ به یان کراوه، وه ئه و مؤمنانه ئه فه رموون: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ

مِّن رُّسُلِهِ﴾ وهک ئه مریان پی کرایه فه رقیان ناکه ن، له هه ر شعبی بن، تصدیق ئه که ن. (ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و موسی و عیسی)، لامان له ئه صلی پرساله ت یه کن، به یه ک زویان ده عوه تیان کردیه بۆ ئیلاهی، نبوه ت ناکه نه قومیه ت. (اسماعیلی) یش بن، فه رقی اسماعیل و اسحاق به دلّیان دا نایی و، پیغه مبه ری تورک و کورد و فارس و سائری (اممی) دی فه رق ناکه ین، له گه ل محمدی عه ره بی (ﷺ)، ئه وه یش هه موو ثمره ی ده عوه تی احمدیه ﴿وَقَالُوا﴾ هه موویان له صغار و کبار، مهاجر و أنصار ﴿سَمِعْنَا﴾ بیستمان به سمعی قبول، به خواهشی خوّمان، بی جبر و اکراه، بی ره فعی (جبل)، چووب و فه لاقه وه رمان گرت.

﴿وَأَطَعْنَا﴾ سه رومال له توغره، نهک به قه رز، نهک به به ها، محضا بۆ رضای خوا، روح و اموال و اولاد فیدا ئه که ین. ﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا﴾ به س طلبی غفران و سه تری عه یب ئه که ین، حه یات و جگه ر گوشه و مال، ئه و نده قیمه ته ی نییه، پاداشی له تو بخوازین..

﴿وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ گه ررانه وه مان بۆ ته ره فی تویه، ئه مرپوش هه ر پروو له تو ئه که ین، هه زار بار ابتلامان بکه ی به ترس و به برسایه تی، به نقصی اموال و نفوس و ثمرات، صبر ئه که ین، جزع و فزع به دلّی ئیمه دا نایه، به حرصی دنیا خوّمان له لقای تو محروم ناکه ین، به دل و زویان، ئه لی ین:

«انا لله وانا اليه راجعون» بالمقابلہ حہضرہتی کبریائی، قوبہی تعظیم و احترام لہسہر وان ہہل تہدا، نہ لہ دونیا، نہ لہ (عقبی)، تووشی پہزالہت و خزی نابن، بہ عیززہت تہژین، بہ عیززہت تہمرن، بہ عیززہت حہشرئہ کرین.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کئی تہوہ تہفہرموی؟ خویا! تہہلی ئیمان ہہردووی قابلہ، بہ لام نظر بہ ئایاتی سابقہ لہو سورہتہ، اعتراف بی تہ تہرف تہہلی ئیمان جوانترہ، تہوان اخبار بدہن لہ حہق، کہ جہنابی حہق تکلیف لہ ہیچ کہس ناکا، الا بہ گویرہی وسعو تاقہت و تحملی خوی. ذاتاً تکلیف لہ دائرہی امکانی استعدادیہ، تہماشای مجردی امکانی ذاتی ناکا، تہم بؤ خہلقو ئیجادہ، خوا لہ جہت شارعی ہہرکہس، بہ نیسبہت لیاقتہ تکلیف تہکا، پیر وک جوان، ناساغ، وک ساغ، ضرورہت وک وسعت، بی ہیژ وک پالہوان، کور وک چاو ساغ، کوستان وک گہرمیان نابی. خودای، کہ خالق کائناتہ، چون بہ فیطرہت فہرقی کردوہ، بہ شرعہتیش تہبی فہرقیان بکا، کہ لہ ہموو شت گرانتر، بذلی مالہ، بذلی روحہ، بؤ ئینسانی مہرد ئاسانہ، بؤ کہس گران بی، جہنابی حہق، حہقو حہقیقتہ وا بہدہرئہخا، کہ بؤی سہ ہل بی.

سابقاً فہرموی: قتالم لہسہر نووسین، تہگہرچی بؤ ئیوہ ناخوشہ، دوایی دیققتہ، کہ چونی خوش کرد، چ لذہتیکی دا بہ مردن، لہ ئوغری خوا، لہ ئوغری وہتہن، لہ ئوغری اولاد.. خاصہ بؤ کہس دنیا پہرست نہبی، حہزی لہ عیززہتی نہفس بی، ئیمانی بہلیقای خوا ہہبی..مردنی چہند لا شیرین کردن، کہ وہقتہ روح خوی لہ خوشیان بچیتہ دہر لہ قالبی بہدہن. قہومی نجیبی عہرہب، ترسی مردنیان نہبوو، دائماً خو بہ خوی شہریان تہکرد، لہ پئی سفاہتی (لات و عزى) نہفسو نہفیسیان خہرج تہکرد، لہ پئی اتحادی میلی، لہ پئی استقلالیت، لہ پئی خوا تہبی چ بکن؟.

ئەبێ خۆ مقصر بزائن، طلبی مغفرت کهن له خودا.

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ جێی شك و شوبهه نییه، محسوسه، وجدانییه، نهدهبا علماً نزاعیان ببی له عیلمی ئینسان، له قودرهتی ئینسان، له اختیارو ئیرادهی ئینسان، خلیفه‌ی خوا له صنع و اختراع، چۆن بێ عیلم، بێ قودرهت، بێ ئیراده ئەبێ؟ معاذالله، ثم معاذالله، کهسی خوا ئەمری پێ بکا به قتال و جدال و حفظی دین، حفظی میللهت، حفظی وهتهن، ئەبێ چۆن بێ؟ به کورتی سهلبی قودرهت و ئیراده و تاثیری بۆ دینی ئیسلام، زۆر ضرر بوو له زروهی مجدو شه‌ره‌ف، خستیه چالی ذل و حقارهت، بووه توقی ئەسارهت له ملیان. بناء علیه ئەوی مکلف بیکا له چاکه، له خراپه عاندی خوێهتی، خۆی مسؤوله له کیفیاتی نهفس، له اعمال بدهنی. ئیمانی کامل، خاصه مقرون به محبهت، له قضا ئەخوازی مؤمن دائما له حضوربێ، شه‌هیدبێ، نسیان و خطای به‌سه‌ردانه‌یی، بۆئه‌هلی حضور له فکر چوون، غلط کردنه ئەبێ نه‌بێ، به‌لام ئینسان مشاغلی زۆره هه‌م له تهره‌ف طبیعه‌ت مکلفه، هه‌م له‌جه‌ه‌ت شه‌ریعه‌ت، بۆی ئه‌و مؤمنانه له خوا ئەخوازن.

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ له‌سه‌ر نه‌فس، نسیان و خطا و عدمی اصابه، معاتبه‌مان مه‌که، (حقیقه) حه‌ق وایه له هه‌یچ آن غه‌له‌تمان به‌سه‌ردا نه‌ی، خوای ئیمه نابۆرژئ، له‌سه‌ر معامله ئەمر ئەکا به احضاری شاهدهی به حافظه، بێ نسیان؛ ئیمه که شاهدهین له‌سه‌ر وحدانیه‌ت و عیلم و قودره‌تی خوا، له‌سه‌ر حه‌قیه‌تی کتب و پسل، ئەبێ چۆن بین؟ ئەمما جه‌نابی حه‌ق خۆی حالمان ئەزانئ، له نسیان و غه‌له‌تمان ئەبوورئ، ئەوه مقتضای بشریته، خاصه که ئیش و کاری هه‌بێ و، مکلف بی ئیداره‌ی دنیا و دین. هه‌تا پیغه‌مه‌رانی عظام له سه‌هو و نسیان (مب‌را) نه‌بووین. ئەمان! سه‌ده‌ئمان به لافو گه‌زافی ئەم و ئەو، هه‌ له‌مه‌خه‌له‌تین:

«ولو خطرت لی فی سواک ارادة»

علی خاطری سہوا حکمت بردتی»

تہوہ ممکن نییہ، دائماً لہ خوا بخوازن، کہ زیدہ حضورتان پیئ کہ رہم بکا، تا نسیان و خطا، کہ متربئی، تہمما تہوانی بہ (لا ابالی) ئیش تہکەن، نسیان غلبہیان لی تہکا، کہ م اصابہی حەق تہکەن. بہ لکو وایان لی دئی، کہ اصابہ ناکەن، بہ نسیان و خطا مؤاخذن. ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا﴾ خودای ئیمہ، باری گران مہاویئ سہرئیمہ...

﴿كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ وہک باری گران، کہ ہاویشتتہ سہر تہوانی پیئش ئیمہ. گران تکیف بہ نظر شخص.. بہ نظر قوم تہگورری، قہومیئک، کہ لہ پرووی ئیمان و اخلاص، پوح دانان و مال صرف کردنی لا سہ ل بی، تہ بیئ چی لہ لا گران بیئ؟ معلومہ بارسوکی لہ ہہموو وہقت چاک نییہ! پاپور لہ بحرباری سووک بیئ، بہ سووکی تہخنکی، بالنسبۃ تا گران بیئ باشہ. قہومیئ مہیلی ذیللہت و تہسارہتیان ہہبیئ، عیززت و استقلالیتیان غایہت لہ لا گرانہ، خادمی نادەن بہ مخدومی، ماموری ناگوررنہوہ بہ آمری، گزیریان لہ امیری پیئ خۆشترہ، قہومیئ اجانب پەرست بیئ، اطاعہی (خۆیی)یانی لا لہ کیئو ہہلگرتن گرانترہ، کہوابی ديارہ موسلمان لہ سووکی تہترسن، لہ استیلای اجانب خۆفیان ہہیہ، لہ تشریعی تہترسن، کہ بہ ناوی تزکیہ، سخریہ و استعبادی تیابئ، وہک شرعی (عیسی): «کہسئ زللہکت لہ پروویدا، پرووہکە ی تری بۆ پراگرہ، زللہکیش لہویدا! کہسئ فرسەخی بہ سفر بیت، دوو فرسەنگ لہگەلی ہہ پروو!»

ذاتەن من لہ میژہ عہرضی موسلمانان تہکەم، ہہر عقیدہیی، ہہر تہمری سہوقی کردن بۆ حەیات، بۆ عمل، خفتی پوحی و بدنی دا، بزانت تہوہ لہ احکامی اسلامییہ، وہ الا غشہ، اساسا لہ دینی اسلام نییہ، بۆ کوشتن

ئوممهت هاویشترابی، حاصلی، طلب ئەگەن جهنابی حەق بارئیکیان باوئته سەر، خفهتییکی پوچی و نشاطی عملی بدا، نهک گرانیان کا به کسالت و عطالەت، پوحيان غلیظ بی، ئەوی لهگهڵ فطرهتی خۆمان موافق بی، نهایەت جرفمان کا له خراپه بو چاکه. ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ط﴾ وهک (جوو) بوونه ژیر دەست، خادمی ههیکهلی (ئوری اهرس)، محبهتی عمل چی به سه رهینان؟ وهههه ته ماشای مهیلی (مفرط) مان مه فهرموو، تو عاقبهت چاتر ئەزانی. بهینی سه هل و گران، دینی حنیف.. ئەمرو ئەتوانین ئەو صدماتی باری زور گران هه لگین، سبهی نا.

گهلی ههیه مهیلی طاعهت، ئەیخاته ژیر باری زور قورس، ئاخری ئەوهستی، وهک رهبانیهتی دیانان و زهدی ئیمه.

حاصلی نه به تکلیف، نه به تکوین مه مان خه نه ژیر باری، که تحملی نه کهین، تاقه تمان پی نه شک، سووک بی، یا گران ﴿وَأَعْفُ عَنَّا﴾ لیمان خوش به به سهولهت ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ سترمان بکه، عه ییمان به دهرمه خه ﴿وَأَرْحَمْنَا﴾ له دنیا و قیامهت ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ مالکی ئیمه، سیدی ئیمه، متصرف له پوچ و مالی ئیمه تو... مالکی کهس، سیادهتی کهس، سلطه نهتی کهس قبول ناکهین.. دخیلک یا ربنا، به وجهه ته امتحانمان مه که، زمامی ئیداره ی خۆمان داوته دهست تو، وهک حه ضرهتی ئیبراهیم ته سلیمین، توش به گویره ی مهیل و هیمه تی خۆمان، تشریحی احکامان بو بفرموو..

﴿فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾، ئەوی کافره، ستری حقی کردب، موفقمان که ی له سه ره وان.. حه قیان بو دهربخهین، له ظلمهت نجاتیان بدهین، به نووری کتاب و بورهان، یا به بارقه ی سیف و سنان.. آمین.. یا رب العالمین.

ئهو سورپهته، سورپهتی زۆر عظیمه، پرر(حکمه).. ههتا له (روحالمعاني) ئهلی: (ئیمامی عمر) ههشت سالان خهریکی تعلمی ئهو سورپهته بوو. ئافهیرینی خودا له عمر. بهو نظمهی ئیمه نهختهکمان بهدهرخواست، فههمیگرانه به نظری سهرسهری نابئ. تدبری زۆری ئهوی.

بعضی پئیان خووش نهبووه پئی بلین سورهی (بقرة)، بهلام ئهوهش له بئ دیقتهتییه، ئهو بقره سرری عظیمی دهرخواست، که بنی اسرائیل له ظهوری ئهترسان، حذریان ئهکرد.

(خالد بن سعدان) پئی ئهوت (فسطاط)، (حقیقه) وهک زانا نوری فسطاط و خیمه عظیمه بو موسلمانانی تام الایمان، پهشمالی (ذل) ی تیا هه لدرایه لهسهر جوولهکان. وه پیشی ئهلین (سنام القرآن)، حقاً سورپهتی زۆر اعلایه، ئهو سورپهته مبارهکه له مدینه نازل بووه، مجموعی (۲۸۷) ئایهته، بعضی ئهلین (۲۸۶). طبعی پشیدی ئهوهی اختیار کردیه، ئاخر پهقمی لهسهر (لا یكلف الله... الخ)ی داناوه ۲۸۶.

عجایی ئهو سورپهته لهسهر ئهو تفصیله، گهلیک ئایاتی مجمله .. ئینسان ئهتوانئ بلی: خلاصهی ما سبق، یا ما یاتی تفصیلیهتی، له بهرئهو تاخیری نزولی نهبوویته مانعی تصدیری له سورپهتی فاتحه. ئههلی ئیمان طلبی هیدایهتیان بو پئی راست کرد، جوابیان وهرگرت. له تفصیلی احوالات بویان معلوم بوو، که سلوکی ئهو پئی پهراسته، عقبههی ههیه. خصوص له پئی حج محصور کران، علاوهی ئهو طلبه، له خویان ویست نصرهتیان بدا بو پهفعی ئهو عقبهیه..

* * * *

«سورهتی آل عمران»

ديسان اجابهی دهعهوتی کردن، لهسهه نهجی پیشوو.. بعد از (بسم الله الرحمن الرحيم) فهرموی: ﴿الْم ۱﴾ تا خو حاضرکهه بۆ جواب وهرگرتن و، ئیشاره بۆ کمالی اتصال، لهبهینی ههه دوو سوپهه، ج ملهه زۆر پهر مهعناهی له آیه الکرسی وهرگرت، کردیی یه صدري سوپهه، فهرموی: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۲﴾ ذاتهن، خهصمی ئیسلام و پئی پاست، دوو گرۆهی فهسادن، غایهیان یهکه، پئی اغوایان جوایهزه، (یهکی) لهریی حس خانهخشتهوهه بووین، (ئهوی دی) له پئی عهقل گومراه بووین.

(کانه) له مادیات ترقیان کردیه، بۆ روحانیات بلنذبووین، با وجودی لهو بلندیه کهوتینه دهرکی اسفل له جههل و بی عهلی و، شتی واهیان به دهستهوه ئهیکههه سهبهبی ئهه گومراهییه. ئهه سوپههه بۆ ازالهه ئهه شوبهه واهیانه ناردرا. خودا، زندووه بالذات، نهبه واسطهه ئهمریکی غیری ذات. واحدی (حقیقه) شائبهه کثرهه تیانییه، لهبهینی وی و غیره جههتی وحدهه، غیره ممکنه، چونکه خودا فوق الطبیعههه، ئهوی له احوالی طبیعیات بی، بۆ خوا محاله.

حی و قیومی ئهوتویه، که ادنی غفلهه، شتی وهک بوژزانی نییه، فهضل له تغیرات و تطوراتی، که بهسهه موالیید دادی. حاصلی غیبی مطلقه، نهبههه قووی مدرکه ئهکهوی، نهبهه قوای عامله. وهستای معملی طبیعههه، داخلی معمل نییه.

﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ معهود و معلوم، که فهرموی: (ذلک الکتاب لا ریب فیه) له پیشهوه پهفعی (رهیب) کرا. لیره ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ به حهق ناردراوه، چ اشتباه و تبدیل و تحریفی تیا نییه، مدلولاتی ههموو حهق ثابت و مقرره، ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ئهوی به حهق مابی تفریقی، ئهکا له (محرفات).

﴿ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۳﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ ﴾ ئه و تهورات و ئنجیله، که خوا بۆ موسی و بۆ عیسی ناردبوو، بۆ هیدایهتی خهلق. ئه ماما ئه وهی له تهرف جوو، یا دیان پیئی ئه لئین (توراة) معظمی تواریخه، ملحقاته له تهرف ئه م و ئه و نووسرایه، پیئی ئه لئین توراتی موسی. ئه ماما وه حیئی منزل بی، له تهرف خواه، حاشا ثم حاشا، ادنی کاتبی تاریخ بنووسی، به هزار دهرهجه فوقی ئه وانه ئه نووسی و انجیلیش ههروها، هه ر که سه شتیکی نووسییه، ناوی لی نایه (انجیل)، دوایی خریان کردۆته وه و، چواریان انتخاب کرد له هه موویان. ئه وی نزیکه حهق بی، انجیلی (به رنابا) یه ئه ویان قبول نه کرد، و آلان، له م پۆژانه دا ئه و روپایی لی ئه گه رین له هه رجی بی بی، ئه یبه ن ئه یسووتینن، هه تا بعضه حمقایان ئه لئین: ئه وه له تهرف موسلمانان تالیف کرایه، خولاصه ئه ویش له تهورات پووچ تره، پیشیان ئه لئین: (کتبی مقدس).

تهورات کلمه ییکی عبرانییه، به معنی (شریعهت) ه، انجیل کلمه ییکی یونانییه به معنی (بشارهت) یا تعلیمی نوئییه، عه ره بی نین، خۆرایی اشتقاقییه کان خویان ماندی ئه که ن.

﴿ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ یه معنی ئه وی خوا نارد بیتی بۆ فهرق و ته مییزی حهق له باطلی ناردووه، ئه وی (منزل من عندالله) بی فرقانه، ئه وی باطل و اساطیرو چیرۆکه بی، له لای خوا نه هاتووه، حیکایهت خوانان تی بیان بردووه، بعضی ئه فه رمون عبارته له عقلی. (مجددی میصری) ئه وه ی اختیار کردیه. به لی، عه قل فارقه، موهبه ی ئیلاهییه، تمیزی ئینسان له سائی حیوانات

به عقله، له پاش تمکنی قوای حیوانی ئه نیردری، به لام عقل زور سهیره، بعضاً وا ئه سیری قوای (بهیمی) ئه بی، خوئی دویان ئه که وی بو هه وای نهفسی خوئی (قدح) له خوئی ئه دا خوئی ئه شکیئی، خو قه له ندره له زمانی معجزه و کرامات، به جارئ سقوط ئه کا، فه رقی محال و ممکنی ظاهری پی ناکرئ، ئه گهر جهیشی علاوه بوو، لی مه پرسه! ئه مپوش، که ئه لئین عه صری عیلمو نووره، ضیای (رونکین_ ما وراء البنفسجی) له اعماقی به دن نفوذ ئه کا، عه قلی جووله که یی و دیانی، هه روهک خوئی تهی له (تیه) دایه .

هه رچه ند کتبی ئیلاهی، بو ته فریق و ته مییزی حه ق له باطل نزولی کردوو، به لام مع الأسف، گه لی که س کردیانه مایه ی کفر و ضلال ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ به سه به ب ئایاتی خوای ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ئه و عذابه، که لایقی وانه . هه ر هه نده تعبیر ئه دریته وه . ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْقَامٍ﴾ ﴿٤﴾ غالبه، تو له ستینه له وهی، ئایاتی هیدایه تی کردبیته مایه ی ضلال ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿٥﴾ ئه گهر کتمی حه ق له خهلق بکه ن، له جه نابی حه قیان پی ناکرئ، عیلمی محیط شه ئنی ئیلاهی یه، که س له و شه ئنه شرکه تی نیه، پسلی عظام، مه له کی کرام، کروبین و صافین و حافین و مقربین و ارواحی مجرده، ئه گهر هه بن، له شائبه ی نه زانین خالی نین، هه رکه س عیلمی محدوده ..

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ ﴿٦﴾ خوئی مصوره، نابئ به مصور غهیری ئه و، ئه وی خه یالی لی بکرئ، بلئ مصوری قوای عاملی طبیعه ته، به لام طبیعه ت جاهله، ئه و حوکم و دقائقه له ده ست وی نابئ، ئه ویش (مرتب) ی پی ئه وی .

ئه بینن معمل ئیش ئه کا به عاملی عالمی اختراع کراوه و دامه زراوه،

کہسی عاقل امدادی نہدا بہ نہوت و بہنزین، بی عہمہل ئہبی پائہوہستی، چی پی ناکری، ئہوہی ئیوہ ئیکہن بہ مصور، خویان (مصورن) لہ محصولاتی معملن، زہلیلی دەستی طبیعتن، غہیری خودا بہ عیلمی تام کئی ئہزانی، ئہوی لہ (مندالدان) دایہ، طبیعتو مزاجی چییہ؟ دہرہجہی قابلیتو استعدادی چہندہ؟ چی تئ ئہبی و چونی تئ ئہبی؟ مہلہکئی، کہ اولی مغلوبی عیلمی بہشہربوو، چوں پاشان تصویریی ہیکہلی بہشہرو تہرتیبی (قوای عاملی و مدرکی بشری) پی ئہکری؟ اساساً قاعدہی تناسل کئی دای مہزراندووہ، ئہتوانئ خیلافی قاعدہ بکا، ہہروہکو پرحم مقری تشکلی بہدہنہ، دہماغیش محلی تشکلی عیلمہ، ئہگہر دہماغ پاک بوو، ئایاتی ئیلاہی بہ پاکی تیا قہرار ئہگری، ئہگہر نسجی خراب بی، موادی ردیی تیکہلاوبی، تلویٹی ئہکا.

خولاصہ قالبی مادیات و معنویات، ئہگہر جوان بی تییدا دادہرژیندرئ جوان ئہبی، وہ الا پیس و ناشیرین و مشوہ ئہبی، قالبی پرحم قابلہ اشکالی بگوری، ئہمما قالبی دہماغ کہشکلئیکی وەرگرت گوررانی محالہ، وہک (معدہ) طعامی پاکی ئہکہویئتئ، دوایی بہ پیسی لئی ئہچیئہدہر، چاکہ معدہ صفوہتیکی لئ وەر ئہگیری، بہلام دہماغی فاسد، وہظیفہی پیس کردنہ و بہس.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٦﴾ بہ ہہموو وہجہ، جہنابی حق غالبہ بہ قودرہت و قووت، بہ عیلم و حکمہت، بہ صنع و ابداع و اختراع، بہ قہر؛ بویئ (عزیز) مناسبہی ہہیہ لہگہل انتقام، تۆلہساندن لہگہل حکمہت، دانانی ہہرشتہ لہ موقعی مناسب لیہرش وہک سورہتی پیشوو قابلہ سؤالئ بکری، ئہلین: کتابی ئیلاہی فارقہ، مع انہ چہند ئایاتی تیا ہہیہ کہ دہلالہت ئہکا لہمہ کہ جہنابی حق یہکیکہ وہک سائری حیوانات حہیاتی ہہیہ، گوئی ہہیہ، چاوی ہہیہ، وہک: ئینسان قسہ ئہکا، وہکو پادشاہ لہسہر عہرش و کورسی دادہنیشی و (غیر نلک) ... ئہگہر ئہوہ

فرقان با، نہدہبایہ ئہو ئایہتہی تیا بی؟! جواب ئہفہرموی:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ قورئانی کریم فاصلی (بین الحق والباطل) ہ
 ﴿مِنْهُ﴾ له کتابہکھیہ، یا له تہرہف خویہ ﴿آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ اتقان کراوہ،
 مہحکہمہ، فہساد پرووی تی ناکا، دہلالہتی واضحہ، ئاشکرایہ، ئہہلی
 فہساد، خوارہکہ و پیچہکھی پی ناکری ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخْرُمْتَشْبِهَتْ﴾ ئہو
 ئایاتی بیئانہ ئہصلی کتابہ، عمادہ، لہبہر ئہو تجلی و ظہورہ، بہ فاتحہ
 ئہلین «ام الکتاب». ئہو نہوعہ ئایاتہ دائر بہ اعتقادیات و اعمال ہہیہ، وہک
 عہرض یا مضمونیان پیک ئہچن، یا مضمونیان لہگہل اشیا دی پیک
 ئہچن، ئہوی مقصودی ئیمہیہ، مہنشئی متشابہاتی قورئان، متشابہاتی
 اکوانہ .

بعضیک بی اصلہ، بسیطہ، ترکیباتی تیا نیہ (شبه) له بہینی ئہوانہ
 دانایی، فہضل له تہشابہی ئایاتی محکمت، وہک ئہو اصولہ مضموناتیان،
 نہ لہگہل یہک نہ لہگہل شتی دی تشابہیان نیہ .

ئاو، ئاگر، ہہوا، خؤل، ئوکسجین، ایدروجین، آزوت، کاربون، زئیر، زیو،
 ئاسن، سائری بسائطی، کہ علمای عصر کہ شفیان کردوہ .. بہ خواص و
 مزایای خویان ممتازن «ان الله غنی عن العالمین.. الحمد لله رب العالمین،
 مالک یوم الدین» و بعضی، کہ له (مولداتہ) له ئہصلی شہبہہی معادن،
 نباتات، حیوان و ئینسانہ، گہلی بہ گہلی تہشابہیان ہہیہ . بو ئہہلی خوی
 نہبی پیک ئہگورریں. ئہوی ئہہلی خہبہرہ جہہتی فارقہ ئہزانی، خواصیان
 دہرک ئہکا تہفریق و تہمیزیان ئہنوینی .. کہ ئہوی ئہہلی خہبہریش نہبی
 و تی بگا و بیزانی ولیی نہگورری و (لدى التحقیق) دہرئہکہوی، ئہوانہ
 جیہہتی تخالف و تباہینشیان ہہیہ، وہک جیہہتی (تشابہ). ئہو تشابہہ له
 ہہموو عیلمی ہہیہ، بہلام (ماہری) ئہوی تفریقی بکا و تی نہکہوی، دورری
 نہجہفی، بہ ئہلماس لی نہگورری، سکھی قہلب له جیاتی سکھی ساغ

وہرنہ گریں .

لہ اوائل انقلاب یہ کئی لہ ٹہ فرادی عائلہ نہ ساغ بوو، دوو دوقتوری باش لیڑہ بوون، یہ کئی تورک و موسلمان (نصرت فؤاد) ، یہ کئی ئینگلیز (میللہر). ناردم لہ دوویان ہاتن پاش عصر بوو، معاینہ یان کرد گویا عیللہ تہ کہی (حمای مرزخیہ) بہو گویرہ ترتیباتیان دانا. شہو زور بی صحت بوو، ٹہو دہرمانہی استعمالی ٹہ کرد، زیدہ ٹہ لہ می ٹہ دا، زیتیر تہ حریکی کۆکہی ٹہ کرد. سبہینئ زوو (نصرت) ہات بہ تالووکہ، بہ مشوہ شی .. گوتم خیرہ وازوو ہاتی؟ بی لہ دوا ناردن؟ گوتمی: لام وایہ لہ کہ شفہ کہ بہ غہ لہ ط چووین، تشخیصی عیللہ تہ کہ مان بو نہ بووہ . گوتم (حقیقہ) وا بہ دہر ٹہ کہ وئی، ٹہ مشہو پاش ترتیباتی ئیوہ زیادہ بی قہرار بوو، تکرار معاینہی کرد، گوتمی بہ لئی غہ لہ ط بووین ٹہو نہ ساغی یہ (ذات الرئہ) یہ، لہو ٹانہ دا (میللہر) یش ہات، نصرت بہ لسانی طبی عہرضی کرد، ٹہ ویش معاینہی کردہ وہ، بہ دہنگی بلند: «پاردون نصرت» تقدیری مقدرہ تی نصرتی کرد. بالاتفاق تہرتیبی، کہ بو ذات الرئہ موافق بی، کردیان . شوکر نہ ساغہ کہ چا بووہ وہ .

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ مہیلی باطلیان لہ دلداہیہ، لہ ریئی راست لائہ دہن ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ دوا ئیاتی متشابہہ ٹہ کہون، لہ جہات (تشابہ) بوئی ٹہ چن تہ ماشای جہتی افتراق ناکہن . ﴿ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ مقصدی اصلیان افسادی عالہ مہ ﴿ وَاَبْتِغَاءَ تَاْوِيلِهِ ۗ ﴾ بہ ظاہری وا بنوینن، کہ تہفسیری کلامی خوا ٹہ کہن، لیڑہش تشابہی ٹہ نوینن، (انہ) ٹہ مانہ مفسری کلامی خودان، وہک علمای پاسخ طالبی ریئی ہیدایہ تن، مہ لہک صورت ئیبلیس سیرہ تن .

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہس تہفسیری متشابہ نازانی، بہ حقیقت زانین و بہ تہمام کہشف، لہبہینی نایاتی قورئان، خوا نہبی، بویئ وہقف لیڑہ مطلقہ، مہبادا تشابہی بیئہ خہیال، لہبہینی عیلمی ئیلاہی و عیلمی پاسخی فی العلم.

﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ ئەمانہ بہ قووی عیلم و ئیمان و، مہیلی (الی الحق) و، ابرازی ئەسراری کائنات تہفسیری متشابہ ئەزانن و بہ کہمالی صفوہتی قلب بؤ ئیرشادی عباد ئەیکہن، بہ فیکری نقادی خویان خالص ومغشوش لیک ئەکہنہوہ، مہنعی فہساد و تہلبیسی (ابالسان) ئەفہرموون بہ دل و زوبان ئەلین: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ بہ سہبہبی متشابہ، یا بہ متشابہ ئیمانیان ہیناوہ، یا ہہیہ، ﴿كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ محکم و متشابہ لہ قورئان و لہ اکوان لہ تہرف خویہ، مرجعی متشابہ بو محکمہ، بؤ اربابی نظر و کیمیا گہرانی ہونہروہر ہوئدایہ، بہینی محکم و متشابہ، بین الارض والسمایہ.

﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (تذکر و تدبر) ناکا، الا ئەوانی، کہ صاحبی حسنی نظرن، زہنیان بہ قووتہ، بؤ کہشفی حقائق نظریان نفوذ ئەکا، لہ بہردی رہق بی، شہقی ئەکا، ئەزانئ، کلورہ، ئەوانی بی لب و خلاصہ بن، سہرسہری و سطحی بہسہر شتدا ئەرؤن. چی تیایہ ؟ ہیچ! گیل و گہوج لہ ئەسراری نازانی، کہسی بہ ئینصاف بی تقلیدی (سلف و خلف)، تہماشای سیرہتی علمای دین و طبیعت بکا، ئەزانئ کہ متشابہ مہنشہئی ترقی عیلمہ، احکامی ادیان و احکامی اکوان، ئەگہر لہسہر بساطت برؤیشتایہ دینی موجودات زؤر بسیط و سادہ ئەبوو، عیلم بی قیمت، عالم بی سعی، طبابت و کیمیا، اصلا نہدہگہیشتہ ئەو دہرہجہیہ. ئینسان شتی کہم لہ فہوقی مہیموون ئەبوو، تا قووتی لہ عالمدا زیادبی، خفای طبیعت زووتر فہم ئەکا، (ہمس الخطابی) طبیعتی چاتر گوئ لی

ئہبئ و، تا تشابہ لہبہینی اشیادا شدیدتر بئ، قووی تہفریق زیاد ئہکا، قووت لہبہینی علمای تشبیہ، قوویان گہیشته دہرہجہیئ، گیایان ہیئناہ دہرہجہی ئاوریشم! ئہگہر قووی فارقہ نہبئ، عالم چی بہسہردئ؟ .. دیمان بہ ملیؤن خہسارہت لہ نہزانان کہوت، تا لہ ئہہلی عیلمہوہ پئیان گہیشتن، فہرقی تلفون و ئاوریشمیان کرد. حہیفہ علمای دین بہ ناوی (سہلہفی)، لہ حقانقی دین محروم بن و، عالہم لہ گئژاوی تشابہدا بہئلنہوہ .

چؤن تصور ئہکرئ ئاہتئ لہ تہرف خوا بؤ پیغہمبہری خؤی بنیرئ و، عباد نہیزانئ و بلئین: «استائر اللہ بعلمہ» و بعضاً بعضہ أصفیای خؤی بہ طریقی غہیرہ مکتسب بؤ بہشہر اطلاعیان ئہداتئ؟ ذاتہن ہہر بہو نہوعہ بؤ کہشفی حقایقی موجوداتیان لہ کیس خؤدا... بلئ ئہمہ ئیشی خواہہ .. قسہ لہ طبیعت مہکہ کافر ئہبی .. ہہر خوا مؤثرہ .. ہیچ (قوی) تاثیری نیہہ .. ئاو و ئاگر بؤ تیراوی و سووتانی فہرقیان نیہہ، ہہر خوا پاش خواردنہوہی ئاو، تیراوی خہلق ئہکا، پاش ماسہی ئاگر سووتان خہلق ئہکا .. نہساغی خہلاتی خواہہ!! ہہتا بعضیک تداوییان لا حرامہ .. لایان وایہ مقابلہی خواہہ ... ناپہزاییہ بہ خہلاتی خواہی .

تاکو بہجاری ہہموو اسراری دنیا و موجودات لہ دہست چوو، خوا ئہیزانی، ئہگہر فرقہی حکمای ئیلاھیون نہبان، علمای ئیسلامیش فہرقیکیان لہگہل علمای جوو و دیانان نہدہبوو، ہہر کہسئ ئہمین و عاقل بوویئ، لہ علمای ئیسلام ازالہی پہردہی لہ متاشبہات کردوہ، بہ وہجہی لایق پووی حہقی بہدہر خستوہ، ئہگہر بہ تفویضی عیلم لئ بگہررئین، لب و رسوخی فی العلمی چی پئ ئہوئ. بلاہت و بساطہت کافیییہ، ئہگہر بہ تفویض لئ گہررابان، ئہو ہہموو عیللہتانہ چؤن تداوی ئہکران .. میکروہ کوو کہشف ئہبوو؟ قووتی کہہرب، ضیای پونتکین، قووتی پادیوم، چؤن بہدہر ئہکہوت، کوو بؤ نہفعی عباد تہسخیر دہکرا؟ لہ بہعضی

اشعاری کوردی خۆم عه‌رضم کردبوون:

مه‌لای نادان به عنوانی شریعت

حه‌رامی کرد له تو عیلمی طبیعت

له بۆی هه‌ر له ئه‌و عه‌رده به‌ده‌رکه‌وت

له زێر و زیو و توج و پاقر و نه‌وت

به کلی که‌وته ژێر ده‌ستی فه‌ره‌نگان

چیاو چۆلان ده‌تۆررن وه‌ک پلنگان

بیان نۆرئ، چیا‌یان چون ئه‌کۆلن..

هه‌تا که‌ی ئێوه هه‌ربه‌رمال به‌کۆلن؟

(حقیقه) ئه‌گه‌ر ئیش له‌به‌ر ده‌سی علمای (ملیون) دابایه، اصلاً دینی

حیکمهت ته‌ره‌قی نه‌ده‌کرد ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ یا الهی. دللی

ئیمه کول نه‌که ی، مه‌یلی باطلی پی نه‌ده‌ی له‌پاش ئه‌وه‌ی، که هیدایه‌تت

داین. حقیقه، مه‌یلی پاش ئیمان و هیدایه‌ت، گه‌لی خرابتره له‌زه‌یفی پیش

هیدایه‌ت، ئه‌و نه‌وعه که‌سه خۆی به‌حامی دین، حافظی شه‌رع ئه‌زانی،

سه‌ددی سکندهره له‌به‌ینی هه‌ق و باطل، علاجیان نا‌کری، اصلاح نابن..

﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (۸) ره‌حه‌ته‌کمان پی که‌ره‌م که

له‌ته‌ره‌ف خۆت، ده‌رحه‌ق عباد له (زیغ و ضلال) نجاتیان بده‌ین، ئه‌تۆ

به‌پاستی هه‌ر ئه‌تۆ صاحبی عطای زۆری.

وه‌ک عه‌رضمان کردن ئه‌وانه‌ی دوای متشابه ئه‌که‌ون، صرفی نا‌که‌ن له

مه‌عنای لغوی، به‌لکوو حرفیاً له‌سه‌ر مه‌عنای (لغه‌ت) ته‌فسیر و ایضاحی

ئه‌که‌ن. مثلاً له (آیه‌الکرسی) ئه‌فه‌رمووی: «وسع کرسیه السماوات

والارض» کورسی وه‌ک هه‌موومان ئه‌یزانین، ئه‌و جسمه مخصوصه‌یه، که

ئینسانیک، شه‌خصیک له‌سه‌ری دانیشی، جی‌ی دووانی له‌سه‌ر نه‌بیته‌وه..

جالس پرری بکا، یا کہمی له جالس زیادبئی، ئەلین جەنابی حەق لەسەر کورسی دائەنیشی پرری ئەکا، یا کورسی سی چوار ئەنگوستی لەو زیاترە .. لەوانە عاقل تر، کہ گوئی له عەرش ئەبئی، ئەلی عەرش تەختی پادشاھە، واسعە .. کورسی حەقی وزرایە لەسەری دانیشی، یا چاویان بە بعضە پیاوی گەرە کەوتوو، کورسی گچکەیان بۆ دادەنن .. کہ لەسەر تەخت دانیشت لاقی لەسەر دادەنی! . ئیمامی مفسرین «نقال» گەلی لەو نەوعە پوایاتی ھەییە، کہ بیستیان «علی العرش استوی» استواء مساواتە (علی) بۆ استعلائیە، کەوابی مەعنای خوای تعالی لەسەر عەرشە، مساوی یە لەگەڵ عەرش، بعضی بۆ زیدە علویەتی خوا ئەلی: لە عەرش بلندترە بە (بعدی) متناھی، یا غیرە متناھی!

سەیری ئەو جەھالەتە!! بعدی غیر متناھی لە بەینی عەرش و خوا!! بیگومان ئەو نەوعە مەعنایانە لە مەیلی حسە، کەسی بە عەقل تەماشای بکا، نەختی لە ئایاتی محکم بفرکری، ئەزانئ ئەو مەعنایانە اصلا پرئی نی یە . «غنی عن العالمین، رب العالمین» چۆن لەسەر شت دادەنیشی، کہ مخلوقی خۆیەتی؟ وجود و قوامی عەرشی و کورسی و سماوات و ئرز لە خوایە، ئەو نەوعە ئایاتە، کە ی مەلا ئەیزانی؟ لەسەر تەخت و کورسی دانیشتن قەدر نادا بە مەلیک . مەلیک قەدر ئەدا بە عەرش و کورسی مەملەکەت . کەسی عمری خۆی لەسەر حەسیر لە بن کوخ و زنج دانیشتی، تەختی نەختی بە زینەت ببینی، ئەو ی لەسەری دانیشتی یە بە «أعظم من فی الارض» حساب ئەکا .

ئەلین: عەرەبی ھاتە حضوری ھارون الرشید، بەو حیشمەت و جلالە ی لەسەر تەختی عالی دیت، وتی: «السلام علیک یا اللہ» وتیان ھەو نی یە، بەرە ژیر وتی: «السلام علیک یا رسول اللہ» وتیان ھەو نی یە .. بەرە ژیر .. ئەوجا وتی: «السلام علیک یا امیر المؤمنین». دیققەت بکەن ئەوانی بوون بە پۆسای عقائد، اکثری لەو نەوعە (بدوی) یانە بوون .. پەش و پووتی قاووت و

جورج خور له کلامی ملووکانه چۆن تیئەگا، هەر حەملی ئەکاتە سەر مفکور و مخیلاتی خۆی.

ئەلین: «فردەوسی» له حەپسدا، بەعضاً متاثرانە اشعاری ئەخویندەووە و پیاویکی پیر له محبس بوو، تا فردەوسی ئەی خویندەووە، ئەویش ئەگریا.. فردەوسی شەوق و زەوقی زیاد ئەبوو، پۆژی لێی پرسى بۆ ئەگریی؟ وتی: «وہ صیہقەت بم، من نییری باشم هەیه له ناو پەت، کە تۆ ئەخوینی پێشت ئەجولیتەوہ، بییری نییری یەکەم ئەکەم.. له وەقتی کاویژ ئەویش پێشی وەک پێشی تۆ ئەجولیتەوہ». خوا ئەیزانی لالۆ له اشعار خویندەووەی فردەوسی چەند استفادەى کردووە، ئەوانیش لەو نەوعە ئایاتە هەر هەندە.

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ ﴿٩﴾ ﴾

یەکانە سەبەبی ئەو خزەبلاتە، ئیمان نەبوونە بە پۆژی قیامەت، ئەی خودای ئیمە تۆ ئینسانان خپ ئەکە یەوہ له پۆژیکی، هیچ شکی تیدا نییە، بەراستی جەنابی حەق خەلقى میقات ناکا له وەقتی خۆی ئەو پۆژە ئەهینى، ئەو وەقتە جەزای خپرو شەرر ئەدرى. له تحقیقاتی «سەلەف» زانیتان، کە متشابە له قورئان و سائری کتبی فرقان، له لوازمی تشابہی اکوانە، ئەویش باعشی تەررەقی عیلمو عرفانە بۆ خاوەنى عەقل، کەسێ (زیغ) ی دلای هەبى، خۆی بە داوی محسوسات بەند ئەکا، نە له ئایاتی منزل، نە له ئایاتی مکون، استفادە ناکا. قباحتی خۆیەتی، نەقص له قورئان دا نییە. یەکیکیش له اسبابی اهتدا نەبوون، حبی دنیا یە.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ به خۆررایى به حبی اموال و اولاد، خۆیان پابەند

ئەکەن. مال و وەلەد، چ کەلکی ئەوان ئەگری؟ ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا

أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ دائماً محتاجی خوان له هەنگامی چوونە دەر له دنیا،

هیچت له گەل نابى، وەک (حاجی قادر) ئەلین:

دوو گهز زهمین و سئ گهز جاو و مسته خۆلئیکه
لباس و پئخهفو رایهخ ههتا دهگاته سههرین

گهلی کهس ئهوهشیان چهنگ ناکهوی، لهسهه مزیلان سهگ ئهیان خوا.
له پۆژی قیامهت غهیری ئیمانی صحیح و عملی صالح، هیچت به که لک
نایی. ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ (۱۰) لهگه ل (حجاره) اختیاری ضلال لهسهه
رشد به پابهندی جاه بوویته رهوشت، رهوشتیکه ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ﴾
ئهوانیش لهبهه سهروهت و سامان و سلطنهتی، تکذیبی موسایان کرد،
ئیمانیان پئ نههینا. لای ئیوه ئهی کافرانی ئههلی کتاب! معذور نین به
ملعون و کفریان.. ئهزانن، مع انه مولک و سلطهتهتهتی ئهه، له کوئی و ئی
ئیوه لهکوئی؟ بالخاصه (موسی) له قهومیك بوو زهلیل و بهردهستی ئهوان،
لقیظه هه لگیراوهی ئالی فرعون و بهخۆکراوی ئهوان.. (مع هذا) به خۆو
دارهکازی هه ل کوتیته سهه فرعون، بلئ ئیمانم پئ بهینه، اتباعی من بکه..
ئهه معذور نهبی، ئیوه معذورن؟

﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ رؤسا و سلاطین، دهبارهی پیغهمبهری عهصری
خۆیان، ئهوانیش ئهه دهئبهیان ههبوو، ئیوهش ئهگهه له زهمانی واندا بان،
وهکی ئهوان ئیمانتان به موسی و سائری انبیای عهصر نهدههینا. ﴿كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا﴾ وهک ئیوه ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ که ثمرهی شجرهی کفریان بوو،
لاشک ئیوهش ئهگرئ ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (۱۱) به مال و وهلهه نهجاتتان
نایی و، به قووهتی جسمی معارضه ناکرئ ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ به واسطههی
غروری به ثروهتی دنیا، قووهتی خۆتان، هه ل مهخه لهتین. مال بوو حهرب
معینی باشه، بهلام ئهوهی پابهندییه، دلئ لهدوو بهرنادا له موقعی خۆی
سهرفی ناکا، قووهت و مکنهت پایهدار نییه، دنیا ئهگورئ تقلباتی زوره،

وہک حاجی قادر ئہ لئی:

ئہمین مہبہ لہ سبہینئی ئہوہت بہ سہردینئی
حوادثاتی زہمانہ کہ ناییتہ تہخمین..

﴿سُتَغْلَبُونَ﴾ ژیر ئہکھون لہ دوو مہیدانان، مہیدانی قتال و مہیدانی
جدال ﴿وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيُنْسُ الْمِهَادُ﴾ ﴿۱۲﴾ فہرشئی خراپہ ﴿قَدْ
كَانَ﴾ لہ سالفی زہمان ﴿لَكُمْ﴾ بۆ ئیوہ ئہی ئہہلی کتاب ﴿آيَةٌ﴾ ئہمما چ
ئایہت؟! حقیقہ پاش ئہو ئایہتہ، نہدہبا ئیوہ مغرور بن. ئایہت و
عیبرہتہ کہ ﴿فِي فِتْنَتَيْنِ التَّقَاتِ﴾ تووشی یہک بوون، یہکئی ئہہلی ئیمان، یہکئی
کافر ﴿فِتْنَةٌ﴾ فہریقئی، جہماعہتی ﴿تُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فئہتی (طالوت)
لہ پئی خوا شہرری ئہکرد بۆ قورتار کردنی دیارو ابناء ﴿وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ﴾
﴿يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأَىٰ الْعَيْنُ﴾ جہماعہتیکی تر کافر گوتیان: «لا طاقة لنا
اليوم بجالوت وجنوده» ئہوانی ئہہلی ئیمان بوون، نہیان گوت، بہ لکوو
گوتیان «کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله».
داود جالوتی کوشت. ضعفای مؤمن بہ سہر اقویای کافر غہلہ بہیان کرد.
ئایا ئہو ئایہتہتان لہ فکر کرد؟ ئیمہش ہہر چہند ظاہراً کہمین، ئہمما
قووہتی ئیمان غالبان ئہکا. وا دیارہ ئیوہ ئہو نہوعہ ماجہرایہ، کہ لہ
کتبی مقدسہتاندا ہہیہ، بہ حیکایہت تلقی ئہکھن لہ پوحی خبردار نین.
﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ﴾ کہ قووہتی ئیمانہ صبر و ثباتہ، تظافر و تضامنی
قہومہ ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ خوا، کہ صاحبی اختیارو ئیرادہیہ، ئہزانئی کئی لایقہ بۆ
ئہو تاییدہ، سہبہبی حقیقی (ظفر) معنوییہ، پوحییہ، ئہویش لہ دەست
خوایہ، ئالات و ئہدہواتی حہرب لہ گہل قووہتی معنوی نہبی کہ لک ناگری و
دوژمن بہ تالان ئہییا.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ عبرت پردی معنوییه، له حالئی بۆ حالئی پیئی
 ئهپه ریهوه، وهک (عبره) پرده له سه رئاو، خه لکی به سه ریا ئه رروا و
 ئه پهریته وه. که سی وقایعی تاریخیه نه کا به عبیرهت و موعظه، له حوادثی
 به سه ر خوی بی خوی قومار نا کا. له حه ربی ژاپۆن و پوسی ته ماشایان
 کرد، یه کانه سه به بی ظفری ژاپۆن لیباسی عه سکه ری بوو، که په نگی خاکی
 بوو «نه ختی دوور ئه وی خاکی بی نابیندری» لیباسی عه سکه ری پروس
 وهک سائری دوول په ش بوو، گه لی له دوور ئه بیندرا، له به رئه وه گه لی
 ژاپۆن چاکی اصابه ئه کرد. ئه ی ئه وان خوو و طالع له به رئه وه هه موو
 ده ولت لیباسی عه سکه ری حریبان کرده خاکی په نگ. ﴿لَا تُؤْتِي

الْأَبْصَارَ﴾ ﴿١٣﴾ ئه وی بصیرهت و هۆشی هه بی، شت به شت مقایسه ئه کا،
 په ندی لی وه رئه گری. بی هۆش نا گای لی نی یه.

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ ئارایش دراوه بۆ ناس، هه تا ئه وانیه به هۆش و ئیدراک
 ﴿حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ مه یلی شدید، که له دل، جاگیر بی، پابه ندی بی، مه نعی
 بکا له هیدایهت ﴿مِنَ الْإِسْكَاءِ وَالْبَيْنِ﴾ ئارایش سی نه وعه:

۱- ئارایشی به خهلق وئیجاد، ئه وه صرف عائدی خالقه، ئه وه هه موو
 اشیا ی مزین و مفتخر و قیمه تدار، غه یری خوا که س مداخله ی له خلقی دا
 نی یه.

۲- ئارایشی به راستی، که سی نه فرهت له شتی باش ئه کا، به راستی
 منافعی بۆ به یان بکری، به عیبارهتی جوان و ئه دبی خوش بخریته نه نی.
 ئه مه ش زۆر باشه، عائدی جه نابی حه ق پسل عظام و (راسخ فی العلم) ی
 ئه مین له گه ل عبادی خوا یه.

۳- ئارایشی مزخرف به وه سو سه و تسویل و تلبیس شتی خراپ زینهت
 بدا، له بهر نظری خه لک جوانی بکا، ئه وه زۆرخراپه، عائدی ابلیس و طاغوت

و شاعرانی به دنهاد و، خائن له گه ل عباده و امثالی ئه وانه . بئ گومان ئه و مشهياته و مستلذاته خوئن، ئينسان فطره مه يليان بو ئه كا، به لام محبهت به دهره جه يئ بئ، كه ئينسان پئيان به فيتنه بچئ ناشيرينه، خراپه، عاقبه تي به هيلاك چوونه . محبه تي ژن و اولاد به دهره جه يئ، كه منعت بكا له ئيمان زور خراپه، هه تا ئيستا گه ليك له رچالي ئه وروپي هه ز ئه كه ن موسلمان بن، چونكي ژنيان، يا اولاديان موافقه يان ناكا، موسلمان نابن . محبه تي اولاد له سه ر فيطره تي پاك، سه وقت بكا بو تربيه يان، فه رقي نيرومي نه كا له ئه صلي محبه ت، ظريفه، ئه ماما حبي اولادي نيروبه س، خوي نيه وهك قه ومي عه ره ب، كه كچيان زنده به گورر ئه كرد . كورديش زور كه يفيان به كچان نايئ . ئه وروپايي بالعكس محبه تي كچانيان گه ليك پتره له كورران، توركيش له و مه يله دان، حاصلی افراط و تفریط، هيچيان باش نييه .

﴿و﴾ هه روها ﴿وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ﴾ قناطر جمعى قنطاره، قنطار به مالى زور ئه لئین، بئ تعيینی مقدار، ئه وه له (ضحاك) پروايه ت كراوه . (ابو هريره) ئه فه رمويئ: سؤال له رسول الله كرا فه رمويئ: قنطار دوازده هه زار ئوقيه يه، بنا له پروايه تي (انس) هه زار ئوقيه يه و، به پروايه تيكي تر له (انس) هه زار ديناره . بنا له روايه تي (أبي بن كعب) فه رمويه تي: هه زار ئوقيه و دووسه د ديناره، له پروايه تي (معاذ) هه زارو دوو سه د ئوقيه يه . له (ابن عباس) نه قل كراوه، دوازده هه زار درهه م و هه زار ديناره . پروايه تيكي تری لی نه قل كراوه، هه زارو دووسه د دينار يه عني له زيئر، له زيو هه زار و دووسه د مثقاله . (ابو سعیدی خدری) ئه لئ: پیر به پیستی گاجوتی زيئر . (مجاهد) هه فتا دينار، (ابن المسيب) هه شتا هه زار، (ابو صالح) سه د په تل، (قتاده) سه د په تل له زيئر، يا هه شتا هه زار له زيو، (ابو جعفر) پازده هه زار مثقال، مثقاليش بيست و چوار قيراط، بعضی ئه لئین: مابه يني ئه رز و ئاسمان «ئه مه زور كه يفی له قنطار بوو!!» حاصلی اختلافیان به قنطار!

صحابه ده و له مه نده كان، وهك ئيمامي عثمان و عبدالرحمن بن عوف

قسہیان لئ نہ کردووه .. مقصد ئەمە یە بزانیین لە لغەت، یا لە تجارت بە چ قەدەرئ ئەلین قنطار. نظر بە (لغت)، قسەکە ی (ضحاك) خۆیەتی و، لە تجارت ئەگۆرئ، لە پارە ئیستا حساب لە ملیۆن و بلیون و ملیارە. ئەمەبوو قنطار، ئەمما مقنطر، یەکی ئەلئ: مضعف دوو چەندان کراو، بعضئ ئەلین نو قنطار مقنطرە یە (وتراوه)، مەحکەم و محض (انە) لە ناو سندووقی پۆلا داندراو. (وتراوه) دەفن کراو یەعنی کوکراو لە سەر یە ک داندراو، نەخۆی و نەکەسی تر خیری لئ نەبینئ، هەر بیکا بە خزینە، ئەمەش بی فائەدیە وەک ئەلئ: (برای نهادن چ سنگ و چ زر).

﴿مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ لە زێر و زیو، نە لە مازوو سیچکە و کەتیرە ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ پەوی ئەسپ و ماین، لە چراگاہ بەرەللاکراو، کەس سواری نەبی، بیھوودە پرۆا، بەس بو افتخار و خۆشی نەفس، ئەمما ئەگەر خۆی، یا خەلکی بو حفظی دین و دەولەت سواری بن، خەیلی چاکە بو ئەوانە یە .. «الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامة» ﴿وَالْأَنْعَامِ﴾ حوشتەر، پەشەولآغ، مەرر و بزئ ئەلین کابراییک لە امریکا سەدو پەنجا هەزار سەری مەررو بزنی هە یە! بۆیە خوری و موو لە ولاتی ئیمە قیمەتی نەما. ﴿وَالْحَرَبِ﴾ مەزەعە لە گەنم، جو، برنج و ئەنواعی سەوزە. ﴿ذَلِكَ﴾ ئەو مزین کراوانە ﴿مَتَكِعِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ئەوی صەرفی نەکا لە (دارین)، هەردوو دار محرومە. گەلئ صاحب میگەل هەن، دلایان ئەکزیتەوہ بو گوشت، دلایان نایە گیسکیک سەر بررن، مەگەر نەخۆش بی بیتە مردن، ئەو وەقتە بە کەمالی ئەسەف ئەکوژیتەوہ و، بە حەسرتە سندانی ئەکەن. ئەوی لە دنیا لە زەتیک لئ ببینئ اھونە، ئەمما ئەویش چەند پۆژیکە ئەبریتەوہ، ئەوی خۆشی لە زەتی لئ ببینئ و، بیشی بەخشی لە پئی خودا صەرفی بکا، وەتەن و میللەتی پئ نەجات بەدا .. بەخ .. بەخ! لەو

قانزاجه، له و سعادهته! ئەمهیه، که چهضرهتی رسالهت ئەفهرموئ: «ذهب
اهل الذور بالاجور» فهقیری قهلهندهر چی له مستدئ؟ خصوصی ئەمپۆ.
(ئهدروف) ناویکی یۆنانی وهصیهتی کرد، یهک ملیۆن و نیو لیره ی بۆ
بدن به پاپۆری ههربی، ناوی خۆی لئینن بۆ حکومهتی یۆنان، له سایه
ئوه غهلهبهی کرد لهسهه دهولتهتی عثمانی، باوجودی له پیشدا ژیر
دهستی بوو، میللهتی دی وهصیهتیان بۆ حکومهته، حکومهتیش له تعالی
میللهت وهصیهتهکه بهجی ئەهینئ. حالاش میللهتی ئیسلام له وفکره
دانییه.. بۆ ئۆمهههاندان، خالّ خالّان، پیرهههگرون، پیری دابان، خانهگای
شیخ.. له سایه ی ئەوان بوو مدرسهکان نهما. ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَعَابِ ﴿١٤﴾ حوسنی مرجع و منقلب لای خواجه، ئەوهی کهیفی به مرجعی
ئیاهی بی، بهو شهواته خۆی مهحروم ناکا. بهلکوو بۆ ئەو منقلبه خوشه
دائمی یه، بی حد و حسابه صهرفی ئەکا، ئەوهکهسه به مسراتی ههردوو
حهیات شادکام ئەبی. ﴿قُلْ﴾ ئەی رهسولی مبلغ ﴿أَوَلَيْسَ لَكُمْ بِحَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ﴾
ئایا خهبهرتان بدهمی به چاتر لهو ئەشیایه، که ذکر کرا؟ بهلئ، قوربان چی
ئەفهرموئ؟

﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ﴾ خهبهرهکه ئەوهیه بۆ ئەوانه ی خو پارین
له شهواتی نفسیه، لای خوی خویان ههیه باغات، دیمی نا، بهلکو ﴿تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وهک مهتاعی دنیا نییه، ئەمپۆ تی دای و
سبهی ئەررۆی. باغیک ههیه به سهه رهنج بهخپوی ئەکهی، فرتهنهک دی
باو و باران و تهزه و پهعد و بروسکهی لئ ئەدا، به جارئ بهربادی ئەکا،
له بهری دوو سالانی دهخا، پههههپۆ دئیه دهری^(١) ﴿وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ چ
نیعمهتی ژنی پاک، اولادیش ههیهکه سههههخۆ له مهقامی خویانن.

(١) وهک ئەمشهه و (٢٤) ی نیسانی رومی (٢٣) ی محرم قیامهتی بوو هائل.

﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ (فوق ما يتصور) خوشی ئه وه نایته دفته ر
 ﴿وَاللَّهُ بِصِرِّ الْعِبَادِ﴾ (۱۵) هه موو عباد محسن و مسيء، يا ئه و عباده
 په ره یزکارانه ﴿الَّذِينَ﴾ ئه و عبادانه ی ﴿يَقُولُونَ﴾ به که مالی اخلاص ﴿رَبِّكَ﴾
 ﴿إِنَّا آمَنَّا﴾ به ئیمانی راست، نالیین عملی چاکمان هه یه، ئه و ئه مره تمان
 به جئ هیناوه، ته رکی نواهیتمان کردووه، شهرم ئه که ن، خه جاله ت
 ئه یان گری، به لکو قصور ئه نوینن، ئه لین: ﴿فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ سه تری
 گوناھمان بکه، عه ییمان داپوشه ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (۱۶) ئه وه نده عه رض
 ئه که ن باقی ئه مری خوته ﴿الصَّكِرِينَ﴾ له (سراء و ضراء و) (حين الباس)
 ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ له نیات و اقوال، سرر و فلن راست گون ﴿وَالْقَانِطِينَ﴾
 مطیع و فرمان به ردار علی الدوام ﴿وَالْمُنْفِقِينَ﴾ له هه رچی به صلاحیان
 زانی بو قه وم و وه تن. ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ (۱۷) شه و بیدارتر له
 اسحار، خالی له اغیار، پوو ئه که نه ده رگاهی بی نیاز، به تضرع و زاری به
 ئاهی جگه ر سوژ، به چه شمی ئه شکبار. (حقیقه) ، شه و بی داری بو
 ئوممه تی ئیسلام، زور لازمه، له او له ی شه و بنوون، به قومار و له و وغه یبه ت
 و نیممی و تیاترو و سفاهه ت مشغول نابن، ئه نوون، تییر خه و ئه بن، پیشی
 به یان هه لئه ستن به ده ست نو یژی خاوین پوو ئه که نه خوا، فریضه ی خویان
 زوو به جئ ئه هینن، ئه و جا به مصالحي دنیا خه ریک ئه بن.

جه نابی حه ق له ئایاتی هه ر دوو کتاب بو اولو الالباب، ئایاتی بیناتی
 له سه ر و حدانیه تی خوی داناوه به نه وعی، که بزاندری ئه دنی شه به نی یه له
 به یینی خوا و موجودات، فه ضل له تشابه امتیازی ذاتیه، قابلی تلبس و
 اشتباه نی یه، ئه مه ش شهاده تیکی فوقی شهاده تی لسانی یه. که سی
 ته ماشای ئه و ئایاته بکا، (زیغی) له دلا نه بی، به تصدیقی جازم و ثابت له

عمقی دلّه وه ئه‌ئێ:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ اصولی کائناتی محکمه مولداتی متشابهااتی په‌بطی قاعده کردوه، قواعدی لا یتغیره، طبیعهتی مسخره. حاصلی خوا مدبره، خوی‌تر نابئ، وه الا (اله) ئه‌بئ به متعدد، داخلی طبیعیات ئه‌بئ به‌غیبری ئه‌و، کهس (اله) نی‌یه، هه‌رچی هه‌یه مخلوقه وه‌کی سائری مخلوقاتی تر ﴿وَالْمَلٰئِكَةُ﴾ ئه‌وانیش شاهدن له‌سه‌ر وحدانیهتی ئیلاهی، هه‌ر که‌سئ هاتبئ وه‌حی بۆ پسلی به‌شه‌ر هینابئ، له‌ته‌ره‌ف خوی‌یه‌کی واحد هاتووه، ئه‌گه‌ر خوی تر هه‌با مه‌له‌کیکی ده‌هه‌نارد بۆ ده‌عوته، ئه‌لای خوی نه‌که‌س هه‌ناردوو‌یه‌تی نه‌که‌س هاتووه ﴿وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ ئه‌وانی (راسخ فی العلم) له‌و زومره‌یه‌ن، پسلی کرام مطلعن له‌سه‌ر ئه‌سراری کائنات جهه‌تی وه‌حده‌ت و تشابه له‌ جهه‌تی کثرت و تخالف فره‌ق ئه‌که‌ن.. متشابهاات په‌بط ئه‌که‌ن به‌ محکماات، جئ‌ی شکوک و شبهاات نایئلن. شه‌هاده‌تی هه‌ر سئ له‌ یه‌ک ته‌رزه، تحریری‌یه.. تقریری‌یه.. تصویری‌یه.. ئیرشاده.. امتیازی شه‌هاده‌تی ئیلاهی به‌ خه‌لق و ئیجاده، جه‌نابی حه‌ق له‌ ئه‌دای شه‌هاده بۆ شرح و ایضاحه ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ وه‌ظیفه‌ی عداله‌ت، که‌ حه‌قی وایه به‌جئ‌ی ئه‌گه‌ییئ‌ی. ئه‌وانی عاقل و متدبرن، قووه‌ی انتباهیان هه‌یه، فره‌ق و تمییز ئه‌که‌ن بۆ خاتری تئ‌گه‌یانندی ناقص العقلان، ئه‌وانی مغلوبی (حب الشهوات) ن تئ‌بگه‌ن، که‌ جه‌بری ئه‌و نقصانه‌یان بۆ ببئ.

په‌روه‌ردگاری معدله‌ت کردار، به‌و نه‌وعه ئه‌دای شه‌هاده‌ت‌یان بۆ ئه‌کا و، کذلک ملائکه‌ی علمای راسخ (اقتداءً بالاله العادل قائمین بالقسط بلا زیغ) و بئ مه‌یل ئه‌دای شه‌هاده‌ت ئه‌که‌ن، دیاره له‌م شه‌هاده، (قیام بالقسط) ئه‌بئ، بۆ ئه‌وانیش ببئ، نه‌ک خاص بئ به‌ جه‌نابی حه‌ق، به‌لکوو (قیام بالقسط) ی شاهده له‌سه‌ر قیام بالقسطی ئه‌مان. ئه‌مه‌نده هه‌یه ئه‌و متبوعه، ئه‌مان تابعن، لی‌ره متبوع مغنایه له‌ تابع.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿۱۸﴾ ئەوہ ئیشارہیہ بۆ دەلیلی علی وجہ الخلاصہیہ، ھەرئەوہ قادری مطلق، غالب لەسەر طبیعەت. عالم بە ئەسراری خەلق و ئیجاد، واضعی ھەر شتە لە موضعی لائق بە خوئی، تنظیم و ترتیبی کائانات بەو وەجھە بدیعە، ملائکەیی ذوی الاقتدار، علمای اولو الابصار، ھەموویان عیلم و قودرەتیان محدودە، وەکو حکما ئەفەرموون: قووی جسمانی ئەگەرچی (فلک الافلاک) بێ، متناھی یە ^(۱).

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ دینی فیطری لای فاطر، بە دین حسابە، دینی عقلیە، دینی معدل حکمتی طبیعیە، نظمى کائاناتە، ئایاتی وەک ئایات، محکم متشابھاتە، دینی حریەتی فیکر و طہارەتی قلب و نطفەتی بەدەن و صلاحی عمل و تیکوشینە، دینی بئ-مەیل و محابایە، مایەتی سعادەتی دنیا و عقبایە، پوحی حەیاتى مدنیەتە، اکسیری حماسەت و غیرەتە، دینی سلامە، بەلام نہ بە حیزی، دینی سیاسەتە، ئەمما نہ وەک سیاسەتی ئینگیزی، فیتنە ئەنگیزی.

من لە ئەحوالی (امم) ئەفکرم.. گەلئ جار ئەلیم، حەقی بەشەر وایە بینە دوو قسم: موسلمان و طبیعیون. باقی گشتی، فەن و فیئە و حق الانصاف بە سەھلی ئەتوانئ ئینسان ھەم طبیعی بئ، ھەم موسلمان بئ.. منافرە لە بەینی شەریعەت و طبیعەت نی، بەلکو و لدی التقدير غایەت موافقن. ئەو ئایاتی کائانات، کە خوای پئ ئەناسین، لە عەینی ئایات ئەتوانین استفادەتی دنیەوی لئ بکەین.

خولاصە واضعی دینی ئیسلام و خالقى انام یەکە، قواعدیشیان یەکە، مدرکی احکامی (کونین) و، فارقی (بین المتشابھات) و، ناظمی متباینات، عقلە.

علمای ئیسلام، نەدەبا عداوہت بخەنە بەینی دین و عقل و طبیعەت. بەلام

(۱) وەکو حکما ئەلین «لا تعطل في الوجود كذلك لا تعطل في الاسلام»

ئەوانیش مع الأسف، وەک علمای ئیسرائیلی ئەمانەیان کەم و زۆر لەیەک کردە دوژمن.

﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ گشتیان، هەتا ئیئەش لە پاش ئەو هەموو مواعظ و عبری قورئانی، تووشی اختلافی بووین لە ئی ئەوان خرابتر.

﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ الّا دواى ئەو، کە عیلمیان بۆهات. ئایاتی کتاب ئەوەندە (بین) بوو، ئەو عیلمەى لى وەرئەگیرا، وەک بدیهیات خوێ ئەهات، حاجەت نەبوو بە مشقەتی فیکر و ترتیبی مقدمات، کەوابی اختلافیان لەبەر وجەهی نظری نەبوو، تا وەکو علمای پاسبخ لە مصادماتی افکاریان بارقەهی حقیقەت دەرکەوئى. بەلکو ﴿بَغِيًّا بَيْنَهُمْ﴾ صرف لەبەر بغض و حسد و تجاوز لە حەد لەبەینی خوێان. ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ ئەوہی ئیمانی پئەنەهینئى، یا بە واسطەهی ئایاتی خوا، ئەگەر وەجەهیکى تەشابهی تیا دواى بکەوئى ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ هەرچەند حساب زۆر بئى و، ورد بئى لئى بزى نابئى ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ﴾ خاصە بە متشابەهات لە پاش اظهارى سررى متشابە، جئى مجادلە و محاجە نامینئى، الّا لە سورەتی عناد ﴿فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ قلباً و قالباً خووم منقاد و مخلص کردوہ بۆ خودای تعالی، (زیغ)م لە دلدا نییە، مەیلی (الی غیره) ناکەم. ﴿وَمَنْ اتَّبَعِنِي﴾ ئەوانیش پووین کردۆتە خودا بە گویرەى دینی حنیفی ابراهیم، دەعوەتی خلیلە خوا بۆ ئیئەى قبول کردیە ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ لە یهود و نصاری ﴿وَالْأُمِّيِّينَ﴾ لە عەرەب و کورد ﴿ءَأَسْلَمْتُمْ﴾ وەکو ئیئەه ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا﴾ بە تەواوی بئى زیغ و مەیلی ئەم و ئەو ﴿فَقَدْ أَهْتَدَوْا﴾ بە پاستی پاش ئەو هتدایە، کفر و ضلال بۆ ئەوان لە مقولەى (مستحیلات) ئەبئى،

دلیان بە مەیلی فاسد ژەنگدار نابێ. ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ﴾ تەبلیغ لەسەر تۆ، وە هیدایەتی قلبی عائدی خوایه، ئەگەر قابلیەتیکیان هەبێ لە فەیزی خۆی، محرومیان ناکا. ذاتاً اول و آخر وظیفە (رسالەت پەناە) دەعوەتە، چونکی حوکمی ئیلاهی پێگەشت و پەفتار ئەکا، سیطرە ی قەلبی عائدی ئەو نی یە. ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾ حقیقەتی قابلیەتیان هەر ئەو ئەیزانی «ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون» وەک تێپەرری لە سورەتی (بقرە)، کەوابی ئەو حوکمە مقررە بە تۆپی هاون، بە بۆمبا ازالە ناکی، فضل لە شیروتیر.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ بە دەوام و استەمرار انفکاکیان لەیەک نابێ ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ﴾ کانه بغزی نبووت لە دلیان قەرار گیر بووه، هەر پیغه مەبرێ دەسەلاتیان بەسەردا بشکی، دەی کوژن، کبریان مانعە لە قبوولی حەق، بێ ادنی حەق قەصدی کوشتنی پیغه مەبران ئەکەن.. وانی یە لەبەر شخصی تۆ بێ! ﴿بَغِيْرِحَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ دیارە هەر کەیفیان بە عدل و حەق نایی، وە الّا بۆ قەصدی کوشتنی ئەوان کەسانە ئەکەن، کە ئەمر ئەکەن بە عدالەت، لە انسانان هەر کەس بێ ئەگەر چی لە خۆشیان بێ. «قتل» لیڕە بە معنا «قتال» غایەت جوانە، موافقە معنی لەگەڵ قرائەتی «حمزە» و «یقاتلون»، یەعنی شەرر لەگەڵ پیغه مەبران ئەکەن بە قەصدی قتل، وە لەگەڵ ئەوانە ی ئەمر بە چاکە ئەکەن.

﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ بەشارەت و موژدەیان بەدە یە بە عذابێ زۆر بە ئییش. دیارە کەیفیان بە عذاب دی، بۆیی سعی لە اسبابی موجبە ی. یا بەشارەتیان بەدە یە بە مغلوبی و منکوبی شەرر بکەن، ژیر ئەکەون لە دەرەجە ی کبرو انانیەت، ئەکەونە دەرەکی ئەسارەت. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ

﴿حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ ہرچی کردیان بؤعداوت و عنادی لہ گہل تو، بؤ کوشتنی حسی و معنویہت بہ خوررای چوو ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ نہ لہ دنیا کہ لکی گرتن «لله المنة»، پوژ بہ پوژ دینی ئیسلام لہ تعالیٰ دایہ، شہو کہ تی زیاد ئہ بی، دوژمنان مغلوب ئہ کا، لہ قیامہ تیش دیارہ مایہ پووچن ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ ﴿۲۲﴾ نہ لہ دنیا و نہ لہ ئاخرت، ئہ وانہی بہ تہمایان بوون لہ ہر دووجیہان بون دەرچوون. فدیہ و اخوہت و شفاعت نیہ، بہ امیدی ئہ وانیش خویان محروم کرد، لہ ئیمان و لہ عملی چاکہ .

﴿الَّذِينَ﴾ ئہی حہضرہتی پہسول ﴿إِلَى الذِّبِّكَ أَوْ تَوَّانَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ نابینی ئہ مانہی، کہ (حظ) و بہ شیکیان دراوہتی لہ کتاب، کہ تہوراتہ ئہمما انجیل ہیچ، ئہو لہ زہمانی (عیسی) تدوین نہ کرا و پاشان ہرکہ سہ بہ زویانی ئہو، ئہوی بہ خاطرہی داہات نووسی، ناوی لئنا انجیل و احتمال ہہیہ بعضہ آیاتیان لہ فیکر بووبی، کہ وابی ئہویش ارادہ بکری زہرہر نیہہ ﴿يُدْعُونَ﴾ لہ تہرف خوی پیغہمبہری خوی ﴿إِلَى كِتَابِ اللَّهِ﴾ بانگ ئہ کریں بؤ کتابی خوا، کہ قورئانی کریمہ و کتابی حکیمہ ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ ئیمانی پی بینن، حوکمی لہ بہینی خوٹان پی بکن، حہق و باطلی پی جوایز بکہ نہوہ ﴿ثُمَّ﴾ لہ پاش ئہو دعوہتہ ﴿يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ اعراض ئہنن، پوو وہر ئہ گیرن، طبعاً ہموو نا.. کہمی موسلمان بوون اطاعہیان کرد ﴿وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ ﴿۲۳﴾ ئہو فرقہ خوئیانہ، شیوہیانہ اعراض لہ حہق نان .

﴿ذَلِكَ﴾ ئہمہ بؤچ؟ ﴿يَأْتُهُمْ﴾ بہ سہ بہب ئہوہ، کہ ئہوان ﴿قَالُوا﴾ گوتیان وہک باوو باپیرانیان ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ ئاگر سہ ہلہ، تحملی ئاسانہ .. (شعب اللہ)ن، ہرچی بیکن لای خودا معفون. ﴿وَعَرَّاهُمْ فِي دِينِهِمْ﴾

مغروری کردبوون، هه‌لی خه‌له تاندبوون له دینی خویان ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ۲۴ ئەوی له سالفی ایام به افترا ئەیان گوت: ئیمه ابنا‌اللهین أحبای ئەوین، له ذریاتی پیغه‌مبه‌رانین، خودا وه‌عدی له‌گه‌ل یعقوب دایه، ابنای ئەو عذاب نه‌دا (الا تحله القسم)، ئەو افترايه به شیدده‌تر هاته ناو دینی ئیسلامی. گه‌لیکی مال‌و‌پیران کرد، له سه‌عی محروم بوون، تی‌نه‌کۆشین، په‌کیان به سیئات نه‌که‌وت، بوونه حجاره‌ی وقوودی نار ﴿فَكَيْفَ﴾ حالیان چۆن ئەبێ ﴿إِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْمٍ﴾ له پوژئی گرد بوونه‌وه ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، که گومان نی‌یه له بوونی، نه‌له‌وه‌ی تی‌یدا ده‌بێ ﴿وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ له انبیاو ذراری انبیای اسرائیلی و اسماعیلی.. ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ۲۵ به ته‌واوی جزا وه‌رئه‌گرن، به‌شاره‌تیان ده‌بێ، له‌و مغرورانه زهره‌بیک ظلم نا‌کری، ئەوه‌ی سه‌عیان بو‌ئه‌کرد له عذاب و عقاب، به ته‌واوی ئەیان دریتی، وقتاً که له ئایاتی پیشوو معلوم بوو، حرمان له نیعمه‌تی ئیمان دوو سببی هه‌یه:

۱- حبی مزخرف شهواتی نفسیه‌ی بهیمی‌یه.

۲- غرور به افترائیات به مفتریاتی دینی اتباعی متشابها‌ت، به وه‌جه‌ی تشابه تخصیصی سلطنت و نبوه‌ت، به شه‌عبیک بو‌ابطالی و افکاری فاسده و اظهاری حقی صریح ئەفه‌رموئ: ﴿قُلْ﴾ یا په‌سو‌لی هادی بلی: ﴿اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ﴾ ئە‌ی خواوه‌ندی ملک و ملکوت و، ئە‌ی خواوه‌نی لاهوت و ناسوت و ئە‌ی مدبری امور، ئە‌ی واهبی مواه‌بی مکتسب و مفطور ﴿تُوْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ﴾ تۆ عطا ئە‌که‌ی ملکی مادی و معنوی، سلطه‌نه‌تی حسی و روحی به که‌سێ خۆت چه‌زیکه‌ی، خواوه‌ندیکی په‌روه‌ردگاری له ئیش و کاری خۆت مختاری، مطلق التصرفی، به اختیار مقدسی، له قیدو به‌ند و حجر و

انحصار و اجبار. ﴿وَتَنْزِجُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ دادهررنی مولک و سلطه‌نهت، عیزهت و عظمه‌تی مادی و معنوی، حسی و پوچی له کهسیک خۆت ئاره‌زوو بفرمووی، خانه‌دانی ئەکه‌یته محتاجی نانی، گوانی ئەکه‌یته محتاجی سفره و خوانی، شاه‌ی ئەخه‌یته چاه‌ی، نه‌فه‌ری ئەبه‌یه سه‌ر ئه‌ورنگی خسروی، ئەی که‌ی به پادشاهی صاحب ده‌ست و چاه‌ی.

﴿وَعَزُّ مِنْ تَشَاءٍ وَتُذِلُّ مِنْ تَشَاءٍ﴾ له دین و دنیا، ئەوی ئاره‌زوو بکه‌ی زه‌لیل بی، عه‌زیزی ئەکه‌ی، عه‌زیز بی، زه‌لیلی ئەکه‌ی، عیزهت و زیلله‌ت لازمه‌ی شه‌خصی (دون) شه‌خصی، قه‌ومی دونه قه‌ومی نی‌یه ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ چاکه به ده‌ست تووه، ئەوی بیکه‌ی ئەیکه‌ی له جیهه‌تی چاکه. که‌سی بی له سلاله‌ی خلفا بی، که بالذات لیاقه‌تی نه‌بی بو گوانی باشه. نه‌فه‌ریکی لایق و زه‌کی و ماهر، آزاو به علم و ادراک، مدبر سیاسی لایقی ده‌یه‌می خسروی‌یه، ئەگه‌رچی له شوانان بی، بو‌یی نافه‌رموی «والشر» تاریخ ئەو نه‌وعه‌ی تقلباته‌ی زۆر دیوه، خاصه‌ی ئی‌مه له ظرفی هه‌شت نوو سال انقلاباتیکمان دیت، محیر العقول. چه‌ند پادشاه و شاهو امپراطور مولکیان لی دارندرا و ده‌ربه‌ده‌رکران. چه‌ند حکومه‌ت شکلی ئیداره‌یان گوررا، چه‌ند خانه‌دانی قدیمی مولک و سلطه‌نهت، ئاواره‌ی دار و دیار بوون، که نه‌ده‌هاته خه‌یال و ته‌خمین.

﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ به‌لام ئەوه‌ی بیکا، الا جهه‌تی خیری تیدا رعایه‌ت ئەفه‌رموی، چونکه هه‌م قدیره و هه‌م حکیمه. ئەو تقلباته‌ی غریبه‌ی وانی‌یه هه‌ر له جیهه‌ت مولک بی، له زه‌مانیشدا هه‌یه. ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ شه‌و ئەهاوی‌یه ناو پوژ، هه‌مووی. یا بعضی‌ک.. که‌م یا زۆر. وه پوژ ئەخه‌یته ناو شه‌و، به‌و نه‌وعه‌ی تساوی شه‌وو پوژ (علی التحقیق) ناده‌و، ظاهرأ ئەبی، که شمس بکه‌ویته سه‌ری به‌هار و سه‌ری

پایز، که له و دوو نقطه‌ی لادا، دریژی شه و پوژ ئه‌گوررین، تا مملکهت له (استوا) نزیکتر بی، اختلافیان به مده که متره، تا به لای قطبه وه بی، چ شمالی چ جنوبی، اختلاف زۆرتره، له اواخری اقالیم نظام ته‌واو ئه‌گوررین، تا کو شه و پوژیکیان ئه‌بیته سالیکی ئیمه. له نصفی پوژ ئه‌که‌ویته ناوشه‌و، له نصفیک شه و ئه‌که‌ویته ناو پوژ. ئه‌و احوالی له وه‌ضعی ئه‌رز و پوژ په‌یا ئه‌بی، عیلمی هیئهت به تفصیلات بو ئه‌و احوالاته کافله، ئه‌گه‌ر که‌سی عیلمی هه‌یئهت که‌می، بزانی له و پریگه‌یه تووشی کفریات نابی، ئه‌زانی ئه‌و وه‌ضع و ئه‌ساسه له ته‌ره‌ف خواجه، کاری (عیسی و علی) نیه. ناتوانم بلیم (عیسی) به ته‌واوی عیلمی هه‌یئهتی زانیبی، احاطه‌ی به احوالی ئه‌رز دابی. من دوا‌ی قه‌ومی خۆم، که کورده تاسف بو یۆنان له هه‌موو میللهت زیاتر ئه‌که‌م، ئه‌و علومانه له ئه‌وانه، حکمای یۆنان منبعیانه. چون ده‌ستیان له و حکمیاته هه‌ل‌گرت بوون به (عیسه‌وی)، (حقیقه) جی‌ی تعجبه قه‌ومی کوردیش پاش ئه‌و هه‌موو عیلمه، که له کوردستان دا بوو، چون وا زوو به ته‌ریق و مه‌ریق گورران، خولیای کراماتیان که‌وته سه‌ر، عیلمیان لا مبعوض بوو، تووشی ئه‌و جهاله‌ته هاتن، نه‌ک هه‌ر عوامیان، به‌لکوو ئه‌وانه‌ی لای ئه‌وان له اخصی خواصن. نه‌ایهت سه‌ری کیشا بو ئه‌مرو، که له سایه‌ی طریقی نقشبندی فضل له عیلم، شجاعهت، سخاوت، غیرهت، که له مزایای کوردان بوو لایان نه‌ما «انا لله وانا الیه راجعون» ئه‌و تقلباته نه‌ک له زه‌مان و مکان، به‌لکوو له عاله‌می حیاتیاتیش دا هه‌یه ..

﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ زیندی له مردی ئه‌هینی‌یه ده‌ر ﴿وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ

الْحَيِّ﴾ بالعکس.. یه‌که‌میان وه‌ک ایلاجی لیله له نه‌ار، که پوژ وه‌قتی حرکاته، دووه‌میان مقابلی ایلاجی نه‌اره له لیل، چونکه شه و وه‌ختی ئارامو سکونه. ئه‌و زیندی و مردی‌یه عیبارته له‌چی؟ احتمالاتی زۆره، هه‌مووشی

جوانہ .. حیوان له نطفہ یه و نطفه له حیوان، نبات له حبه و حبه له نبات، دار له ناوک و، ناوک له دار، جاهل له عالم و، عالم له جاهل، پاک له پیس و، پیس له پاک، صالح له فاسق و، فاسق له صالح، کافر له مؤمن و، مؤمن له کافر، زیرهک له نازیرهک و، نازیرهک له زیرهک. کهس نه لئج ئه و زاته مادام پیغمبهره، ئه بی له پیغمبه ران، یا له چاکان بی، ئه وی اولادی ئه وه، ئه بی پیغمبهر بی علی الاقل، ئه بی چا بی. ئه وه خانه دانی سلطنه ته، هه ر ئه بی ئه و پادشاه بی. ئه وه کورره جوتیار، ئه بی هه ر جوتیار بی؟! خوا ئه زانی بعضه اولادی خانه دانان هه یه، له هه موو خصوصی له بنه لۆکی دو مان هیچ تره .. ئه وانی منسوبی خانه دانی نبوو ه تن، جه نابی فاطر چ مزیه تی فیطری نه دانی، تابلئین لای خودا ممتازن! ئیتر خیالاتی ئه و حه شیشه کیشانه، لای خوا قیمه تی نی یه، قیمه تی ئینسان عه قلّه، عیلمه، تقوایه، اعمالی چاکه یه، اخلاقی فاضله یه، ئه وه نده بۆ فهمی مقصد کافی یه حه یات چی یه؟ حقیقه تی نازاندی، به لام آثاری (ذی الحیاة) معلومه، حرکه ی زیندی له گه ل حرکه ی جماد جیاوازه ... حه یات مه نشه ئی له چی یه؟ له ئه رز په یا بووه، یا له ئاسمان بۆی هاتووه؟ ماده ی حیوی له ماده ی غیره حیوی نشات ئه کا، یان نا؟ علمای طبیعه ت قسه یان زۆره، حقیقه تی حال به علم بۆیان که شف نه بووه و، که شف نابی.

به وه پازی نین، که حه یات له ما فوق الطبیعة بۆ عالیه می طبیعه ت هاتووه، به لام ئه و ئایه ته باسیان ئه داتی، ناعیلاج چاره نی یه، ئه بی به دل بلین اخراجی ماده ی (حی) له ماده ی (میت)، ماده ی میت له ماده ی حی عاندی حه زره تی کبریایه و، ممکنه بلین مه عنای اخراجی حی له میت، میت له حی فه رق و تمییزیا نه له یه ک، جسمی هه موو احیا (له نباتات و حیوانات و انسان _ پاقی و غیر پاقی) مرکبه له دوو ماده، ماده ی حیوی، ماده ی غیره حیوی ئه و تویه ورده ورده، ئه و نطفه، که له حیواناتی غایه ت گچکه ت کو ن ئه کا، هه ردوو ماده ی تیایه، فه رقیان له یه کتر، یا خود ترکیبی هیکل

له مادهی غیر حیوی، ترتیبی وضعی مادهی حیوی له نیوی به غیرى (علام الغیوب و حی و قیوم) ناکرئ، کهسی نهختئ له علومى طبیعت بزانی، ئەزانئ طبیعت بهغیری قادری مطلق بۆ احدیک پام نابئ، ئەوجا له هه موو کفریاتئ، که هاتیته ناو ادیانی ئیلاهی محفوظ ئەبئ. هه ربژئ علم، هه ربژئ جههل، هه ربژئ ئیمان، هه ربژئ کفر.

﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (۳۷) نيعه م و مواهبى ئیلاهی، نهفسى و پوحى، بدنى و عقلئ، داخلئ حسابى ئیوه نییه، فاطرى حى و قیوم خوئ ئەیزانئ. علمأ و عملاً، عأدى رب العالمینه، نه نبوهت، نه ملك و سلطه نهت، نه علم و فضیلهت به شعبیک، به طائفه ییک، به خانه دانیک اختصاصى نییه، خالقئ گشته «خلق لكم ما فى الارض جميعا» یه کئ ئەلئ: «اختار الاسرائیلی»، یه کئ ئەلئ: «اختار العرب»، یه کئ ئەلئ: «اختار بريطانيا العظمى»! یه کئ ئەلئ: اختار بنى الزهراء وهكذا.. گشتى بئ ئەصل و ئەساسه... سیاسه ته.. هه تا مع الأسف ئەمپۆ دینیش بویته مداریکى سیاسى، وه وه سیله ی استیلايه..

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ ئەوانى ئەهلى ئیمان، ئەو کافرانه ی بئ عه قل و عرفان، نه گرن به دهست، پفاقه تیان نه کهن.. پفاقهت زۆر به تاثیره، خاصة ئەوانه ی، که به دین مغرور بووین.. به افتراءات خه له تاوان، ئیوه ش ده چنه سه ر فیکرى ئەوان، خووی ئەوان ئەگرن. مه لئین ئەهلى کتابن، ئەمانه محرفن مغیرن، منفرى ئیمانن ﴿مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ به پفاقه تی وان تجاوز له ئیمانداران مه کهن، هه رچی هه بئ هه ر ئەهلى ئیمان چاترن، خو به خووی دوست بن، متحدى فکر و عمل بن، له مصالحي یه کترى سه عى بکهن. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ ئەوه ی ئەوه بکا، یه عنى دوست له کافران بگرئ، پشت له ئیمانداران بکا.. به دل بیان گرئ به دوست ﴿فَلَيْسَ

مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴿﴾ له تہرف جہنابی حق له ہیچ دانیہ خارجی دینہ،
 خارجی ولایت و محبتی خواہی، بالکلیہ علاقہی له گہل خوا نیہ، حقیقہ
 ئیمہ ئہوہمان دیت.. قسمیک محبی فرنسہ بوون، قسمی بریطانی، قسمی
 المانی، جزاشمان دیت. انقطاعمان له یهک، بوو پارچہ پارچہ بووین،
 گہوتینہ استعمار و استعباد و، له تواریخی مختلفہ، موسلمانانی خلافی ئہو
 ئایہتہ پرفتاریان کرد، سہبہب بہ عداوتی یهک، له گہل بیگانان
 دوستایہتیاں کرد، ہر دوو لا مال ویران بوون، مولک و سلطہنتیان پڑی،
 له عزیزییہوہ زلیل بوون.. تعجب ئہمہیہ، (خہلف) بہ احوالاتی (سہلف)
 عبرتی نہگرت.. بقیہی باقیہ بہو پڑیگہوہ پڑیشتن، ئہوانیش تووش بوون
﴿إِلَّا أَنْ تَكْفُوا مِنْهُمْ نَفْسَهُ﴾ خوتانیان لیپاریزن بہ پارازتنی ناگادارانہ.
 ظاہراً دوست بن، محبتیان نہیئتہ دلّتان، پرواییان پی نہکن، اعتمادیان
 نہدہنہ سہر. تقیہی مہردانہ و محترسانہ، نہک تقیہی ترسنوکانہ. ئہو
 نہوعہ تقیہ و خوپاراستنہ، له زہمانی عزیزتہ و عظمت چاترہ، له زہمانی
 زیللتہ و مسکنہت. ئہمرو تہماشنا بکن! دہولتہ تی له ہہموو دہولتہ تان
 گہورہترہ، له گشتیان بہ تقیہ و پاریزترہ، بہ لام مع الأسف بعضہ دہماری
 حیز، ئہو تقیہشیان بہ فساد دا. **﴿وَيَحذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾** جہنابی کبریائی
 ئیوہ ئہترسینی له خوئی. خوتان بہ ئیمانی فروشت بہ انتساب بو ئہم و
 ئہو، ہل مہخہلہ تینن، بہ ظاہری نیسبتہ، دہرگی تحقیق و تدقیق وفکرو
 نظر مہبہستن. بہناوی دین له گہل یهک عداوت مہکن، خولاصہ، خوتان
 بہ ہہواو ہہوہسو، میولی فاسدہ له خوا مہکن. **﴿وَالِي اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾** ﴿۴۸﴾
 مرجعتان بو لای خودایہ، پشت و پہناہتان نیہ، دوستی کہ تہرکی
 جیہہتی خواو خوتانی تیابن، بہ کہلکتان نایب **﴿قُلْ إِنْ تَخَفُوا مَا فِي**
صُدُورِكُمْ﴾ ئہوہی له دلّتان چہسپیوہ، له سینہتان ئہگہر بزری بکن و،

تہثری بہدہر نہخہن لہ ترسی آبروو چوون ﴿ **أَوْ تَبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ** ﴾ ﴿ خوا تہیزانی، لہو بزر نابی، با لہ خہلکیشی بزرکہن، لہ خوا بزر نابی لہ پوژی پجوع، پجوع و پہشیمانی بی ہوودہیہ .

انکار قابل نییہ، جہزا محققہ، قابلی نہسخ نییہ ﴿ **وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** ﴾ ﴿ نیلاہی تہو عیلمہ محیطہی ہہبی، چوون (ما فی الضمیر) ی نیوہی لی بزر تہبی؟ . ﴿ **وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ﴾ ﴿ لہ راستی دا عیلمی بی قودرت ہیچ نییہ . عیلمی نظری بہ قووت، تا نہییتہ ژیر (عہمل) ، بہ ہیچ حسابہ و، قودرت خوئی قووتیکہ بہ عیلمی عملی داخلی انتظام بووبی، تہگہر قووت تنظیم نہکری، خوڑریی تہروا، بہلکوو عالہم بہریاد تہکا . عیلم و قودرتی خوای، لہ صفاتی ثابتہ و مقررہن ناگورین، بہلام لہ دنیا احتمالی دہغدہغہ و (تردد) ہہیہ لہ شمولی عیلم و قودرتی، بہلکوو گہلی لہ تہہلی عیلم تہلین: جہنابی حہق عیلمی بہ جزئیات نییہ، کہ عیلم نہبوو، قودرت ہیچ، بہلام پوژی قیامت شک و شوبہہ نامینی ﴿ **يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا** ﴾ ﴿ ہہر کہس ہہر خیریکی کردبی، تہی بینی حازر کراوہ، تہو پوژہ عمومی علم و قودرتی نیلاہی، عہیان تہبی لایان، زوریان کہیف پی دی ﴿ **وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ** ﴾ ﴿ خراپہش محضرہ، بہلام ہیچ خہلکی لہگہل نییہ، حہزنہکا گوم بی، دہفن کری .

﴿ **تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ** ﴾ ﴿ حہزنہکا، کہ لہ بہینی وی و تہوی ﴿ **أَمَدًا** ﴾ ﴿ **بَعِيدًا** ﴾ ﴿ زہمانی دوور دووری غیرہ محدود ہہبا، قہت نہی کردبا، نہگہیشتبانہ یہک. تکرار تہفہرموی: ﴿ **وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ** ﴾ ﴿ بہ امانی و بہ شفعاء، نیمانی خوٹان ضعیف مہکہن، لہ موالاتی اجانب، لہ اعمالی سیئہ خو پپاریزن. تہتان ترسینی لہخوی، تہوہشی لہ پووی لطف و مہرحہمہتہ،

که یفی به عهذاب دانی عباد نایی ..

﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (۳۰) جه نابی کبریائی ده رحق به هه موو عباد له غایه تی په حمه ته، که سئی خوی محروم نه کا له علاقه ی خوی له گه ل خوا نه برری، له و په حمه ته واسعه بی پایانه بی به ش نابی ﴿قُلْ﴾ یا په سولی هادی! بلئی به کافه ی عباد: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ ته گه ر ئیوه محبه تی خواتان هه یه، ئیمانتان له گه ل خۆشه ویستی یه؟ ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ دوی من بکه ون، ئه وی من پیتان ئه لیم له اعتقادیات و عملیات قبولی بکه ن و بیکه ن، دوی خائنان مه که ون، وه بو اجانب له گه ل یه ک ببن به دوژمن. ﴿يُحِبِّكُمْ اللَّهُ﴾ خوی تعالی ئیوه ی خۆش ئه وی، چونکه حبیبی خودا به حه ق و حقیقه ت، ده عوه تی ئیوه ئه کا، بو خودا ظاهر و باطن پرووتان له و بی، بی غل و غه ش و شائبه ی شرک، خوائیکی په حمان و په حیم، خودا وه ندی پوژی جزا عزیز حکیم، غفور پوؤف و عظیم و واحد و احد و بی (ند) و ضد و بی کورر و غفار الذنوب و ستار العیوب و علام الغیوب، ئاگاداری سرر و نیهان، حی و قیوم، بی خه و و بوژژان، منزل الکتب، مرسل الرسل هادی الکل، په یدا کننده ی انام، مصور ما فی الارحام، خبیر و بصیر، ئاگاداری ما فی الضمیر .. په سولیکی بی فه رق و جوایزی، بی مه یل و محابا، اهم مقاصدی نجاتی به شه ره، له تاریکی جه هل و شکوک واوام، حفظی شه ره فی به شه ره له خسه تی عبودیه ت، حیوانات و اجرام، حفظی مقامی الوهیه ته له ادنی دنائه تی، که بو اعلی مراتبی عالم امکان هه یه، حفظی نبوه ته له شائبه ی درؤ و افترا و تفریق. حاصلی په سولیکه، که کلی شت حه قی خوی ئه داتی، هه موو جنس له جن و مه له ک و انس، حدی خوی بو داده نی. احدی له کائنات له عالمی ممکنات و طبیعیات، ناکاته فوق الطبیعه، الحاقی ناکا به مقامی الوهیه ت. په روه ردگاری عالم (بوجه من الوجوه) ناهینیتته پیزه ی

ممکنات. امتیازی بۆ خۆی دانائی، خۆی به عبدی خوا، به یه کئی له آحادی ئوممەت ئەزانئ. عطاڵەت و بطلالەت و جھالەت و ضلالەت له دینی ئەو دانئیه، پوچی ئایینی ئەو اخلاصه و محبەتی خودایه، بئشک ئەوی اتباعی ئەو پیئغمبەرە بکا، به دل و جان خوای خۆش ئەوئ، خواش ئەوی خۆش ئەوئ ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ئەو متابەعی کردبئ توش نایئ، ئەوی بیکا گوناھی سابقی عفو ئەکرئ ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ دەربارە ئهوانی خۆیان خۆشهویست ئەکەن لای خوا، به متابەعی پەسول محبەتی ﴿قُلْ﴾ بئئ: بۆ دەفەعی ادنی توهمی له ئەمر به اتباع ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ به جەهەتی رسالەت، نەک ترسی شەخصی، ذاتاً شخصیت لای حبیبی خودانی یه ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ ئەگەر اطاعەتی خوا و پیئغمبەریان نەکرد، دیارە غەیری عناد و مەیلی فەساد، چ معذرەتیان نییە، بالکلیە حەق بزر ئەکەن. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ﴾ پاش زەمانی نبووەت، ئەگەر موسلمان پەیرەوی پەسولی خویان کردبایە، نەدەبوونە مبعوضی خودا، پەزالەتی ئەمپۆیان، تا ئەبەد نەئەدیت. ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ خوداوەندی (حی و قیوم و مصور، مالک الملک معز و منذل و مخرج الحي من الميت والميت من الحي) ﴿أَصْطَفَىٰ آدَمَ﴾ له خاکی مردووی خەلق کرد، بووہ ابو البشر، پیاو چاک و فاجر، مؤمن و کافر له اولادی ئەو پەیا بوون، ﴿وَنُوحًا﴾ ئەویش باوکی بەشەری دووہمە، له مردوو اخراج کردیە و، مردوویشی لئ اخراج کرایە. ﴿وَأَالَ إِبْرٰهِيْمَ﴾ ئەویش باوکی سئییەم حسابە، معظمی بەشەر، یا له خانەدانی ابراھیمە، یا منسوبی ئەو خانەدانەییە، وەآل ابراھیم شاملە بۆ (اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و موسی و داود) و سائری ذواتی محترمه ﴿وَأَالَ عِمْرٰنَ﴾ باوکی (مریم)، باپیری

(عیسیٰ) ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ۳۳ ﴿﴾ ئەو اختیار و انتخابە بە نبووەت و سلطنەت، انتخابی طبیعیشی تیدا هەیه، ئەوانی اصفیای خودا بن، خوا عەزابیان نادا و ناکەونە ژیر تسلطی ابلیس ﴿ذُرِّيَّةً﴾ ۳۴ ﴿﴾ آل ابراهیم و آل عمران سولالەییكە ..

﴿بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ۳۴ ﴿﴾ بەعضی لە بعضی، هیچیان بە گشتی لە قاعدەى تناسل نەچووینە دەر، باز بە طریقەى خروجی مردوو لە زیندوو، زیندوو لە مردوو پەیا بووین. امتیازی آلی عمران کەى بوو ﴿إِذْ قَالَتْ أُمَّرَأَتُ عِمْرَانَ﴾ وەقتی حەرەمى عمران گوتی: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ ئەو خاتوونە ئەمەلى بوو کورپیکى بیى، ئازادى بکا بۆ خوا، لەسەر خۆى لازم کرد ئەو فەرخواڵەى لە زگی دایە، تەرکی بکا بۆ خزمەتى خوا ﴿فَتَقَبَّلَ مِنِّي﴾ ئەم نذرەم لى قبولۆ بکەى ئەى خودایە ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ۳۵ ﴿﴾ هەرتۆ دوعای من ئەبیى، مافی الرحم ئەزانى، تۆ (مصور ما فى الارحام) ی ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا﴾ کە حملەکەى دانا کچ بوو ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾ گوتى خوايه حملەکەم بە مئىى دانا، نیر نەبوو ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ هەرخوا ئەزانى، چ شانەکی هەیه، چى لى پەیا بى. حقیقە ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ کورر وەک کچ نییە، بەلام ئەوى لە تەرەف خواى بى، باشە پئیه پاریم ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ ناوم لى نا مریەم، ئەلین: مریەم بە مەعنا عابدهیه ..

﴿وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِلِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ۳۶ ﴿﴾ من ئەى پاریزم بە عنايهتى ئیلاهی تۆ و، اولادى و نەسلى لە شیطانى دوور کراو لە پەحمەت ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا﴾ خودای مریەم، مریەمى قبولۆ کرد، یا (رب) ی ژنەکەى

عمران قبولی کرد لهجئی کورر. ﴿بِقَبُولِ حَسَنٍ﴾ ئەگەر حسنی قبولی ئیلاهی نه بوایه، له شریعه تاندا قبول نه ده کرا.

﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ شینی کرد و پواندی، به پواندنی جوان، یه عنی تربیه ی باش، چ هی له ش، چ هی پوح ﴿وَكَفَّلَهَا زَكْرِيَّا﴾ شین کردن له وه جوانتر؟ که به خپو کردن و تربیه دانی دهر عهدی حه ضره تی زکریا کرد، له پاش ئه وه که له شیر کرایه وه و نه ختی گه وره بوو له غرفه بیکیان دانا ﴿كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾ بۆ احوال پرسی و ملاحظه فرموونی ﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ ئەلین: پرزی هاوینی له زستاندا لای ئەدیت، پرزی زستانی له هاوین، له بهر ئه وه ئه وانی که رامهت بۆ اولیایان اثبات ئەکه ن، به و ئایه ته استدلال ئەهینن. ذاته ن هه روا دیترا، ئه وه ی مه لایان شه رری له سه ر ئەکه ن، که س نایته مه دیدان، به لئ به لئ ئه وه ته که رامهت، ته ماشای بکه به لکو به ئایه ت و حدیث و حکایه تی سه له ف، ده لیلان ئەهینن، اولیایه کانیش استفاده ئەکه ن، مه لایه کانیش محروم! (معتزله) جواب ئەده ن ئەلین: ئەمه اره اصی پئ ئەلین له ده ور و پشتی ظهوری پیغه مبه ری بعضه خوارق ظهور ئەکا، چونکه ئەمه عائی نبوه ته انکاری ناکه ن، به لام مجددی میصری به ئەصلی ئە م حکایه ته پازی نیه، حاصلی، فره مایشی ئه وانی ئه ربابی حسنات، شتیان بۆ مریم ئەبرد، له خزمه تیان داده نا ﴿قَالَ﴾ که حه ضره تی زکریا سؤالی کرد ﴿يَمُرُّمَ أَنْي لَلِي هَذَا﴾ ئەو پرزه له کوئی بۆت بوو؟ به قاعده ی ئەهلی ئیمان ﴿قَالَتْ﴾ ئەیفه رموو ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ذاته ن ئەمپوش موسلمانیک شته کی له نه وعی هدیه بۆ بی، ئەلئ خوا هه ناردی ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ﴿٣٧﴾ به بی ئه وه ی، که به خاطری دابی و ئەمه لی بکا، ئەوه یعنی فره مایشی مجددی میصری باشه، به لام زور

مناسبی له گه ل ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ نئی، ظاهر وایه ئه و پزقه غرابه تیکی تیا بووئی، بویئ له و وهفته دا سهوقی حه ضره تی زه کریای کرد بؤ طلبی (ولد)، با وجودی وهقتی (حساب العادة) نه مابوو، و زیده مناسبه تی له گه ل حالی مریم هه یه، که خوش ثمره ییکی خلافی معتادی دا ﴿قَالَ﴾ زکریا گوتی ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ خویه به من که ره م بکه له تره ف خۆت، ولدی پاک و خاوین، ئه گه رچی (ذریه) به نسل ئه لئین، ئه ماما اطلاقی به سه ر ولد ئه کری و، بؤ تاک و جمع به کارهاتووہ ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ به حه ققت تۆ دوعا ئه بیئی، قبولی ئه که ی، خوی تعالی، دوعای قبول کرد ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ له حالی به خه به ری بوو، که ﴿وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ ملائکه تی معروف لایان، که جبریله بانگی کرد، زکریا له ناو محرابی، یا محرابی مریم پاره ستابوو، دوعای ئه کرد، فه رموی ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِحَيٍّ﴾ خه به ری خوش، بی شو به به کورری ناو (یحیی). که ئه لئین: (یوحنا)، ئه ویش له کلمه ی حیاته وه یه ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ به یه که ئه مر ئیمان و باوه پی ئه کا، بی تکلیف و تکلف، وه ک حه ضره تی ابراهیم، که فه رموی (أَسْلَمَ) عه رضی کرد (أَسْلَمْتُ) لی ره ته فسیری کلمه به (عیسی)، یا به انجیل، زور لام مناسب نی یه ﴿وَسَيِّدًا﴾ ذاتی گه وره ی عالی نژاد و عالی هیمه ت ﴿وَحَصُورًا﴾ مالکی نه فسی خویه تی، ئه توانی حبسی بکا له شهوات و لذائذ. له جمله ی مشتیه اته (زن)، جه نابی مه یلی نه بووه، نه ک له بهر عنه ت و نه میردی؛ چونکی ئه وه هیچ مدحی تیا نی یه و، هیچ معنای لایق به مقامی تیا نی یه ﴿وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ پیغه مبه ره له صلحایانه، نسباً و حسباً ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ له پیشه وه فه رموی

(من لدنک) دیارہ لہ قودرہتی ئیلاہی دور نہ زاناندووه، ئەمما لہ حالی خوئی و ژنہکەہی دور دیوہ ﴿وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ﴾ پیری گەیشتیته من، یەعنی تەمام تاثیریی تی کردووم، حسب الحال مادەیی قابلیەتی ولد نہ ماوہ، لہبەر طغیانی پیری ﴿وَأَمْرَأْتِي عَاقِرٌ﴾ ژنہکەم نہ زۆکە، کەوابی لہ بەینیان چۆن ولد ئەبی ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾ وایە، تکوئی ولد لہ بەینی ئیوہ مستبعده نظر بە مجاری عادات، بەلام ﴿اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ ﴿٤٠﴾ با بە ریگەیی شذوئیش بی! شاذ و معتاد، عائی مەشیئەتی خودایە، گەلی اموری معتادە لای ھەندئ ناقصان، خلاقی بە محال ئەزانن. من خووم دیومە ژن و میردی لہ عمری معتاد بەدەر، ولدیان بووہ و بە زەریفی ژیاوہ. زکریا ئەمەیی لہ جەھتی خوئیان بە دور زانی لہسەر وەقتی (علوق)، علامەتەکی لہ خوا خواست ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ علامەتی مناسبی حال ﴿قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ قسەکردن بو ئینسان لہ زەمانی مندالی تا آخری معتادە و زۆر سەلە، وەک علمای اصولی ئەلین: کیفیەتە کە بو ھەناسە بە طبیعی بی اختیار دی و دەچی، بە نہختە قووہتی قسەیی لی پەیدا ئەبی. لہوانەیی، کە نہتوانی قسە بکەیی ﴿إِلَّا رَمَزًا﴾ إلا بە اشارەت و دەوامی بوو بە سئ پۆژ، بزانی (علوقی) بووہ. ناتوانی لہو مدە قسە بکەیی، با وجودی امری معتادە و آسانە. بەراستی ئایەتی جوانە، ئەوہ خوئیەتی ئەوی مفسرەکان فەرموویانە، لیاقتی ئایەتی نییە! ﴿وَأَذْكُرُ رَبِّي﴾ بە دل زکری خوی خۆت بکە، چونکە چ ئافەتیکی قلبی و دەماغیت پی نہگەیشتووہ، کە لیت بوو بە (عی) نہتوانین ﴿كَثِيرًا وَسَبِيحٌ﴾ زۆر تەسبیح و تقدیسی کبریائی بکە ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ ﴿٤١﴾ لہ ئیوارە و سبەینە، دعای زکریا و بەشارەتی بە (یوحنا)، بە ھەردوو نظم واقع بوو لہ بەیندا و. مقصدی

اصلی بیانی جہتی (اصطفا) ، ھہ لَبْرَارْدَهِي نَالِي عمرانہ و، مصدری ٺہو ھہ لَبْرَارْدَهِي يه، مریہمہ ﴿وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ ھہرکھسی بی تعینی لازم نیہ، بہ لام ٺہفہرموون جبریل بووہ ﴿يَمْرِيْمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكَ﴾ خودا قبولی کردی بو خزمہتی مسجد، پزقی بو ھہناردی ﴿وَطَهَّرَكَ﴾ پاکی کردی ھہوہ لہمیولی نسائی ھہ ﴿وَاَصْطَفٰكَ عَلٰٓى نِسَاۗءِ الْعٰلَمِيْنَ﴾ ﴿٤٣﴾ بہ انتخابی طبیعی قووتی پی دای، بہ تصویر (جنین) ی ولد بوون، بی نقیصہ و بی لقاح، ٺہمہش لہ تاریخی عالم بو کہس بہ محقق نہگہیشتوہ، بہ لکوو نباتات و حیواناتیش ٺہمہ نیہہ . ﴿يَمْرِيْمُ اَقْتِيْ لِرَبِّكَ﴾ مطیعی خوی خوت بہ، ھہراسمہ کہہ ﴿وَأَسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ﴾ باری اطاعت بکیشہ بو خزمہتی خوا. خوت دووتاکہ پرووی مذلت و انقیاد لہسہر خاکو بہردی باری دابنی ﴿مَعَ الرَّكْعِيْنَ﴾ ﴿٤٣﴾ لہگہل ٺہوانہی، کہ مطیعن لہ زومرہی ٺہوان قبول کرای ﴿ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاۗءِ الْغَيْبِ﴾ ٺہوی بوٺ بہیان کرا، لہ اخباری غہیبہ، بزہ، سرری مکتومہ. الانیش ھہر لہ پہردہی غہیب دایہ . ﴿تُوْحِيْهِ اِلَيْكَ﴾ پاستی ھہکھی ٺہوہیہ، کہ بہ وھحی بو تو اظہار ٺہکھین، کتبی اسرائیلی پرہ لہ خرافات. سابقاً فہرمووی (کفلہا زکریا) بہ شہدہی (عین الفعل) بزانیں جہنابی حہق بہ کردنی، چون مریہمی در عہدہی زکریا کرد..

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ﴾ ٺہوہش لہ اخباری غہیبہ بو تو قہومی تو، وھختی بو بہ خیو کردنی ٺہو خاتونہ، قورعیان ٺہھاویشت بزانیں ﴿اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ (بہ تخفیفی کافی یکفل)، بہ ناوی کئی دہرٺہچی ٺہو بہخیوی بکا. قورعہ بہ ناوی حہضرہتی زکریا دہرچوو ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ﴾ ﴿٤٤﴾ لہ شان و حالی مریہم (العلم عند اللہ)، ٺہو

منازەعیان لە کاتی ھەملی بوو **﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ﴾** ندای پێشوو مقەمە بوو بۆ ئەو خەبەرە **﴿ يَمْرِيْمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ﴾** ئەو ھەدە قەطعی موجز و، مختصر لە سەر زمانی انبیای نزیک ئیو، کە کورری بی باب لە نەسلی داود پەیا ئەبی، بەو کلمە یە تۆ بە شارەت ئەدەین، کە مظهری ئەو منقەبە یە تۆ ئەبیت. ئەو موژدە لی دراوہ **﴿ اَسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسَى ﴾** مسیح لە مشیحا یە، عیسی لە یشوعە **﴿ اِبْنُ مَرْيَمَ ﴾** نەک کورری خودا، چونکە احتمالی ھە یە ئەو ھش داخلی ناوی بی و، احتمالی ھە یە وە صفی ممیزی بی، کە نبوو تی ئەو بۆ مریەم ضروری یە **﴿ وَجِہَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾** ذاتی گەورە یە، صاحب قەدر و شەررە فە، لە دنیا و لە قیامەت **﴿ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾** ٤٥ لەو رەسولانە یە، کە مقربیی دەرگاہی کبریائین.. ھەوای مولک و سلطەنە تی لە کەللە دان یە، بە دەعوای رسالەت مولکی باپیری خۆی، کە ھە ضرە تی سلیمان و داو دە طلب ناکا. پادشاھی مولکی ھیدایە تە، سلطانی اقلیمی عیلم و حکیمە تە، لە انجیلی (لوقا) ئەلی: فریشتە بە مریەمی گوت: مە ترسی، چونکە لە تەرەف خوای نیعمەتت چەنگ کە وتیە (اینک)، کە تۆ ھاملە ی کورری ئەبی ناوی لی ئەنئی عیسی، ئەو گەورە ئەبی بە کورری ھە ضرە تی اعلی ناوی لی دە ندری و، خودا تەختی باوکی، کە دوو سەرە بەوی عطا ئەکا و، ئەو لە سەر خانە دانی یعقوب، تا ابد پادشاھی ئەکا، سلطەنە تی ئەو نھایە تی نابی! آھ. لە انجیلی (متی) ئەلی: فرشتە یی لە خۆو بە یوسفی گوت، کە (دەزگیری مریم) بوو، مە ترسە ئەوی لە ویدا قەراری گرتی یە لە (روح القدس) ه، ئەو کورری ئەبی ناوی لی ئەنئی عیسی، چونکە ئەو ئوممە تی خۆی لە گوناھان نجات ئەدات، ئەو ھەموو بۆیە بوو، تا قسە یە کی لە سەر زوبانی (نبی) فەرموو، تەواو بی، کە ئەو تە کچی (بکر) ئاوس بوو کورری ئەھینی و، ناوی وی (عمانوئیل) ی

لئِ ئَننئی، کہ معنای ئه وهیہ خوا له گه ل ئیمه یه . والحاصل ئه مانه وا به ته مابوون، کہ حضره تی (عیسی) بی به پادشاه . اعاده ی سلطه نه تی (داود) بکا، له و زه مانه، تا ئه مرؤ نه عیسی، نه غه یری عیسی، اعاده ی ئه و مجده یان نه کردووه . جوو ئه لئین: ئه و عیسیایه، (مسیحی دجال) بوو، مسیحی ناجی و معیدی مجدی ئالی داود دئ! ئه و ئه مه له له دوو هه زارسال زیاتره له ده ماغیان دایه، ئیمه یش و دیانیش، به ته ماین حه ضره تی (عیسی) له ئاسمان بیته خواری، به خیر و به سلامه ت له و فلاکه ته نجاتمان بدا! گه لئ له انتظار ئه مرن، گه لیکی تریش ئه مرن نایبینن . نازانم موسلمانان بو خویمان تی هه ل قوتاندووه، تا ئه و ئاخره هه نده ره زیل نه بوون، انتظاری که سی بکه ن له ئاسمان بی نجاتیان بدا، به لام خویمان تووش کرد. ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ﴾ قسه له گه ل خه لک ئه کا، له ناو لانک به مندالی . ئه و قسه بو برائه تی مریم ده لیلی قاطعه، ئه وی انکاری بکا له عیسه ویان برائه تی بو ثابت نابئ، له و وه خته عیسه وی نه بوون جووله که ش ئه لبه ته له پۆشینی سه عیان کردووه .

﴿وَكَهَلًا﴾ صاحبی (صباح) ئه لئ: (کهل) له پیاوان ئه وه یه عومری له (۳۰) سی سال تی په رری، مووی لئ سپی بووی، که وابئ حاجه ت نی یه بلئین قسه ی زه مانی (کهل) ی پاش هاتنه خواریه تی و، مقابله ی له گه ل (فی المهد) ئه گه یینئ، که وه ختی گه وره بوون و پیاوی مقصوده له هه ر سالی دابئ . مظنه بوئی (مجددی میصری) ئه وه ی اختیار کردیه . ئه ماما ئه وه ی ئه لئ پیاو له به ینی ۳۰ و ۴۰ پی ئه لئین: (شاب) له وه ی زیاد، تا ۶۰ ساله ئه یلئین (کهل)، بنا له وه ئه مه پاش نزوله، به لام ئیجاب ئه کا، که هاته خواری عمری له چل که متر بی، که پووی کرده شه صت ئه و جا قسه بکا .. بنا به (قولی) بعضیک ده جال ئه کوژی ئه و جا قسه ئه کا . ئه گه ر ئه و وه خته ی ره فع کراوه عومری (۳۳) بووی، ئه بی پاش هه وت سال، ئه و جا

قسہ بکات. ﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿۴۶﴾ نسباً وحسباً له پیاوچاکانہ، ئہمہی (جوو) و (قادیانی) له حقی ئہلین، ہہ مووی افترایہ ﴿قَالَتْ رَبِّ﴾ مریہم له جوابدا گوتی: ئہی سیدی ومولای ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ ئہوی استبعادی پتر تیایہ له عادت زور دوورہ، بہ لکوو خارقہ بیکی بی مثلہ. ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرًا﴾ بہ ہیچ وجہ، کہس مسی منی نہ کردووہ ﴿قَالَ﴾ مہلہک فہرمووی: ﴿كَذَلِكَ﴾ وایہ ﴿اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ کہ بہ قطعی ارادہی شتییک بکا ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ﴾ ئہمری ئہکاتئ بہ ئہمری تکوینی، بلا مخالفة ﴿فَيَكُونُ﴾ ﴿۴۷﴾ ئہبی، خلافی ئہمری تکوینی قابل نییہ، ئہمہ وہک ئہمری تکلیفی نییہ، ئہگہر واجبیشی داخلی اختیاری انسانہ.

افکاری بہشہر دہرحق حہضرہتی (عیسی) مختلفہ، ہہتا لہبہر ئہو اختلافہ بعضئ ئہلین: موہومہ، ذاتی محقق الوجود نییہ، مجهول التاريخہ!! ئیمہ بہو نہوعہی، کہ قورئان ئہفہرموئ ئیمانمان ہہیہ بہ تولدی عیسی له مریہم، بہ خارقہی عادت، بہ قودرہتی ئیلاہی و لہبہر ئہو ئیمانہ، شہادت لہسہر برائہتی مریہم ئہدہین، بعضئ ئہلین: ئہمہ نابئ بہ قاعدہ بہ ولہد بووبئ، قسمئ ئہلین: بہ طریقی شرعی لہ یوسفی کورری خالی مریہم بہ ولد بووہ و، بعضئ ئہلین: بہ طریقی غیرہ شرعی لہ قائدہ بیکی پڑمانی پہیا بووہ، ئہو فرقہ، اتہامی مریہم ئہکہن (معاذ اللہ)، ئہلین: عیسی بیژییہ! ئہو قسہ لای ہہموو موسلمانان کفرہ، مخالفی نصی قورئانہ و، مریہم محضاً بہ قودرہتی ئیلاہی مدافعہی ئہکرد لہگہل یوسفی دہسگیرانی، ئہلین: ئہو کہسہ دہرکی کرد، کہ مریہم حاملہ اشتباہی لئ پہیا بوو، محزون بوو، بہ تعریض عہرضی مریہمی کرد، گوتی: آیا گیا بی توو ئہبی؟ گوتی: بہلئ، خوای تعالی اوہل بذری خہلق کرد بیگیابوو، اوہل گیای ایجادی کرد، بی توو بوو، ئایا تۆ ئہلئ، ئہگہر توو

نه بایه، خوا نهی ده توانی گیا شین بکا؟! ئەگەر گیا نه بووایه، نهی ده توانی تو په یا بکا؟ گوتی: اعوذ بالله له و قسه، بلیم خوا اقتداری نییه، ئەوه وایه... ئەمما خه بهرم بدهیی، دار بی ئاو شین ده بی؟ گوتی: نهت زانیوه توو ئاوو دار و باران، هه موو یهک خوای هه یه؟ ئایا ئەللی ئه گەر ئاو و باران نه بی، خوا ناتوانی دار شین بکا؟ گوتی: اعوذ بالله، که ئەوه بلیم، انکاری قودرهتی خوا بکه م. راست ئەللی. خه بهرم بدهیی. گوتی: جه نابی حهق مژدهی دایمی به کلمهیی، له ته رهف خوئی ناوی (المسیح عیسی بن مریم) ه..

به للی، ئەمه ی و ترا، بو (ملیون) ان باشه، قهول به عمومی قودرهت و شمولی ئەکه ن. اکتفا ئەکه ن بلین، خوا کردی و ناتوژنه وه چۆنی کرد؟. ممکنه.. محاله؟ ته نهها امکان کافی یه، خه لقی متشابها ت و غهیری متشابها ت تفویضی عیلم و قودرهتی خوا ئەکه ن، بی تهفسیری اقرار ئەفه رموون، به لام مقابلی (طبیعی) یه کان، به لکوو حکمای (الهیون) یش، که ئەلین امکان استعدادی شرطه بو حوادثات، خاصه ئەوی به تطور په یا ئەبی، بی ماده نابی، به و قهوله نجاتمان نابی و، قیاسی شتی پاش دامه زرانی قاعدهی خه لقو ایجاد، له پیش دامه زرانی نا کرئ، له وی ضروره تی تیا هه یه، لی ره هه یج ضروره تی تیا نی یه، له علمی عقلیه، طبیعیه گه لی حوکم هه یه، مجبوریه ت و نا چاری، سه وقمان ئەکا بو اعتراف پی کردنی ئەو مجبوریه ت و ناعلاجی یه، که نه بی اعتراف به حکم ناکه یین و ده لیلی ترمان ئەوی. مثالا بالمجبوریه اعتراف ئەکه یین، حه ضره تی بی دا ک و باب په یا بووه له ئەززی، به ناعلاجی و مجبوری، ئەمما له پاش قاعدهی تناسل اعترافمان پی نا کرئ، الا سه ره سه ریانه نه بی.. ئەرز بیاته ئاسمان و، ئاسمان بی نیته سه ره عه رد، برروا ناکه یین ئەو که سه راسا په یا بووه.

بعضه ئەهلی تدقیق له خوا په رستان، هه تا یه کی وه ک (شیخی عه ره بی) نه وعه تصویری ئەکا له قاعدهی به ده ری ناخا و، ئەفه رموی: له تهفسیری

سورهتی مریهه چۆن ممکن بووه (تولد) لهیهک نطفه ؟ ئەلئی: چونکی له علمی طبیعیه ثابت بووه، که (مهنی) نیڕ وهک ههوینهو، (مهنی) ژن وهک شیره ئەو ئەمهیینئ. ئەم ئەمهیی، که تیکه لآو بوون پهئیریان لئ پهیدا ئەبئ، کهوابئ ئەگەر مزاجی ژن به قووته تر بوو، نیڕانه بوو وهک ژنانی (شریفه النفس) ، قهوی و به قووته و مزاجی جگهری گهرم، بۆ ئەو مادهی که له گورچيلهی چهپی جودا دهبیتهوه، که گردبوونهوه له پهحمدا و مزاجی پهحم ماسکه و جاذبهی به قووته بئ، ئەوی له گورچيلهی راستی لهجئ نطفهی پیاو ئەبئ و، ئەوی له گورچيلهی چهپی له جیاتی (مهنی) ژن ئەبئ، که تیکه لآو بوون، انعقاد نهکا و ولدی لئ پهیدا ئەبئ.

فهرايشتی ئەو له تکونی (مهنی) له گورچيله، بهگویرهی کهشفیاتی ئەو زهمانی بووه، و بهکشفیاتی ئیستا قابله تطبیقی له مادهی (گون)، که له داخلی پهحمی ژناندا ههیه بکری. بۆیه قهته نهبووه پاش (آدهم)، تولد له تهها پیاوی و، ولدیش بۆ کچ بئ، چونکه بۆ پهیا کردنی مادهی مذکری احتیاجیمان ههیه بهو تکلفات و تقدیراته. ئەگەر مادهی (انوته) غهلهبه بکا بهو صورته قهته نابئ، زیده تفصیل ان شاءالله له سورهتی مریهه عرض ئەکریو، والله الموفق.

﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ﴾ ئەوهش داخلی بشارته و، ممکنه جملهییکی سهربهخۆ بئ، جهنابی حهق (کتبی منزله)، یا کتبهتی فیڕ ئەکا ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ علمی عقلیهی تعلیم ئەفهرموی ﴿وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (٤٨) تهورات و انجیلی فیڕ ئەکا، تهورات به تعلم و، انجیل به وهچی. ﴿وَرَسُولًا﴾ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ئەی گیڕری، یا ئەینیڕی به پیغهمبهر بۆ سهه اسراییلیان.. ئەو جا خوا (عیسی)ی خهلق کرد، بهوهلهدبوو، گهورهبوو، فیڕی کتبهته و حیكمهت و تهوراتی کرد، وهچی بۆ نارد و ناردی بۆ بنی اسراییل. له وهختی بعتهت پئیان ئەلئ..

﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ له بعضہ (قراءات) «آیات» ہ ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ من بۆتان دروست ئەکەم له قورر شتیک له شکلی تہیر «نہ له زبیرر وەک عجلی سامری.. نہتہنہا بجولیتہوہ وەک خواری عجل.» ﴿فَأَنْفُخُ فِيهِ﴾ فووی تی ئەکەم ﴿فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بہ تہواوی ئەفرری بہ ئیذنی خوی، یہ عنی دروست کردن و فوو تی کردن ئی منہ، بوونی بہ تہیری صاحب حہیات وفررین، بہ خہلقى خویہ، اصلا مداخلہم تیدا نیہ، بہستیمان لەگەل ئەو حہیاتہ نیہ ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ﴾ (اکمہ) ئەگەر بہ کویری زگماک بلین، مہعنای ئەبرئ، بہلام زۆر جوان نیہ، بوئی بعضیکی وەک مجاہد تہفسیری بہ (شہوکور) ئەکاو، (عکرمہ) تہفسیری بہ چاو پروپووشاوی ئەفہرموی.

﴿وَالْأَبْرَصَ﴾ بہلەک ﴿وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ وەک زیندو بوونہوہی کوژراو لە زہمانی حہضرہتی (موسی)، بہ لیدانی بعضی لە گاجووت، صرف بہ خہلقى خودایہ.

کہسی ئەتوانی بہ راستی مردی زیندی کاتہوہ، کہ خوی نہمری و حقیقہتی حہیات بزانی و، تہسخیری بتوانی.

﴿وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ و خہبہرتان ئەدہمی بہ ئەوہی ئەیحۆن، بہ ئەوہی دای ئەنن بہ زہخیرہ لە مالی خۆتان، دیارہ ئەو قسانہی لەگەل پجالی بنی اسرائیلی فہرموہ، نہک لەگەل مندالان، وەک لە پروایہتان ئەلین. ئەمہ ئەگەرچی ظاہراً بہ نظر نایاتی پیشوو، زۆر بہ قیمہت نیہ، ئەمما پئی شوبہہ زیاتر ئەبرئ، شخصی خارج اسراری ناومالی ئینسانئ بزانی، دیارہ شائبہی نہیرہنگو تلبیسی تیا نیہ، دل چاتری پی دا دہمہزرئ، ئەمما بعضہ کہس لە دہرویشانی سہرسہری، دہچنہ دئ و شاران لە پیشہوہ بہ واسطہی مندالیان، یا لە ئەم و ئەو تحقیقی احوالی

بعضه عائلات ئەکا، پاشان ئەچی خه بهریان ئەداتئ به خفایای ماله که .. به کهراماتی ئەزانن، گه لئ ساوارو داندۆک و پارهی ئەدهنی، نعوذ بالله مسلکی سوال کردن ئایاتیش تیک ئەدا. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ﴾ لهوهی بهیان کرا ئایهتی حهقی تیا به بۆ ئیوه، که مشاهدهی ئەکهن جئ شک و اشتباه نیه ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ۴۹ ئەو ئایاته، بوو یان نه بوو، لی ره ده رناکه وئ، به لام ئایهتی (مائه)، به ئاشکرا ده لالهت ئەکا له سه ر بوونیان.

من انکاری (معجزه) ناکهه، ئەوهی له قورئان نسه به تی دابئ به پیغه مبه رانی پیشووتر، له زه مانی خاتم الرسل، بئ تاویل قبوولی ئەکهه، به لام «على ملأ الناس وبين يدي ربي» ئەلیم: معجزه، کهرامهت، بئ فائدهیه .. ئایاتی مستمره ی ئیلاهی، به هه موو نهوع چاتره له شواذ. حه ضره تی (عیسی) فووی کرد له قورر، بوو به تهیر، به ملیار به شه ر له فررینی فکری .. چاوی کۆری چاک کرده وه، ئەمما به ترلیۆن به شه ری کۆر کرد. به له کی شفا دا، به لام به شه ری پئ به له ک بوو .. مردی زیندی کرده وه، عالمی پئ مرد .. حه یاتی عقلیان نه ما، خۆی بئ باب به وه له د بوو، خویان کرده بابی، قسه یه کی وایان هه لبه ست، که (موحدین) شه رمه سار و خجالهت بن له به ینی به شه ر. خولا وه له حه ضره تی موسا، تا حه ضره تی عیسی، هه تا معجزه زیاتر بوو عالم، احمق تر بوون، والسلام.

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ هاتووم به مصدق ومؤید، بۆ ئەوهی له به ینی دو ده ستی من دایه، له ته ورات ئیمانم پئ هه یه، هه تا نه فسی هاتنی من به ره سول، صدقی ته ورات اثباتی ئەکا، که به شه ره تی به بعثی منی تیا به ﴿وَلِأَحَدٍ لِّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ و هاتووم تا کو بعضه شتی، که له ئیوه حه رام کرایه، بۆتان حه لال بکهه. ذاته ن تضییقی شریعهت پابه ندی به بۆ ئوممهت، مانعی ترقی به، و ئەمپۆ سه به ب به شه ده تی، که لایانه له تعالی محروم بوون، دیاره ئەو مساهله ی، که له دینی مه سیحیان

دایہ، اساسی له‌ہضرہتی (عیسی) نی‌یہ ﴿وَجِئْتُمْ بِآيَةٍ﴾ نہ‌فسی خوّم
 ﴿مَنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ﴿۵۰﴾ بہ‌عناد و کبر، تکذیب مہ‌کەن، خوٰ له
 خوا بپاریزن، اطاعہی من بکہن ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ نالیم من
 بپہستن، اطاعہم بکہن (من حیث کونی داعیا الی اللہ) نالیم کورپی خوام،
 منیش وەک ئیوہ بہ‌ندہ‌ییکم له بہ‌ندہ‌کانی خوا ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿۵۱﴾
 پئی راست ئەوہیہ، ئی ہەموو پیغہ‌مبہ‌ران و ہادیانہ، بہ‌نی ئیسرائیلی
 قبولی دعوہ‌تیاں نہ‌کرد، اظہاری کفر و انکاریان کرد ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ
 مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ کہ عیسی حسی کرد بہ‌کفری ئەوان. نفسی کفر، ئەگہ‌رچی
 وەک سرر کیفیاتی نفسیہ، نادیتری بہ‌بہر حس ناکہ‌وئی، بہ‌لام بہ‌ناثار
 ئەزاندری ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ کہ خزم و عہ‌شیرہ‌تی خوئی، ذراری
 پەسولہ‌کان، منتظری مسیحی منجی یاردمی نہ‌کەن؟ کئی یاردمی ئەکا بو
 دعوہ‌تی الی اللہ؟ ﴿قَالَ الْخَوَارِئُوتُ﴾ جہ‌معی له انصاری انبیا، پاک و
 خاوین له کبرو حسد و عداوہت و عناد. له قاموس ئەلی: (الحواری الناصر
 أو ناصر الانبياء). هرقل سؤالی له ابا سفیان کرد، ئایا ضعیفہ‌کان تابعی
 محمد ئەبن، یا اقویا؟ گوتی ضعیفا، گوتی: بہ‌لی، ئەوانن اتباعی پیغہ‌مبہ‌ران
 ﴿فَمَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ زیغی عناد له دلمان دا نی‌یہ پابہ‌ندی دنیا نین، ئیمہ
 نہ‌صرہ‌تی تو بو خوا ئەدہ‌ین، نہ‌ک له‌بہر شخصیت. مفسران ئەوہ‌ندہ
 قسہی سہ‌یر سہ‌یریان کردیہ، سپی و پەشیان تیگ داوہ ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ بہ
 ئیمانی بہ‌قووت و کامل ﴿وَأَشْهَدُ﴾ ناگادار بہ ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ﴿۵۲﴾
 مطیع و منقادی ئەمر و پەسولی خواین، ئەو جا متوجہی (الی اللہ) ئەبن
 و، ئەلین: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ﴾ ہەرچی ہەبی ﴿وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾ کہ

حہ ضرہتی عیسایہ، ئیمانہ کہمان له دلا ڤاسخه ﴿فَأَكْتَبْنَا﴾ توش ئیمہ
 ثبت بکه ﴿مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿۵۳﴾ له و گروہی به ڤاستی شاهدیان داوه له سہر
 وحدانیہ تی تو و، حقیقت کتب و صدقی ڤہ سولی عصری خویمان
 ﴿وَمَكْرُؤًا﴾ حواریہ کان خویمان نوواند به ڤہنگی شیرانہ، شیری خون
 ئالود، نفخی دلیریان لیئہ دا. ﴿وَمَكْرًا لِلَّهِ﴾ خوی تعالی ڤہنگہ کہی
 نوواند. ناشکرای کرد ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينِ﴾ ﴿۵۴﴾ ڤہنگی فیطری و حیلہ کاری به
 دہرئہ خات (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) عاقبت ئہوانی مزخرف
 بوون، له وان به دہرکہوت. دہعوای باطلیان وہختی به دہرکہوت ﴿إِذْ قَالَ
 اللَّهُ يٰعِيسَىٰ﴾ خودا فہرموی: ئہی عیسی مایوس ببہ له ئیمانئہ وانہ.
 مانہ وہی تو بی فائدہیہ ﴿إِنِّي مُتَوَقِّئُكَ﴾ من ئہ تمرینم. حسابت تہواو ئہ کہم
 ﴿وَرَأْفَعُكَ إِلَيَّ﴾ بلندت ئہ کہم بو لای خووم، له و زیللہت و خستہ، کہ ئہ و گروہہ
 نیسبہتی به تو ئہ دہن، خہلاست ئہ کہم ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ له
 شوبہہی ئہوانہی، کہ کافرن به خووت. ئیمانیان به تو نیہ به قہومی، کہ
 به ڤاستی شہادہت ئہ دہن له افراط و تفریط، خاوینت ئہ کہن. ﴿وَجَاعِلُ
 الَّذِينَ﴾ ئہ گئیرم ئہوانہی، کہ ﴿اتَّبِعُوكَ﴾ تتبعی حالی تویمان کرد، حقیقتہ تی
 ذاتی و ہصفی تویمان بہ دہرختوہ ﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حہقیان بزکریہ
 مغلوب ئہ بن، یا بہ حجت و بورہان، یا بہ حہرب ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ ئہ و
 تفوقہی مادی و معنوی دائمہ، تا ڤوژی قیامہت، وامہزانن له تاریخی عالم
 مسیحیہ کانی مزخرف غالب بوون. ئہ ڤروش ئہ وروپایی کہ غہلہ بہیان بہ سہر
 موسلمانان دا کردیہ، بہ مسیحیہ تی نیہ، بہ لکو..

(۱) لایہک بہ علم و عقلہ، بہ اکتشافات و اختراعاتی قووہتی طبیعہتہ،

که ئەساسی مسیحی له گه‌ل طبیعت متنفره . متباینه . له هه‌موو وه‌قت مؤمن به سهر کافر غالب ئەبێ . ئیمان به‌خوا، که موافق نه‌بێ کفره . موسلمانان وه‌ک جوو و دیانان، دواى خوارق و شوان که‌وتن . به‌خلافی قورئان ئیمانیکیان اختراع کرد، نه‌عقلی هیشت، نه‌علم، نه‌قووه‌ت، نه‌قودره‌ت . نه‌سعی و عملی صالح و، خونجایی بۆ دنیا و دین، به‌واسطه‌ی کفر به‌قواعدی ئیلاهی، به‌قورئانی حکیم، مالى ویران بوون، حالاً افاقه‌یان نه‌بووه، ئەگه‌ر هه‌روابن عاقبه‌ت، مه‌سخ ئەبن به‌کیسه‌ل، به‌قالوچه ئەکه‌ونه ادنی مراتبی حیوان .

(۲) لایه‌کی تر به‌مه‌یلی نفسانییه، اباحه‌ی شهوات ترویجی فسق وفجور و قومار و خمور و سائری کرده‌وه به‌ده‌کان، که نفسی حیوانی هه‌زی لی ئەکا و، فیطره‌تی به‌شه‌ری به‌فساد ئەبا .

﴿ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ ﴾ مرجعی هه‌مووتان له دنیا و قیامه‌ت لای منه ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ ﴾ حوکم ئەکه‌م له به‌ینی ئیوه، هه‌سمی نزاع ئەکه‌م ﴿ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾ له هه‌موو شتی دنیه‌وی و اخروی فطری و شرعی ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ ئەوانه‌ی کافر بوون به‌خوا، یا به‌نبووه‌ت، یا به‌طبیعه‌ت، به‌ئیمانی (مزخرف بالله و بالنبوة) هه‌بێ له‌دنیا معذبه، ئەگه‌ر خدعه‌کار نه‌بێ، له‌قیامه‌ت نه‌جاتی ئەبێ، وه‌ الا فلا ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴾ که‌سێ ئیمانی راستی به‌خواو به‌قواعدی خوا نه‌بێ، کێ نصره‌تی ئەدا به‌تبعیه‌تی شوان چۆن خیر له‌قواعدی طبیعی ئەبینێ که‌سێ برسی ئیمانی هه‌بێ، که عیسی ده‌هه‌زار که‌س، به‌پینچ کولێره‌ تیر کردووه، ئایا تیر ئەبێ؟

ئەگه‌ر که‌سێ بلێ (عیسی) ، یا غه‌یری (عیسی) به‌سه‌ر ئاودا پویشتوه، عجا خۆی به‌سه‌رئاوا ده‌روا؟ حاشا.. پردێ له‌سه‌ر ئاو دروست‌بکه‌ن بۆ

نفعی عمومی، سہ ہزار ہندہ چترہ. حاصلی، ئەوی ئیمانی بہ خواو عقل و نبوہت و طبیعت ہہ بی، لہ ہہردو دنیا نہ جاتی ئە بی، نوشوست ناہیننی ﴿ **وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا** ﴾ بہو نہوعی، کہ عہرزکرا ﴿ **وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ** ﴾ ئی دنیا بۆ دنیا.. ئی قیامت بۆ قیامت، ئەجریان ئەکہوئیتہ سہرخو، یا لای خوا ﴿ **فَيُوفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ** ﴾ بہ تہواوی ئەجریان پی ئەدا، مثقالہ زہرہ بی ظلمیان لی ناکا ﴿ **وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ** ﴾ ﴿ ۵۷ ﴾ کہوابی خوی چۆن ظلم ئەکا. جہنابی حہق لہ دانانی شرع، قواعدی طبیعی تیگ نادا، چونکی خہلقى خویہتی.. قواعدی طبیعی، احکامی شرعیہ تیگ نادا، چونکی خوی دایناوہ، صاحبی ہہردو یہکہ، ظالمی جاہل ئەو کہسہیہ، کہ نہفرت ئەہاوئیتہ بہینی طبیعت و شریعت. ﴿ **ذَٰلِكَ** ﴾ ئەوہ، کہ ئەوی کافر بی معذبہ، بی یارو یاوہرہ، ئەوی مؤمن وچاک بی، نائلی ئەجری خوی ئە بی ﴿ **نَتْلُوهُ عَلَيْكَ** ﴾ لہ اوہل و ئاخر مستمراً بہ سہرتدا دہخوئینہوہ ﴿ **مِنَ الْآيَاتِ** ﴾ لہ ضمنی علامات و دلائل ﴿ **وَالذِّكْرُ الْحَكِيمِ** ﴾ ﴿ ۵۸ ﴾ لہ قورئانی ثابت و محکم، کہ وہنی نیہ.

مقصد لہ دین ئەوہندہیہ، ہہر کہسئ خوی و کیفیاتی نفسیہ و عملی خوی، پی پی راستی ئوممہتہ، باقی فہند و فیئلہ، ئەوی صاحبی ہوش بی، گوئی راگری، استماعی ئایاتی خوا بکا. اعتماد ناداتہ فدیہ و شفاعت بہ ادنی تاملی، دہفعی شبہات و شکوک ئەکا، بہ خیالات و اوہامی فاسدہ خوی وہرناگیپی، بوونی حہضرہتی عیسی بی باب، ناکاتہ باعثی کفر و ضلال ﴿ **إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ** ﴾ لای خوا بۆ ئەو کہسہی لہ ئایاتی خوا بگا ﴿ **كَمَثَلِ ءَادَمَ** ﴾ شہبہہہ، مثلہ، مثلی تہواو نیہ ﴿ **خَلَقَهُ مِن تَرَابٍ** ﴾ ئەو مادہی، کہ ئینسانی لی پہیا ئە بی لہ خۆل خری کردہوہ، بہ عیلم و

قودرہتی خوی ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿۵۹﴾ بہو خوٰلہ مہیایہ و مستعدہی فہرموو. یہ عنی بہ ئہمری تکوینی و ایجاد، نہ بہ لفظ. لفظ، تاثیر نییہ، بویٰ لہ ہہموو جیٰ لہ قورئان لہ گہل (کُنْ) (فَيَكُونُ) ہہیہ. حاشا ثم حاشا لہ گہل حہضرہتی کبریائی، ادنی شہبہہی نییہ، فضل لہ تشابہ. اعتراف بہ تکوئی آدہم لہ موادی حیویہی ئہرضی ضرورییہ.. (مليون) و (طبيعيون) اعترافی پیئہکەن. بہ قہولی حکمای جدید، ئہرض لہ شمس جودا بووہ، مایعی ناری حہیاتی تیا نہبوو، لہ پاش چہند اطوار، حیاتی نباتی، پاشان حیاتی حیوانی تیا پەيابوو، دیارہ ئہوہ بیٰ لقاح بووہ، اعتراف بہ تکوئی (عیسی) بیٰ لقاح، اضطرار و مجبوری تیا نیہ و، ادنی ادنی توہمی تیا نیہ، کہ بیکہینہ کورری خوا.. لہ بہینا گہلیٰ احتمالی نزیک نزیک ہہیہ، بہس حفظی شہرفی نبووت، سہوقمان ئہکا بوٰ توجیہی مناسب ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ حہقی مقرر و ثابت و لا یتغیر، لہ تہرف خوی تۆوہ بوٰ بہیان ئہکا ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ ﴿۶۰﴾ لہوہی لہ تہرف خواوہ بوٰ دئی، مہسئہلہی (عیسی) نہبوو، پیغہمبہر نہبوو.. ئہہلی علم جیٰ مریہو اشتباہ نییہ، نظر بہجہتی ئیلاہی، ئہگہر (مریہ)یہک بیئہ دل، لہ جہت قاعدہی توالدہ، ئہوہش بہ ئیمان بہعمومی قودرہتی ئیلاہی زائل ئہبی. لہو ئایاتی مذکورہ حہق ظہوری کرد.. (عیسی) کورری مریہمہ، بیٰ (سفاح) نہ خوایہ و نہ کورری خوایہ.

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ﴾ ئہوی مجادلہ و مخاصمہ بکا لہ گہل توٰ ﴿فِيهِ﴾ لہ شہئنی (عیسی) ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ لہ ضمنی ئایاتی پیشوو.. پاش ئہو عیلمہ، کہ بوٰ ہات.. پەیا بوو، ادلہکان لہ ظہور بہ دہرہجہییکن، کہ مقصود لہوان چییہ، خوی بوٰ دئی و ہک علمی بدیہیہ، حاجت بہ توجہ، لیٰ کولینہوہ نییہ. ئہوانی مجادلن زور فرقہن:

گروہی ئہلین (عیسی) معاذاللہ محصولی زناہ، ئہوی لای وابی مادام
لہسہر ئہو فکرہ بی، قابل نییہ ئیمان بہ خاتم الرسل بینئ. اولاً ئہبی
سہعی بکریٰ لہ ازالہی ئہو فکرہ فاسدہ .

جہمعئ ئہلین کورری خواہیہ، یا خوا چوویتہ ناو مریہم، تکونی بوو بہ
(عیسی)، لہو سورہتہ تصریح بہو قسہ نییہ، ئہمما ئیشاراتی بو ہہیہ،
ذاتہن ئہو فیکرہ لہ زہمانی (عیسی) دا نا، بہلکو پاش وہفات و پرفعی ہاتہ
خیالات و اوہام. مضلہکان پاش ئہو علمہ قطعییہ، ئہبایہ ئہوانیش دەست
لہ خصام ہہلگرن، ئیمان بہ (عیسی) و بہ تو بینن، لہسہر ئہو حالہ
ئہگہر کہسیٰ مخاصمہ بکا بہچی ئہتوانئ مدافعہی بکہی؟

﴿فَقُلْ تَعَالَوْا﴾ بفہرموو بہوان وہرن مباہلہ و ملاعنہ بکہین، چونکہ ئایات و
بورہان بو ئہوانہ دەست نادا ﴿نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا
وَأَنْفُسَكُمْ﴾ تیکررا بانگی کوررانی خویمان، ژنانی خویمان و، خویمان بکہین،
ہہر کہس فرقی خوی کوہینہوہ. ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ﴾ دوعا بکہین. بیاریینہوہ
لہبہر خوا ﴿فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ﴾ ﴿٦١﴾ لہعنہتی خوی لہ
درؤزنان بکہین:

قسمی قذفی خوا ئہکەن، کہ (مریہم)ی (وہطئاندوہ)، قسمی قذفی
(مریہم) ئہکەن، کہ بہ زنا کورری بوہ. ئہو ملاعنہیہ، عیناً وەک (لعان)ہ،
مادام ئیوہ ئہلین ئہو ئافرہتہ مؤمنہیہ، بیئاگا و جزیہ تاعہت و عبادہتی
خوی دوور لہ توہمہت زانیہیہ.. فہرموونہ ملاعنہ. ئیمہ دەعوای بہرائہتی
خوا و مریہم و عیسی ئہکەین، ئیمہ (لعن) ئہکەین لہ درؤزنان، فہرموون
ئیوہش (لعن) بکہن لہ درؤزنان، لہ خاتمہوہ، تا ئہمرؤ لہ ئہمرؤوہ، تا ابد
موسلمانان لہعنہتی خوا لہ درؤزنان ئہکەن. الانیش ئیمہ بہ مندال و بہ ژنو
بہ پیایوی حاضرین (وہک دولوی، کہ معروفہ لہ ئہورویا) لہہر موقعی، کہ

تہلین مقدسہ جی قبولی دوعایہ، خررئہبینهوہ ملاعنه تہکین، چونکہ بہ یقینی تہزانین ﴿إِنَّ هَذَا﴾ تہوہی کہ ذکر کرا لہشہئی (عیسی) ﴿لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ تہمری حہقہ ثابتہ، مطابقی واقعہ، شائبہی دروی تیانیہ، بہ عقل و نقل مؤیدہ و مؤکدہ ﴿وَ﴾ برواییمان ہیہ بہ بورہانی قاطع، بی شک و شوبہہ ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ﴾ نیہ ہیچ (الہ) معبود خالق. کہس ادنی شبہہییکی بیی بہ الہ ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ لا ذاتی واجب الوجودی، واحدی احدی، بی والدو صاحبہ و ولد، خالقی اکوان، امری (کن فکان) حی وقیوم بی خہوو بورژان. رب العالمین مالک یوم الدین ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ عزیز الوجودہ، شہبہہی وی نایابہ، فہردی ممتازہ، بہ قوہتی غالبہ، بہ قودرہتی کاملہ، شاملہ.. صنعی تہو مہحکمہمہ منتظمہ، شوانی طبیعہتیش بہ علمی صناعتی تہو پیدای تہبی، با لہ ئیمہش بزربی ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ تہگہر اعراضیان نا، پرویان وہگیرا، ملاعنهیان نہکرد، دیارہ تہو فکرہ فاسدہ محضاً بو افسادہ، افسادی تہوان لہ خوا بزر نابی. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ تہمانہ وغیری تہمانہ اظہاری کہن، اضماری اموری خفیہی نفسیہ لہو بزر نابی.

﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ﴾ جوو و دیان و سائری میلہلی صاحب کتابی سماوی ﴿تَعَالَوْا اِلٰی كَلِمَةٍ﴾ وہرن پروبکہنہ بال قسہیی کورتو مختصر ﴿سَوَاءٌ بَيْنَنَا﴾ ریکو پیک لہ بہینی ئیمہ و ﴿وَبَيْنَكُمْ﴾ ئیوہ..

چ تاقدمان تہجاوزی لی نہکین. ﴿اَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اللَّهَ﴾ غہیری خودا عبادہتی کہس نہکین، نہ تماثل، نہ ارواح ﴿وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا﴾ ہیچ شہریکی بو پہیا نہکین، کہس نہکین بہ شہریکی تہو، نہ ہیچ لہ طبیعیات الحاق

بکہین بہ مقامی الوہیت، نہ خواش تنزل پی بکہین و بیہینینہ ریزہی طبیعیات، تہنہا تہوہ (فوق الطبیعہ)، ارواحی (مجرده) ش قبول نہ کہین، ﴿وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ کہ سمان کہ سمان بہ مدبر و مربی حساب نہ کہین. پٹاسہتی دین نہ کہینہ پربویہت.

الآن لہو عصرہ، کہ قہرنی بیستہمہ، دلین عصری علم و نورہ، بہ ہزارہا بہ شہر سجدہو پکوع بو (پاپ) تہ بن. ومن العجایب صاحبی موافق تہ فرموی: (حابطیہ)، کہ فیرقہ یکن لہ فیرقہ کانی موسلمانان، تہ بہ عہی (احمدی بن حابطن)، کہ لہ اصحابی (نظام) بووہ، تہ لین عالم دوو خوی ہہیہ، یہ کئی قدیم کہ (اللہ) یہ، یہ کئی محدث، کہ مسیحہ، بوہ تہ لین مسیح، چونکہ (مبدعی) اجسامہ.

فیرقہ ییکیش ہن (مفوضہ)، تہ لین: خوا خہ لقی دنیای تفویض بہ حضرتی (محمد) کردوہ. لام وایہ لہ پرمعی حابطیہ تہم قسہ تہ کہن.. تہ وانہ لاشک لہ (فرقی) اسلامیہ نین! پاش تہو دعوہ تہ منصفانہ، تہ گہر قبولیان کرد (فبہا) و (نعم)، وہ الا ﴿فَإِن تَوَلَّوْا﴾ موافقیان نہ کرد ﴿فَقُولُوا﴾

﴿أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ تہوہ شاہد بن، تہ دای شہادہت بکہن، کہ تہمہ موسلمانین، منقاد و مطیعی خواین، غیری تہو، کہس بہ (الہ) بہ (رب) نازانین، وہک ابو الرسل، کہ حہضرہتی (ابراہیم) دینمان فیطری بہ.

﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ﴾ بو مخاصمہ تہ کہن لہ گہل تہمہ ﴿فِي﴾

﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ دہریارہی حہضرہتی ابراہیم کہ تہ لین یہودی بووہ، دیان بووہ

﴿وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ﴾ بو موسی ﴿وَالْإِنْجِيلُ﴾ بو عیسی ﴿إِلَّا مِّن بَعْدِهِ﴾

دوای تہو ہاتوتہ خواروہ بہ زہمانی زور دوور ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦٥﴾ نایا

تہوہ تہ نافکرن؟ ناوی موسی و عیسی و تہورات و انجیل، لہ صفحہی عالم نہ بوو، حہضرہتی ابراہیم پوی کردبووہ خوی تاک و آلیہی سماوات و

ئه‌رز، مائل له ربّ و ادیانی باطله و منقاد و مطیعی خوی بوو، صورهت و تماثیلی مشرکانی ئه‌شکاند. ﴿ هَتَانْتُمْ ﴾ هائه‌وانه‌ن ﴿ هَتُوْلَاءَ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ مجادله و مخاصمه‌تان له‌وهی عیلمتان پی بوو کرد، جوابتان وهرگرت.

﴿ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ئه‌وا ئه‌و قهیدی نه‌بوو، بعضه کلماتی متشابه له ته‌ورات و انجیل هه‌یه خۆتان پی هه‌له‌تاند له‌و کتیبانه تلویحی، په‌مزئی، اشاره‌تی هه‌یه، که به علمی متبحرانه‌ی خۆتان لی‌ی استنباط بکه‌ن، که ابراهیم موسه‌وی بووه، یا عیسه‌وی، لاشک ئه‌وانه عالم بوون به تاریخ، و هه‌ر که‌س علی الاجمال ئه‌زانئ، که ابراهیم له موسی و عیسی کۆن تره به زه‌مان.

وه‌ک له پی‌شه‌وه زاناندرا وه‌ظیفه‌ی اسرائیلیان قلبی حقائقه، که‌تمی حقه، تلبیسی حقه. چهند سالی له‌مه‌وپیش شه‌ویک له مجلسی پیاویکی گه‌وره، جمعیک له سه‌رسپیان حاضر ئه‌بن، یه‌کیک سؤالیان لی ئه‌کا، ئه‌لی: حه‌ضره‌تی (موسی) مقدمه، یا حه‌ضره‌تی داود؟ بعضی ئه‌لین: هه‌یه‌وو داود گه‌لی مقدم بووه له (موسی). بعضیکیش ئه‌لین: نازانین، ئه‌و سائله سبه‌ی هاته‌لای من گوتی: کاکه مه‌لا! ئه‌مشه و شتی وا بوو، تۆچی ئه‌فه‌رمووی؟ گوتم ئه‌وانه هه‌روه‌کو ئاگیان له تاریخ نی‌یه، ئاگیان له قورئانیش نی‌یه.. له مه‌سه‌ئه‌له‌ی طالوت، که مه‌له‌ئی اسرائیلی طلبی علامه‌تیا‌ن کرد، نبی‌یه‌که گوتی: ئایه‌ت و سلطه‌نه‌تی ئه‌و ئه‌وه‌یه، که تابوتتان بۆ دیت و، که سکنیه و بقیه‌ی ته‌ره‌که‌ی آلی موسی و آل هارونی تیا‌یه و، له حه‌ربی طالوتی له‌گه‌ل جالوت، داود جالوتی کوشت و بووه مه‌لیک. مع الاسف مه‌له‌ئی کوردان زۆر له تاریخ ناشاره‌زان.

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ هه‌ر خوا ئیمه‌ی خه‌به‌ردار کردوه، ئیمه امیین، احتیاجیمان

به تعلیمی آلهی‌هیه ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (۶۶) ﴿نُيُوهَ وَ خَوْتَانِ گه‌وج کردیه، هیچ نازانن ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا﴾ ئە‌ی عبادی خوای، نُیُوه بزنانن ابراهیم جوو نه‌بووه ﴿وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ دیانیش نه‌بووه. ﴿وَلَكِنْ كَانَتْ حَنِيفًا مَّسَلِمًا﴾ مائل له عقائد و ادیانی بطلال، تسلیمی خوای بووه و، له شیعیانیش نه‌بووه ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (۶۷) ﴿پیش نبووه‌تیش له مشرکان نه‌بووه، موحد بووه ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ﴾ له هه‌موو که‌س اولی واقرب وانسب ﴿بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ له زه‌مانی حیات، تا زه‌مانی خاتم ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ محمدی اسماعیل، زیندو که‌ره‌وه‌ی شریعه‌تی ابراهیم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ له اتباعی ئە‌و پیغه‌مبهره صادق و ئە‌مینه.

بۆ پیغه‌مبهران نه‌سه‌ب دینه، قرابه‌تی خوین هیچ نی‌یه، ئە‌گه‌ر قرابه‌تی دینی نه‌بی. هه‌موو پیغه‌مبهران، خاصة خاتم الانبیاء، ئە‌وه‌نده‌ی ضرریان له خزمان دیت، ئە‌وه‌نده له بیگانان نه‌دیت. خزمانی قریشی تعویقی پیغه‌مبهران نه‌کردابا، گه‌لئ زوو دینی انتشاری ئە‌کرد، له‌و‌عالمه‌ی زور استفاده‌ی تریان له‌ه‌ضره‌تی ره‌سول ئە‌کرد ﴿وَاللَّهُ وَرَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۶۸) له‌ده‌وری هه‌موو پیغه‌مبهران، ئە‌گه‌ر خودا نه‌صره‌تی مؤمنانی نه‌دابایه، حفظی نه‌کردبان، له‌میانی دریا، دریای گرۆهی کفار مه‌حوو ئە‌بوون و، له‌وه‌له‌ه‌ پرووی (ولایتیه)، موسلمانان له‌تاریکی شرکو جووله‌که‌یی و دیانی حفظ ئە‌کات و، ئە‌یان با بۆ پرووی وحدانیه‌ت و میلیله‌تی ابراهیم و محمدی ﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ له‌جوو و له‌دیان ﴿لَوْ يُضِلُّوكُمْ﴾ ئاره‌زوویان هه‌بوو، وه ئاره‌زوویانه نُیُوه گومرا بکه‌ن ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ گومراه‌ناکه‌ن، الا نه‌فسی خویان نه‌بن ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (۶۹) شعوریان نی‌یه، که‌خویان

گومراہ ئه کهن . سرری عظیم هه یه بۆ ئه وانه ی، که القای شکوک و شبهات ئه کهن بۆ اغوای خه لکی، ئاگایان له خۆیان نییه، مه یلی افساد پروو له خۆیان ئه کا، نه فسی ئه وان ضال ئه بی، گوم ئه بی له میانه ی اوهام و خیالاتی ابلیسانه ئه بن به (سوفسطائی) صاحبی حکمهت و علمی مزخرف، گه لی له علمای عظیم عظیم تووشی ئه و مه یله بووین، ئاگایان له خونییه واتئ ئه گهن، که ئه و نه وعه سؤالانه له پرووی تحقیقاته وه ایراد ئه کهن، ئاخروایان لی دئی خۆیان ئه که ونه حیرهت و اشتباه ..

﴿ **يَتَّاهَلُ الْكِتَابَ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ** ﴾ ئه گه رچی ادعای ئیمان ئه کهن، ئه مماله حقیقه تدا ئیمان نییه . اصلاً ئه وه ی ئه لئین اله العالمینه به حقه ی الوهیهت تصدیقی ناکهن، له بهر کفر به ئایاتی کونیه، هه تا خواتان هینایته دهره جهی احقری حیوانات . حقاً ئه و کفرو جهاله ته ی، که له وانه صادر بووه هیهچ کافر، هیهچ (مشرک) دوچار ی ئه و کفره نه بووین . مشرک دهره جهی عالیان بۆ خوا داناوه، کهس ناگاته ئه و دهره جه، ئه سبابی چییه ئیوه نه ئیمان به ئایاتی عقلیه ئه هینن، نه به نقلیه . معجزات ئه که نه ئایه تی کفر، (مع انه) ئه وه زۆر دووره له ئیوه ﴿ **وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ** (۷۰) ﴾ ئیوه زانان ئه هلی کتاب بۆ زانین صاحب نظرو فیکرن، ئه توانن ته ماشای ئایاتی سماوات و ئه رز بکه ن . ﴿ **يَتَّاهَلُ الْكِتَابَ لِمَ تَلْسُونَهُ الْحَقَّ بِالْبَطْلِ** ﴾ بۆچی حه ق ئه گوررن، لباسی بطلانی له به ره ئه کهن ﴿ **وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ** ﴾ حه ق بزر ئه کهن ﴿ **وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** (۷۱) ﴾ وانییه ئه و تلبیس و کتمه، له سهو، یا له نسیان، یا غه له ته وه بی قصداً ئه یکه ن، قانزاجتان چییه له و اغوا و فه ساده ؟ ﴿ **وَقَالَتْ طَافِيَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** ﴾ ئه وان هه ی تانه کانیانن به تلامیذی خۆیان ئه لئین: ﴿ **ءَامِنُوا** ﴾ به ظاهری ئیمان بهینن ﴿ **بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا** ﴾ به و کتیبه ی،

که نازل کراوه ته سه ر ئه وانى، که ئیمانیان هیناوه ﴿وَجَهَ النَّهَارِ﴾ له اوهلی پوژ زوو مسارهه بکهن، (کانه) شه و خهوتان دیوه ئه مرتان پی کراوه، ئیمان بهینن ﴿وَأَكْفُرُوا آخِرَهُ﴾ له ئاخری پوژ انکاری بکهن، بلین ئیمه ئه هلی کتابین، تی ئی فکرین ئه وه له ته رهف خوا نیه اختلاقه، دیاره ئیمه تعصبمان نیه مقصودمان که شفی حه قه ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (۷۲) به لکوو موسلمانان کان ئه گه ریتته وه، مرتد ئه بن، ئه و مه کره ی ئیوه ته ئسیریان تی ئه کا. شریعه تی ئیسلامه بو سدی ئه و نه وه افسادو تزویره ئه مر ئه کا به قتلی مرتد. خوینی هدر ئه کا..

﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ برروا و وثوقتان نه بی به کهس، ئه مین مه بن له کهس، الا له و کهسه نه بی، که تابعی دینی ئیوه بووه، اظهاری ما فی الضمیری خو تان مه کهن. تعلیلی ئه و (نهیه) له سوپه ی (بقره) زاناندرا، لی ره له جوابدا ئیشاره ی بو ئه کا.

﴿قُلْ﴾ یا محمد! له په ددی ئه وان بلی: ﴿إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ﴾ خوا خوا ی هه موومانه، هیدایه تی بو هه موانه، خاص نیه به شعبی اسرائیلی، هیچ مانع نیه ..

﴿أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ﴾ هادی عباد عالمه به (ما فی الضمیری) ئیوه، بو ئه هلی ئیمان اظهاری ئه کا، اخفای ئیوه نابیتته حجاب له خواو، نابیتته مانع «ئه و ئایه ته لایان زور مشکله و تهفسیری گرانه» ﴿أَوْ بِحَاجَتِكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ خوا اعلامیان ئه کا به حجهت غالب ئه بن، به سه رئیوه. ئه وه جوابیکه مجمل ئیشاره ئه کا بو عیله تی جوابی مفصل.

﴿قُلْ إِنْ أَلْفُ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنْ حَسَنَةٍ لَّنَّاجِدَنَّ لَهَا مِثْلَ حَبِّ ظَلْمٍ﴾ فضلی مطلق به ده ست خواجه، به ده ست ئیوه نیه ﴿يُؤْتِيهِ مِنْ شَاءِ﴾ هه رکه سی بیی ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (۷۳) خوا واسع العطايه،

احاطه‌ی به همووش ت دایه، به قودرته و په‌حمته، علیمه به مصالح، به لایق، به رساله‌ت، به (ما فی الصدور)ی ئیوه، له خدمته (مفتضح) ئه‌بن ﴿يَخْصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ئه‌وه‌ش هر عائی ئه‌وه، به مه‌شیئه‌تی خویه‌تی، به خواهش و ئاره‌زووی ئیوه نی‌یه ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (۷۴) وافر، زوره به ئیوه که م ناکرئ، به‌ربه‌ست نابئ، خوی ههل ئه‌پژئی.

ئه‌هلی کتاب هه‌مووی وانین، بعضی انسانی باشیان هه‌یه ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقَنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ بعضی هه‌ن له ئه‌هلی کتاب، جوو، دیان، ئه‌گه‌ر به ئه‌مینی بزانی، قنطاریکی زیئر لا دانئیی به ئه‌مانه‌ت، ئه‌دای ئه‌کا پیته ئه‌گه‌ییئ، حریص نین بو مال خواردن به‌هانای نادۆزنه‌وه له‌به‌ر پاکی دلیان ئیمان ئه‌هینن، حه‌ق به‌رن. حه‌ق ده‌رن. (سیدی آلوسی) ئه‌فه‌رموئ به قنطار، قسه له‌قنطار کرا له پیشه‌وه.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ﴾ جوو، دیان، فه‌رقی نی‌یه، مه‌گه‌ر به قیلله‌ت و کثره‌ت. دینار کلمه‌یه‌کی عه‌ره‌بی نی‌یه، معرّبه اصلی (دنار)ه به شده‌ی نوونه، که .. نوونی کراوه به بی، نابینی جمعی ئه‌که‌ن به دنانیر. له مالک بنی دینار نه‌قل ئه‌که‌ن، دینار له دین و نار، یه‌عنی ئه‌وی به حه‌قی خوی وهرگرئ، دینیته‌تی. ئه‌وی به غه‌یری حه‌ق بی‌ستینئ، ئاگره. بوئه (سیدی ئالوسی) ئه‌فه‌رموئ: (لعله) ابدای ئیشاره‌ی صوفیانه‌یه له لفظ، نه‌ک مدلولی ئه‌وه بی وه‌ک بز نابئ له‌سه‌ر که‌س، که مالکی ده‌ره‌مئ بی له عه‌قل. فضل له که‌سئ مالکی دیناری بی. حقیقه (سیدی ئالوسی) زور مه‌لایه. زور قسه خوشه ﴿لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ نات داته‌وه ﴿إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ الا وه‌قتئ دائماً له‌سه‌ر سه‌ری پاره‌ستی، مه‌له‌تی نه‌ده‌ی، یعنی به جبر ئه‌بئ بیستینی‌یه‌وه، وه الا به خواهشی خوی نایدا، که‌سئ ئه‌وه‌نده حریص و لیم بی، قه‌ت ئیمانی نابئ.

﴿ذَلِكَ﴾ بۆ چی یە ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْتِنِ سَبِيلٌ﴾ چونکی ئەوان ئەلێن: لە خواردن، لە وهزعی دەست بە سەر مائی (أَمِيان)، که عەرەبن، پیمان لە سەر نییە، بی عتابه. بی ذم ولومه یە ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ افترا بە خوا ئەکەن، ئەلێن ئیمە (شعب الله) ین دنیا بۆ ئیمە یە، خەلکی دی وهک حیواناته، مهگەر حەقی له وهزری هه بی. ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (۷۵) ئەشزانن درۆ ئەکەن.. خوا مالک الملکه، رب العالمینه (ما فی الارض) ی بۆ به شهر خەلق کردیه. اسرائیلی و سماعیلی و هی تر، فەرقیان نییە. ئەو قسه له بهینی ساداتی ئیمە، وهک ساداتی ئیسرائیل خولقاوه. حاصلی، هەر قهومه غهیری کوردان، ئەلێن: ئیمە حسابین و، ئیمە لای خوا خۆشه ویستین و، دنیا بۆ ئیمە یە. ﴿بَلَى﴾ ئەو قسانه واز بینن ﴿مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ﴾ هەر عهدی بی. فرۆشتن. ئەمانهت. پههن. اعاره. استعاره ﴿وَأَتَقَى﴾ له اعتقادیات. له عملیات خۆی له شتی خراب بپاریزی ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (۷۶) ئەگەرچی له دۆم دابی. ئەوهی وهفای نه بی، خۆی نه پاریزی، خوا خوشی ناوی، ئەگەرچی له صلبی ابراهیم و موسی و محمد بی ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ ئەوانه به شو نصیبیان له ئاخرهت دا نییە ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ خوا ئەوهندی رق لیان ئەبیته وه، أصلا قسه یان له گه ل ناکا، ههتا بهو نهووعه، که قسه ی له گه ل ابلیس کردووه ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ته ماشایان ناکا له پۆژی قیامهت. له لطف و مەرهمه تی محرومن ﴿وَلَا يُرَكِّبُهُمْ﴾ له گوناھیان پاک ناکاته وه به عفو ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۷۷) هەر که سی بی، له هەر کهس بی ﴿وَإِنْ مِنْهُمْ﴾ له وانه به دتر ﴿لَفَرِيقًا﴾ چ فەریقی خاین؟! ﴿يَلُونِ السِّنْتَهُمْ﴾ زویانی خویان ئەپیچنه وه

وهك كلكى حوشتەر، هه ره كه ی پئی ئه دهن ﴿بِالْكِتَابِ﴾ (گلدو فلدو) یه كئی به له هجه ی خویندنه وه ی كتابی آلهی ئه كه ن، ئه لئین: ئه وه كتابی منزله .

﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ ئه و تزویره ئه كه ن، تا ئیوه ئه و (لولوی) ئه وان له كتبی مقدسه حساب بکه ن، چونکی ئیوه (امیین)، هه لئان ئه خه له تینن ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ حاشا ثم حاشا ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ئه لئین ئه مه وه حی سه ره به خو یه ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ته ماشای کتیبه مقدسه کان، تواریخ و حکایاته .. ئه م ما علی الاکثر، بی ئه صل و ئه ساسه .. ئه شلین ئه وانه کتبی ئیلاهی، عهدی قدیم و جدیدن .

له سه ره تای ظهوری (شه ده له) بی یه کان، کابرایی مل قه وی، ریش پان و ورگ ئه ستور، فلته فلته ئه کرد، ئه یان گوت ئه مه قورئان ئه خوینی، به که رامه تی شیخ، هه ر (۳۰) جزوی قورئانی هاتیه به ر. سه رسپی یه کان ئه یان گوت: ئه مه سوربانییه، ئه مه ش نتیجه ی که رامه ته ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبِ﴾ انواعی درؤ ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (۷۸) ئه زانن درؤیه .. جه نابی حه ق ئه و

نه وعه که سانه ی چۆن خو ش ئه وی؟ ﴿مَا كَانَ لِشَرِّ﴾ ئه مه نه بووه و نابی، مادام (شمه) بیکی له به شریه ت تیا بی ﴿أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ﴾

تشریعی، یان قضائی ﴿وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ﴾ له پاش ئه و انعامه عظیمه

بلی له جیاتی (دعوة الی الله) .. ﴿كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من بپه رستن

له خوا بگه رین، ئه مه چۆن ئه بی؟ نه له خوا ئه وه شیته وه، ئه و نه وعه که سه

بکا به په سولی صاحب کتیب و حکم .. نه له و نه وعه به شه ره دی ﴿وَلَكِنْ﴾

ئه مریان ئه کاتئ ئه فه رموی: ﴿كُونُوا رَبَّيُنَا﴾ ببنه مرّبی . مدبر . فقیه . (داعی

الی الرب تعالی و تقدس) ﴿بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ﴾ چونکی ئیوه تعلیمی

کتابتان کرد ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ (۷۹) ئیوه تدریستان ئەکرد، هەم عبارت، هەم مەعنا هەم حقائق و دقایقتان ئەزانی و فییری خەلکی ئەکرد، چۆن ئیوه افترا بە پیغەمبەری ئەکەن، کە دەعوەتی ئیমে بو خۆی کردوو، ئەگەر راستبەکن ئەوانی تکفیر و لەعنی ئەو شخصەیان کردی یە (محقن) ..

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ (مع انه) ئیوه نەسبەتی خەلق و ایجاد بو ئەوانە ئەدەن، کەسێ وابی کافرە، مشرکە چۆن ئەبیتە پیغەمبەری خوا. انبیا هەرچی هەبن بەشەرن، هیچ امتیازیان لەسەرئیوه نیە. ملائکەت لە صفحاتی کائات، دەلیلی لەسەر وجودیان نیە، چۆن اتخاذ ئەکرین بە خوا و عبادەت ئەکرین؟

﴿أَيَأْمُرُكُمْ﴾ ئەو پیغەمبەرە، ئایا ئەمرتان ئەکاتی ﴿بِالْكَفْرِ﴾ بە کفر کردن ﴿بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (۸۰) پاش ئەو، کە ئیوه موسلمان بوون و مطیع و منقادی خوا بوون. خواتان ناسی، مەلەک چی یە؟ پەسول کئی یە؟ چۆن ئەو شخصە ئەو ئەمرە ئەکاتو، بالغرض ئەو ئەمرە بکات، ئیوه چۆن برروای پی ئەکەن، و مطیعی ئەمری ئەبن، بە بورهان معلومه ئەوە ممکن نیە.

بزانین ئەوانە ی خوا ئەیانکا بە پەسول، دەربارە یەک، چی یان پی ئەمر ئەفەرموی: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ هەموو یەکیک لە ئەوان ﴿لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾ بە سویند و پەیمان بەو شەرتە ئەووی ئەدەمە ئیوه. لە کتاب و حکمەت ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ﴾ پاشان هاتە لای ئیوه پیغەمبەری مصدق و مؤید لە بو ئەووی کە لەگەڵ ئیوه دایە ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَتَنْصُرُنَّهُ﴾ چۆن ئەو ئیمانی بە ئیوه هینا و تاییدی ئیوه ی کرد. حاصلی هیچ کەس لە پیغەمبەران دەعوای حصری رسالەتی لە خۆی نەکردوو و لە زەمانی هەر پەسولێ پەسولیکی دی هاتبایە ئیمانیان بەیەک ئەهینا، نصرەتی یەکیان ئەدا أصلاً تفرقه لای وان

نیہ ﴿قَالَ أَقَرَّرْتُمْ﴾ گوتی اقرار و اعترافتان کرد بہو میثاقہ ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ اِصْرِي﴾ میثاقی منتان لہ ئوممہتہکانی خۆتان لہسہر ئہو تہرزہ وەرگرت؟ ﴿قَالُوا﴾ پیغہمبہرہکان و ئوممہتہکان گوتیان ﴿اَقْرَرْنَا﴾ اعترافمان کرد بہو عہدو میثاقہ ﴿قَالَ﴾ جہنابی حق فہرموی ﴿فَاشْهَدُوا﴾ حفظی ئہو عہدہ بکہن لہفکرتان نہچی. ﴿وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿۸۱﴾ ذاتن ہیچ شت لہ خوا بزر نابی. ﴿فَمَنْ تَوَلَّىٰ﴾ ئہوی اعراض بنی لہو عہدہ ﴿بَعْدَ ذٰلِكَ﴾ لہ پاش ئہو اعترافہ ﴿فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ ﴿۸۲﴾ خارجن لہ طاعت، بہدرؤ ئہلین ہر ئہوہ پیغہمبہرہ، ئیمان بہ کہسی تر مہہینن ﴿اَفْغِيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ﴾ ئہو فاسقانہ ئایا غہیری دینی خوا طلب ئہکہن، ئہوہ محالہ، مع انہ ئہلین: ئیمہ مؤمنین. معترفین بہ نبووت، دیارہ مقصدی ئہوان عصیان و تجبرہ لہ سہرخوا، ئہمہ چۆن ئہبی؟

﴿وَلَهُۥٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا﴾ ئہگہر مہسئہلہی (من) و (ما) لیبگہرری، معنای ئہو ئایہتہ زۆر جوان دیارہ. جہنابی حق دوو ئہمری ہہیہ: یہکئی تکلیفی، یہکئی تکوینی، مخالفہی ئہمری تکلیفی ممکنہ و واقعہ.. ئہمر بہ نویژ، بہ پۆژوو، ئہمری ئہوہ گہلئ کہس لہ ئہہلی ئیمان نایکہن، ئہمہش چ عجزی خوی تیدانییہ، چونکہ احکامی فرعیہ بۆ افعالی عبادت، لہ جہت اختیار غایہتی مقابلی ئہو مکافات و مجازاتہ. ئہمما ئہمری تکوینی مخالفہ ناکرئ، چونکی ئہو عبارتہ لہ توجیہی قودرت و ارادہ بۆ کردنی شت.. ئہگہر مخالفہ تصور بکرئ، ئہبی تصووری عجز بۆ خوا بکرئ، ئہوی لہ ئہرز و ئاسمانہ.. ہہتا نہفسی ئینسان یہکئکہ لہ مکوناتی ترکیبی ئہو موالیدہ، کہ لہ بعضی عناصرہ، ئہو عناصرہی، کہ ئہصلی مرکباتن بعضیک لہگہل بعضیک زۆر بہمہیلی طبیعین..

ئەلئى عاشق و معشوقى يەكن، غايەت بە سەولەت امتزاج ئەكەن و بعضى لەگەل بعض متباين و متنافرن، بە قودرەت و قووەتئكى قاھرە نەبئ، تاليفيان لە بەينا نابئ، روح و جسمى لطيف، يا جوهرى مجرد لەگەل بەدەن، چەند لەيەك دوورن .

ئاگر وگل بە قورسى و سووكى، چەند متنافرن لەگل و ئاو بە نظر ساردى چەنن متباين .. صانعى معملى كيمياى موجودات، بەعلم و قودرەت و، تدبيرى صانعانه، چۆن پئكى خستوون .. موالىدى لئ پەيا كردوون، كەسئك ئيمانى تەواوى بە خوا هەبئ و، كەمئك لە احوالى موجوداتى طبيعىە بگات و، بزائى بعضه طبيعىات چەند سەركەش و طاغىه؟! چەندە عاصىه، بە چ قووەتئ، بە چ عىلمئ تەسخير كراوه، بە كەمالى سەولەت اطاعەى ئەمرى تكلىفى ئەكات . ذاتەن قووەتى ئيمان، نەفس و قوواى حيوانى رام ئەكا، بۆ امتئالى ئەمرى تشرىعى .

كەوايە ئئوه ئەى ئەهلى كتاب! چۆن دىنى غەبرى دىنى خوا، بكا طلبى ئيلاهى غەبرى خوا ئەكا ﴿وَالَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (۸۳) ئەى ئەهلى كتاب! تقدبرى اشارەمان بۆ كرد پئى ناوئ . ئەوه عەد و پەيمانى پئغەمبەرانى، ئئتر كئى دى بە (اله) بە (رب) ئەزانن . لە قرائەتى غبرى عاصم (يرجعون) بە ضمبرى غائب . بناء عليه حاجت بە التفات نئيه، ئەو تقدبرى اشارەمان بۆ كرد پئى ناوئ . ئەوه عەد و پەيمانى پئغەمبەرانى پئشوو، عەدو مئثاقى ئئمه چئيه؟

﴿قُلْ﴾ ئەى خاتم الرسل لە تەرەف خووت و ئوممەتت ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ بئى شك و بئى گومان و شەبەهو تشبىه و تشابه ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾ ئەوى لە تەرەف خودا بۆ ئئمه ناردرايئ، باوهررى پئ ئەكەين، ئيمانمان بەكئفئەتى تكوئى (عيسى) ، يەكەم دەليله لەسەر بە (ما انزل علينا) ..

﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ يوسف

وغیری وی، تا زہمانی موسی ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾ له کتاب و له معجزات ﴿وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ئەوی دراوہتہ ئەنبیایان ہەرچی ہەبئ، ہەرکەس بئ، بئ تفریقی جنس .

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ به تصدیقی بعضیک و، به تکذیبی بعضیک ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿۸۴﴾ ئیمہ تہسلیمین بۆ خوا، پوحی اسلامیہت استسلامہ بۆ خوا، ئەوی موسلمان بئ بۆ غیری خوا، گہردن دادہی اطاعت و عبودیت نابئ، بۆ کہس (مذلت)ی استعباد قبول ناکا ..

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ دین دینی ئیسلامہ، غیری ئەو (کہ حقیقہ دینی بنای لەسەر علم و عقل و حریتە بەشەرہ) ہیچ دینی تر نیہ، له وەقتی ہەشبووبئ گۆرراوہ . ہەتا دینیان کردۆتہ مہیلیکی نہفسی ہەرچۆئ بئ . بہئ، مہیلی نہفسی ، ئەمما نہ مہیلی (بہائی) ، نہ مہیلیک، کہ بالکلیہ شەرہفی بہشەر مہوو بکا . کہسئ دینی غیری دینی ئیسلامی بوئ، لئ قبول ناکرئ .. چونکی نیہ! ئیتر چی لئ قبول بکرئ؟

﴿وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿۸۵﴾ خەسارەت مەند، خانە خشتور، خویان لە قیس خۆیاندا، ئەوانی تریش نہہاتنہ فریادیان ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ کہسئ اصلاً کافرئ، ہیدایەت پەزیر ئەبئ، ئەمما ئەوانی پاش ئیمان ہینان و کتاب خویندن و تدریس کردنی، کافرین قابلی ہیدایەت نین، خوا چۆنیان ہیدایەت بدا، له دائرہی امکانی استعدادی دەرچووین . ﴿وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ﴾ وەک دیان لە ئەوہلہوہ شہیدیان ئەدا لەسەر پسالەتی (عیسی)، دوایی کردیانہ کوپی خوا، پاشان کردیانہ خوا .. ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ لەسەر حقیقەتو وحدانیەتی خوا، پسالەتی ئەو

پیغہمبہرہ، چوں ئیمان بہ حہضرہتی خاتم ئہہینن ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿۸۶﴾ قہومیک طغیانیان کرد، لہ حد چوونہ دہر، خوا ہیدایہتیان
 نادا، بہ لکو بہ نظر قووتی ظلمیان، خوا زیاتر لہ کفریان پووئہباتہ خوارہوہ .
 ئینسان سہعی بؤ ہر شتی بکا، استعدادی خوئی بہ قووت بکا، خوا بہو
 گویرہ پیئی ئہدا . کہسی تعلیمی زورنا لیدان بکا، خوا عیلمی کیمیای بؤ
 نانیری ﴿ **أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ** ﴿۸۷﴾
 چونکہ ئہو ئیمانہی ہہیانہ، نہ ئیمانہ بہ خودا.. نہ ئیمانہ بہ ملائکہت، نہ
 ئیمانہ بہ پیغہمبہرہ، کہ ئہوان و سائری ناس، ہہتا ئہوانی پییان
 ہہلخہلہتاون، (لعنیاں) ئہکہن.. ہہمووکہس ئہلی: لہعنہت لہ ظالمان،
 لہعنہت لہ کافران، لہعنہت لہ ریگورران .

﴿ **خَالِدِينَ فِيهَا** ﴾ لہو لہعنہتہ دہرناچن ﴿ **لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ** ﴾ ہہرگیز
 عہذابیان لہسہر سووک نابی، بہادنی سووکبوون ﴿ **وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ** ﴾ ﴿۸۸﴾
 مہلت نادرین، تہماشنا کرین، مہرحہمہتیان پیئناکری ﴿ **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا** ﴾ وہک لہسورہتی (بقرة) عہرضکرا . ئہوہ قہت نابی،
 غایہتی مقصد ئہوہندہیہ، خوا دہرگہی مہرحہمہتی خوئی لہکہس ناگری،
 باگوناہی لہ ئہندازہ بہدہری، کفری لہ غایہتی (غلظتہ دابی) ﴿ **فَإِنَّ اللَّهَ
 عَفُورٌ رَحِيمٌ** ﴾ ﴿۸۹﴾ ئہمما بہ نظر ئہوانی دواپی بالکلیہ لہ دائرہی امکان
 نہ چووینہ دہر..

﴿ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا** ﴾ کہ لایان وایہ ئہتوانن
 عہفوسوی گونہ بکہن و، خہلکیش باوہریان پیئئہکا وہک (پاپ) و
 ئہوانہی (صک الغفران) یان بؤ ئہبرن ﴿ **لَنْ نُقَبِّلَ تَوْبَهُمْ** ﴾ ئہو توبہی ئہیکہن

لای خوا قبول نییہ، بہ لکوی نہ فسی توبہ کہ زیادہی فی الکفرہ ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾ ۹۰ ﴿تہوانہ وا پوچوین لہ (ضلال)، کہس بہ (ضال) حساب نییہ، تہمما مضلہکان تہوانہ توبہیان بہ دلدا نایی. خویان (توابن) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ کافرہون و بہ کافرہ مردن ﴿فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾ ظاہر وایہ تہرزی قیامت مقصود بی، کہ تہوہندہ گورہ تہبی، جئی کائناتی لہسہر تہبتہوہ ﴿وَلَوْ أَفْتَدَىٰ بِذِهِ﴾ بالغرض، بالفعل بیکاتہ (فدیہ) لئی قبول ناکری. وہلی تہفامریتہوہ دلایان زور پیوہیہ، عذاب قبول تہکەن، تہمما مالیان لہ قیس نہچی! تہمہ بو مثالی پایہکانہ، بہہشت تہفرۆشن، جہہندہم تہکررن.. مالیان زورہ، با فدیہ بدەن، چۆن خہ لکیان کررییہوہ، با خویان بکررنہوہ ﴿وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بہلام برروایان بہ عذاب نییہ ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ﴾ ۹۱ ﴿کی نہصرہتیان تہدا؟ خویان ناصرومنجی ہون!! (حقیقہ) رۆسای دین، تہمرو زور مال ویرانن، لہبەر حبی دونیا ناگیان لہ ئیمان بہ قیامتو عذاب نہماوہ، بہ جہل خویان مغرور کردوہ.. ئومہتیش وەک حەیان (لا یعقل) تہسلیمیان ہووہ (نعوذ باللہ من غضبہ وعقابہ).

جزئی سئیه م له ته فسیری کوردی ته واوبوو، شهوی
جمعه، چواره می ماهی صفر الخیر، پینجه می مایسی
پۆمی ١٣٥٢ هجری، ١٩٣٤ میلادی
نوسینه وهی به تمیز ته واوبوو له پۆژی شه مو
وه قتی نیوه پۆ بیستو پینجه می مانگی محرم الحرام،
نوزدهی آبی پۆمی، یه کی ایلولی افره نجی ١٣٧٦ ه،
١٩٥٦ له دهستی خادمی علم، احقری عباد،

معصوم ملا خضری هه ورامی

ناوه‌پۆکی به‌رگی یه‌که‌م

۷ قسه‌ی بلاوکار
۱۱ وته‌ی لیژنه‌ی سه‌رپه‌رشتیکردن
۱۵ پیناسه‌ی ته‌فسیره‌که
۱۹ کورته‌ی ژیان و به‌سه‌ر هاتی مه‌لای گه‌وره
۲۵ پیشه‌کی
۲۷ سوپه‌تی فاتیه
۳۷ سوپه‌تی (بقره)
۳۳۷ سوپه‌تی (ال عمران) (۱- ۹۱)